

محرم الحرام


عمل سے

زندگی گنتی ہے

اللہ

اللہ

اللہ



حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی عظیم

فقرِ صلاح الدین سیفی نقشبندی

اُتاروا العلوم فلاح دارین ترکیبہ سورت گجرات انڈیا

# عمل سے زندگی بنتی ہے

محبوب العالما والصالحا

(از افادات)

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی  
مجددی مدظلہ

(مرتب)

فقیر صلاح الدین سیفی نقشبندی

استاذ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر، سورت، گجرات

مکتبہ الفقیر

222 سنت پورہ فیصل آباد

ناشر



+92-041-2618003

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

نام کتاب ..... عمل سے زندگی بنتی ہے

صاحب خطبات: ..... حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم

مرتب: ..... مولانا صلاح الدین سیفی مدظلہ

(ترکیسر، ضلع سورت، گجرات، انڈیا)

مکتبۃ الفقیر  
223 سنت پورہ فیصل آباد

ناشر:

اشاعت اول: ..... جنوری ۲۰۰۶ء

اشاعت دوم: ..... مئی ۲۰۰۶ء

اشاعت سوم: ..... اکتوبر ۲۰۰۶ء

اشاعت چہارم: ..... اپریل ۲۰۰۷ء

اشاعت پنجم: ..... دسمبر ۲۰۰۷ء

اشاعت ششم: ..... جون ۲۰۰۸ء

اشاعت ہفتم: ..... اپریل ۲۰۰۹ء

تعداد: ..... ۱۱۰۰

مکتبۃ الفقیر

223 سنت پورہ فیصل آباد

Tele.Ph. 041-2618003

اللہ اللہ اللہ

## ..... کتاب سے پہلے .....

الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى ..... اما بعد  
 زیر نظر کتاب ”عمل سے زندگی بنتی ہے“ حضرت والا پیر ذوالفقار احمد  
 صاحب نقشبندی مدظلہ کے ان خطبات کا مجموعہ ہے، جن میں حضرت نے نیک  
 اعمال کے فوائد اور اعمال بد کے نقصانات، نیز اعمال صالحہ کی ترغیب اور اعمال  
 شنیعہ سے اجتناب کی ترغیب دلائی ہے، اگر بندہ اخلاص کے ساتھ انکو پڑھ کر عمل  
 شروع کرے تو ابدی زندگی کے لئے توشہ آخرت بخوبی تیار کر سکتا ہے۔  
 لیکن افسوس .....! آج دنیا کے لامتناہی جھمیلوں میں الجھ کر ہم فکر آخرت  
 سے غافل ہو گئے ہیں، جس کا نتیجہ یہ کہ دل ویران، راتیں سونی، اور آنکھیں خشک  
 ہو گئی ہیں۔

آج جب کہ راتوں کو گرم گرم آنسو اور سرد سرد آہیں بھرنے والے اکابرین  
 پے پے اٹھتے جا رہے ہیں، ہمیں چاہئے کہ موجودہ اکابرین امت کی قدر کر لیں  
 اور خون دل میں ڈوبی ہوئی انکی نصائح پر عمل کر لیں، کریم رب کی ذات سے  
 امید قوی ہے کہ اللہ رحم فرمادیں گے۔

زیر نظر کتاب کی تیاری میں اس عاجز کا جناب الحاج یونس سلیمان اور  
 شاہنواز بھائی راوت صاحب دامت برکاتہما نے جو تعاون فرمایا یہ فقیر دل کی  
 گہرائیوں سے انکے اور انکی نسلوں کے حق میں دعا کرتا ہے۔

اللہ رب العزت حضرت والا کے سایہ عاطفت کو ہم کمزوروں کے سر پر  
 تادیر قائم دائم رکھے اور آپ کے فیض کو سلامت باکرامت رکھے آمین۔

فقیر صلاح الدین سیفی نقشبندی عفی عنہ

كان الله عوضا عن كل شيء

# خطبات ایک نظر میں

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر
۵	وقت کی قدر کیجئے	۱
۳۳	روز جزا	۲
۶۷	گناہوں پر دنیا میں سزا	۳
۹۱	گناہوں کے دنیا میں نقصانات	۴
۱۳۱	گناہوں کے آخرت میں نقصانات	۵
۱۶۵	خشیت الہی	۶
۱۸۹	نیکی کا دنیا میں فائدہ	۷
۲۶۱	مطالبہ دعا	۸
۲۷۵	نیت کی اہمیت	۹

# وقت کی قدر کیجیے

## از افادات

حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی دامت برکاتہم

﴿لوسا کا مسجد نور ایم ایسڈل ۱۴۲۳ھ مطابق ۲۰۰۳ء﴾

اس بیان میں حضرت نے معتمدین کو وقت قدرنی کرنے پر زور دیا

## فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	نمبر
۹	ایک واقعہ	۱
۱۱	جسم ادھار کا مال ہے	۲
۱۲	اجر باقی رہتا ہے	۳
۱۲	انسانی وجود کی مثال	۴
۱۳	اللہ والوں نے وقت کیسے گزارا؟	۵
۱۶	آج بھی کیسے کیسے موجود ہیں؟	۶
۱۷	وقت کی قدر کریں	۷
۱۷	حقیقی زندگی کونسی؟	۸
۱۸	آخرت کی تیاری کی فکر	۹
۲۰	جنتیوں کی حسرت	۱۰
۲۱	پانچ چیزوں کی قدر کریں	۱۱
۲۲	آج کے دور کی پانچ خامیاں	۱۲
۲۳	قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟	۱۳
۲۶	ایک سنہری بات	۱۴
۲۶	حضرت تھانویؒ کا طریقہ علاج	۱۵
۲۸	نماز کیسے پڑھیں؟	۱۶
۲۹	ایک واقعہ	۱۷



## اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اقتباس

دینی کام کرنے والوں کے لئے  
ایک حسین نمونہ عمل

(۳)..... امام ابو یوسفؒ وقت کے چیف جسٹس تھے، عالم اسلام کے اپنے زمانہ میں سب سے بڑے قاضی تھے، وہ سارا دن دین کا کام کرتے جب رملت ہوتی تو ہر رات میں دو سو رعت نفل پڑھا کرتے تھے اتنے مصروف بندے اور رات کو اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے انہوں نے دین کے لئے اپنی زندگیاں کیا خوب گزاریں۔

﴿ارشاد فرمودہ﴾

حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب مدظلہ



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ.....!

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
﴿اَنْ طَهَّرَا بَيْتِیْ لِلطَّائِفِیْنَ وَالْعَاكِفِیْنَ وَالرُّكَّعِ السُّجُوْدِ﴾

وفی مقام آخر

﴿وَمَا تَوْفِیْقِیْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَیْهِ تَوَكَّلْتُ وَآلِیْهِ اُنِیْبُ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

رمضان مبارک کی اکیسویں رات ہے اعتکاف کا وقت شروع ہو چکا پہلی مجلس میں کچھ ہدایات دیں جائیں گی کہ ہم اپنے وقت کی اہمیت کو پہچانیں ہم اپنی بے علمی اور بے عملی کے ساتھ آج اس دور میں زندہ ہیں جس دور میں پیدا ہونے سے ہمارے علم اور عمل والے بزرگوں نے اللہ کی پناہ مانگی، وہ ہمارے بزرگ وہ اسلاف، جو علم والے تھے اور عمل والے تھے وہ اس دور میں پیدا ہونے سے اللہ کی پناہ مانگتے تھے، آج ہم اپنی بے علمی اور بے عملی کے ساتھ اس دور میں زندہ ہیں، یہ اللہ رب العزت کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے دنیا کے جھمیلوں سے نکال کر اپنے گھر میں آکر بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ﴿ذٰلِکَ فَضْلُ اللّٰهِ یُؤْتِیْهِ مَنْ یَّشَاءُ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِیْمِ﴾ آج کل ہماری حالت اتنی بگڑ چکی کہ معاشرے کے اندر جو اخلاقی اقدار موجود ہونی چاہئیں تھیں وہ نظر نہیں آتیں سچی بات تو یہ ہے کہ درندوں نے انسانوں کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا آج کے انسانوں نے انسان کو نقصان پہنچایا، خواہشات کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے

## قیدی ہیں

ایک ہجوم اولاد آدم کا جدھر بھی دیکھئے  
دیکھئے ہر طرف اللہ والوں کا کال  
یوں دیکھو تو ہر طرف بھیڑ نظر آئے گی اللہ کے بندے ڈھونڈنے لگو تو کوئی  
ایک جا کر ملے گا۔

## ایک واقعہ

حضرت مولانا احمد لاہوریؒ اپنے درس قرآن میں ایک عجیب واقعہ سنایا کرتے تھے فرماتے تھے کہ میں بازار جا رہا تھا، مجھے ایک بزرگ نظر آئے انکے چہرے کی نورانیت بتاتی تھی کہ یہ کوئی صاحب نسبت آدمی ہیں، میں نے قریب ہو کر سلام کیا انہوں نے مجھ سے پوچھا احمد علی انسان کہاں رہتے ہیں؟ فرماتے ہیں، میں نے ارد گرد دیکھا بازار بندوں سے بھرا ہوا ہے میں نے کہا حضرت یہ سب انسان ہی تو ہیں، یہ بات سن کر انہوں نے عجیب سے انداز میں ایک نگاہ دوڑائی اور کہنے لگے یہ سب انسان ہیں؟ انکے کہنے میں کوئی تاثیر ایسی تھی کہ مجھ پر ایسی کیفیت ہوئی کہ مجھے بازار کتے بلی اور جانوروں سے بھر نظر آیا ان میں کوئی کوئی خدا کا بندہ تھا، جب میری یہ کیفیت ختم ہوئی وہ بزرگ چلے گئے تھے، حضرت یہ واقعہ درس قرآن میں سنا کر فرمایا کرتے تھے

اللہ تو سب کا ایک، اللہ کا کوئی ایک

ہزاروں میں نہ ملے گا، لاکھوں میں تو دیکھ

تو سچی بات تو یہی ہے کہ سو فیصد شریعت پر عمل کرنے والے آج کے دور میں بہت تھوڑے لوگ ہیں، دائیں بائیں آگے پیچھے جدھر بھی دیکھو بس خواہشات کی دنیا ہے، جسم بوڑھے ہو رہے ہیں آرزوئیں جوان ہو رہی ہیں،

رات دن ہوں محو تن آرائی و تن پروری

وائے نادانی اسی کو زندگی سمجھا ہوں میں

آج کل کی عدالتیں انسانوں سے بھری ہوئی ہیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دلوں میں عداوتیں بھری ہوئی ہیں، جب عداوتیں دلوں میں بھرتی ہیں تب عدالتیں انسانوں سے بھرتی ہیں، ایسے وقت میں اللہ رب العزت کی یاد کے لئے وقت فارغ کر لینا یہ اللہ رب العزت کی بڑی مہربانی ہے اور اسی میں سکون ہے اور اسی میں دل کا علاج ہے۔

نگاہ ابھی ہوئی ہے رنگ و بو میں

خرد کھوئی ہوئی ہے چار سو میں

نہ چھوڑے دل فغان صبح گا ہی

اماں شاید ملے اللہ میں

مقصود یہ ہے کہ ہم دورنگی کو چھوڑیں اور یک رنگی زندگی کو اختیار کریں یہ جو ایک چہرے پر ہم دو چہرے سجا لیتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسندیدہ ہے

دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا

سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا

اسی لئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمادیا ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ اے ایمان والو! اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، اب غور کرنے کی بات ہے یہ کافروں کو تو نہیں کہہ رہے کہ یا ایہا الذین کفروا، مشرکوں کو بھی نہیں کہہ رہے کہ یا ایہا الذین اشركوا، منافقوں کو بھی نہیں کہہ رہے کہ یا ایہا الذین نافقوا و منافقو، کن کو کہہ رہے ہیں یا ایہا الذین آمنوا اے ایمان والو اور حکم کس بات کا دے رہے ہیں آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لے آؤ کیا مقصد؟ اے زبان سے اقرار کرنے والو اپنے دل سے بھی اسکی تصدیق کر دو۔

تو عرب سہ یا عجم ہے تیر لا الہ الا

لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی

جب تک دل گواہی نہ دے گا تب تک یہ قبول نہیں ہوگا۔

خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل

دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں

یاد رکھیں باہر مسجد بنانا آسان اندر مسجد بنانا بڑا مشکل کام یہ دل بھی تو مسجد ہے نا، حدیث پاک میں فرمایا گیا نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نہ میں زمینوں میں ساتا ہوں نہ آسمانوں میں ساتا ہوں، میں مومن بندے کے دل میں ساتا ہوں تو یہ ہمارا دل بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے قلب عبد اللہ، عرش اللہ ہے یہ اللہ کا گھر ہے تو پھر اس گھر کو بھی تو صاف رکھنا چاہئے نا، جو مٹی گارے کا بنا ہوا گھر روز ایک گھنٹہ صفائی کرنے کیلئے لگاتے ہیں اور جس گھر کے بارے میں اللہ نے خود کہا اس میں میں ہوتا ہوں اسکی صفائی کے لئے ہمیں فرصت ہی نہیں ملتی۔

مسجد تو بنادی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے

من اپنا پرانا پانی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا

## جسم ادھار کا مال ہے

یہ جسم ہمیں مستعار ملا ہے ادھار کا مال ہے یہ ہماری ملکیت نہیں ہے، یہ اس پیدا کرنے والے کی ملک ہے، مالک وہ ہے ہمیں کچھ دیر استعمال کے لئے پروردگار نے عطا فرمادیا اور جو ادھار کے مال پر فریفتہ ہوتا پھرے اسی کو پاگل اور دیوانہ کہتے ہیں، کہ ادھار کے مال پر فریفتہ ہوا پھر رہا ہے، ہم اس جسم کو نیکی کے کاموں میں جتنا استعمال کر سکتے ہیں اتنا کر لیں دستور یہی ہے اگر گھر میں استری خراب ہو جائے اور ہم بھائی کے گھر سے منگائیں کہ جی ہمیں دفتر جانا ہے تو بیوی ایک جوڑا استری نہیں کرتی وہ اپنے بھی کر لیتی ہے بچوں کے بھی کر لیتی ہے دو چار دن کے کر لیتی ہے کہ اپنی استری آنے میں ٹائم لگ جائیگا تو ادھار لیا ہے بار بار مانگی بھی نہیں جانی اب تھوڑی دیر میں جتنا کام نکال سکتے ہوں نکال لو، جس طرح ادھار کی چیز پر تھوڑی دیر میں زیادہ سے زیادہ لوگ کام نکالتے ہیں ہمیں

بھی چاہئے یہ جسم ادھار کا مال ہے تھوڑے وقت میں اس سے زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت کر لو۔

## اجر باقی رہتا ہے

پچھلے سال آپ نے جو عبادتیں کیں آج آپ کو اسکی تکلیفیں یاد نہیں ہیں تھکاوٹ یاد نہیں ہیں مگر نامہ اعمال میں اسکا اجر موجود ہے تو عبادتوں کی تھکاوٹیں تو اتر جاتی ہیں مگر اجر نامہ اعمال میں موجود ہوا کرتے ہیں اسلئے ہمیں اس جسم کو خوب تھکانا چاہئے مومن کو چاہئے کہ نیکی کر کر کے تھکے اور تھک کر نیکی کرے ہمارے اکابر اتنی عبادت کرتے تھے کہ جب رات کو بستر پر سونے کے لئے جاتے ایسے پاؤں اٹھاتے تھے جیسے تھکا ہوا اونٹ پاؤں گھسیٹ کر چلا کرتا کرتا ہے۔

## انسانی وجود کی مثال

انسانی وجود چٹکی کے مانند ہے، چٹکی میں گندم پیس لیں تو آپ نے فائدہ اٹھالیا اور خالی چلتی رہے گی تو نقصان دہ ہم بھی اگر اس جسم سے عبادت کر لیں تو ہم نے اس سے فائدہ اٹھالیا ورنہ یہ جسم بے کار رہا بعض بزرگوں نے کہا کہ انسانی جسم برف کے مانند ہے برف کو آپ پانی میں ڈال کر ٹھنڈا کر لیں تو برف سے فائدہ اٹھالیا اگر ایسا نہیں کریں گے تو برف نے تو پگھلنا ہی ہے، ایک بزرگ فرماتے تھے کہ مجھے ایک برف والے نے سبق سکھادیا انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگے میں بازار میں گیا، میں نے ایک برف والے کو دیکھا کہ اسکی برف پگھلتی جا رہی ہے اور قد رتنا خریدنے والا کوئی نہیں اب اسکو پریشانی لاحق ہے کہ اگر کوئی نہیں خریدے گا برف تو پگھل جائے گی، میرے پیسے تو ضائع ہو جائیں گے یا لاخروہ بازار میں کھڑے ہو کر آواز لگانے لگا لوگو! رحم کرو اس شخص پر جس کا سرمایہ پگھل رہا ہے، تو یہ زندگی بھی سرمایہ ہے جو پگھلتی چلی جا رہی ہے۔

ہو رہی ہے عمر مثل برف کم

رفتہ رفتہ چپکے چپکے دم بدم

جودن آج ہماری زندگی میں غروب ہوا یہ لوٹ کے دوبارہ طلوع نہیں ہو سکتا یہ دن گزر گیا اب جودن باقی ہیں وہ گزریں گے اور بالآخر زندگی گزر جائے گی انسان یہی سوچتا رہتا ہے جب پوچھتے ہیں نا ایک دوسرے سے سناو جی کیا حال ہے، وقت اچھا گزر رہا ہے؟ ہم یہی کہتے ہیں کہ وقت اچھا گزر رہا ہے اور موت کے وقت پتہ چلے گا کہ وقت نے تو کیا گزرا تھا میں خود ہی گزر گیا، ہم جیسے کئی آئے اور گزر گئے اسلئے کسی عارف نے کہا کہ بے کار انسان سے تو مردہ زیادہ بہتر ہے اسلئے کہ مردہ کم جگہ گھیرتا ہے، بیکار انسان زیادہ جگہ گھیرتا ہے اپنے دیکھا ہوگا کہ جو پانی کھڑا ہوتا ہے نا سمیں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں، جس طرح کھڑے پانی کے اندر کیڑے جنم لے لیتے ہیں اسی طرح فارغ ذہن کے اندر مذموم خیالات جنم لے لیتے ہیں، جو شخص اپنے دل و دماغ کو اللہ کی طرف متوجہ نہیں رکھے گا شیطانی شہوانی نفسانی خیالات خود بخود اسکے ذہن میں آئیں گے۔

### اللہ والوں نے وقت کیسے گزارا؟

ہمارے اکابر نے زندگی کی حقیقت کو سمجھا اور انہوں نے اپنے جسم کو عبادتوں میں خوب تھکا یا نبی ﷺ اتنی عبادت فرماتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے ”حتیٰ تو رمت قد اماہ“ کہ ﷺ کے قدمین مبارک کے اوپر روم آ جایا کرتا تھا“ پاؤں مبارک سو ج جاتے تھے اتنی عبادت کرتے تھے۔

(۱)..... امام اعظم ابو حنیفہؒ کے بارے میں لکھا ہے کہ رمضان المبارک میں ایک قرآن پاک دن میں تلاوت کرتے اور ایک قرآن پاک رات میں تلاوت کرتے اور تین قرآن پاک تراویح میں پورا کرتے تو نوٹل انکے تریسٹھ ۶۳ قرآن پاک ہو جاتے تھے۔

(۲)..... ایک بزرگ تھے انکی اسی سال عمر تھی اور اسی سال کی عمر میں وہ رمضان ستر مرتبہ کعبۃ اللہ کا طواف کیا کرتے تھے، ایک طواف کے سات چکر

ہوتے ہیں تو ستر طواف کے چار سو نوے چکر اور ہر طواف کی دو رکعت واجب الطواف، انکو ستر سے ضرب دو تو ایک سو چالیس تو نفلیں ہو گئیں اب ہم اگر کسی دن ایک سو چالیس نفلیں پڑھیں نا تو پھر آخر کی سمع اللہ کی جگہ او کی اللہ نکلے گا اور یہ ان کا زندگی کا ایک عمل تھا، باقی اعمال اور معمولات اسکے علاوہ ہوا کرتے تھے۔

(۳)..... امام ابو یوسفؒ وقت کے چیف جسٹس تھے، عالم اسلام کے اپنے زمانہ میں سب سے بڑے قاضی تھے، وہ سارا دن دین کا کام کرتے جب رات ہوتی تو ہر رات میں دو سو رکعت نفل پڑھا کرتے تھے اتنے مصروف بندے اور رات کو اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے انہوں نے دین کے لئے اپنی زندگیاں خوب گزاریں۔

(۴)..... چنانچہ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں خواجہ فضل علی قریشیؒ وہ خود فرمایا کرتے تھے کہ میں وضو کر کے اپنی زمین میں کام کرنے کے لئے نکلتا تھا اور زبان سے اللہ کا ذکر بھی کرتا تھا ہر روز ستر ہزار مرتبہ اسم ذات کا ذکر کرنے کا میرا معمول ہوا کرتا تھا، ہمارے لئے ایک تسبیح پڑھنی سبحان اللہ کی مشکل ہوتی ہے، چنانچہ کتنے لوگ ہیں روزانہ دس ہزار مرتبہ کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہیں۔

(۵)..... لاہور میں ایک عالم سلسلہ میں داخل ہوئے تو انہوں نے صبح کے ناشتے کے لئے دعوت دی کہنے لگے کہ حضرت میرے والد عاشق قرآن تھے، ہم نے ان سے کہا کہ بھائی اب ہمیں ناشتہ میں اتنی دلچسپی نہیں رہی انکے حالات سننے میں دلچسپی زیادہ ہو گئی ہے آپ ہمیں اپنے والد کے واقعات سنائیں وہ کہنے لگے کہ جی ایک واقعہ سناتا ہوں، میرے والد گرامی کو کسی بزرگ نے بتا دیا کہ اگر دو سال تک روزانہ ایک قرآن مجید کی تلاوت کرو گے تو قرآن مجید کا فیض تمہاری آئندہ نسل میں جاری ہو جائے گا، میرے والد صاحب نے اس کا ارادہ کر لیا اور روز قرآن پاک پڑھنے کا معمول بنالیا ایک قرآن مجید روزانہ پڑھنا سردی، گرمی، خوشی، غمی، صحت، بیماری، دیس، پردیس ہر حال میں انہوں نے روزانہ ایک قرآن

مجید پڑھا، حتیٰ کے دو سال مکمل ہوئے کہنے لگا اسکا نتیجہ یہ ہوا کہ میرے والد کے جتنے بیٹے اور جتنی بیٹیاں انکے آگے جتنے بیٹے جتنی بیٹیاں دس سال سے اوپر کی عمر کے سب کے سب قرآن پاک کے حافظ ہیں، میرے والد کی نسل میں زینہ اولاد یا مادیہ اولاد ہمارے خاندان کا دس سال کے اوپر کا ہر بچہ قرآن پاک کا حافظ ہے اللہ یہ لوگ ابھی زندہ ہیں فوت شدہ لوگوں کی باتیں نہیں کر رہا اگر یہ لوگ آج کے اس دور میں اتنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کر سکتے ہیں تو کیا ہم روزانہ ایک پارے کی تلاوت نہیں کر سکتے۔

(۶)..... ہمارے قریبی رشتہ داروں میں سے ایک بزرگ تھے عالم تھے وہ کہنے لگے جب میں اپنے حضرت سے بیعت ہوا تو انہوں نے مجھے ایک قرآن پاک روزانہ تلاوت کا حکم دیا خود مجھے فرمانے لگے کہ اس وقت مجھے بیعت ہوئے تینتالیس سال کا عرصہ گزر چکا ان تینتالیس سالوں میں ایک دن میری تلاوت قضا نہیں ہوئی اگر یہ لوگ ایسے اعمال نامہ لے کر اللہ کے حضور پیش ہو گئے کہ تینتالیس سال میں ایک دن بھی قرآن پاک کا ایک پارہ پڑھنا اسمیں ناغہ نہیں ہوا تو پھر سوچیں کہ ہم اس دن کیا کریں گے؟ کرنے والے آج کے دور میں بہت کچھ کر رہے ہیں ہم نے تو دیکھا حفاظ کو بھی رمضان حافظ بس رمضان آیا تو دن رات بھاگ دوڑ کر کے کچھ کر لیا اور اسکے بعد ان میں اور عام نوجوان میں کوئی فرق نہیں۔

(۷)..... ہمارے ایک قریبی تعلق والے دوست ہیں انکی والدہ صاحبہ قرآن مجید کی حافظ ہیں اللہ تعالیٰ کی شان انکو قرآن مجید اس طرح یاد ہے کہ جس طرح عام لوگوں کو سورہ فاتحہ یاد ہوتی ہے، جب چاہیں جس وقت چاہیں جہاں سے پوچھیں ایک لفظ بولیں وہ اسی سے آگے پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، اللہ تیری شہان وہ حیران ہوتی ہیں کہ کیا حفاظ قرآن بھی بھولتے ہیں اور واقعی جو محنت کرتے ہیں اللہ رب العزت انکو نعمت عطا فرماتے ہیں۔



## آج بھی کیسے کیسے موجود ہیں؟

ہمیں ایک دفعہ مری جانے کا اتفاق ہوا رمضان مبارک میں تو ایک جگہ ہم نے تراویح پڑھی ایک عجیب بات سنی وہ کہنے لگے کہ اس مصلے پر جو قراء سناتے ہیں وہ بڑے چنے ہوئے ہوتے ہیں، مگر خاص بات یہ ہے کہ چھتیس سال میں یہاں تراویح پڑھانے والے کسی حافظ کو ایک مرتبہ بھی لقمہ لینا نہیں پڑا اللہ تعالیٰ تو آج کے دور میں اگر ایسے لوگ موجود ہیں تو ہم کیوں قرآن مجید کو اچھی طرح نہیں پڑھتے ہیں یہ فقط اہمیت ہے وقت کی جس نے محنت کر لی اس نے وقت کو کمالیا ورنہ وقت تو گزر رہی رہا ہے وقت انتظار نہیں کرتا کسی کا، تو جب یہ جسم ادھار کا مال ہے ہمیں چاہئے کہ ہم اس سے جتنا زیادہ عبادت کر سکیں نیکی کر سکیں مخلوق خدا کی خدمت کر سکیں، دین کا کام کر سکیں، ہم اس کو خوب اللہ کے دین کے لئے تھکائیں، فارغ رہنا خوشی کی بات نہیں ہے، عدمِ الفرصت ہو جانا یہ خوشی کی بات ہے، فرصت ہی نہ ملے اتنا دین کے کام میں انسان لگ جائے۔

- (۱)..... ایک صاحب چند دن پہلے ملنے کے لئے آئے سولہ سال سے صائم اللہ ہر تھے سولہ سال سے متواتر روزے کی حالت میں زندگی گزار رہے تھے
- (۲)..... ہمارے ایک قاری صاحب جن کو ہمارے بعض دوستوں نے دیکھا ہوگا کہ ان سال اجازت بھی دی خلافت بھی دی چترال کے تھے الحمد للہ اعلیٰ زندگی کے اس وقت تیس سال گزر چکے ایک دن روزہ ایک دن ایک دن افطار تیس سال اس ترتیب پر وہ زندگی گزار چکے ہیں تو ابھی اگر آج کے دور میں ایسے لوگ زندہ موجود ہیں جو اللہ کے لئے یہ کچھ کرتے ہیں، تو کیا دس دن ہم اللہ تعالیٰ کی خوب جی بھر کے عبادت نہیں کر سکتے، مقصد یہ ہے ان مثالوں کے دینے کا کہ ہم جو نیت لے کر آئے اعتکاف کی اب یہ دس دن جی بھر کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں خوب پڑھیں جسم کو تھکائیں، یہ جسم دنیا کے لئے ہزاروں مرتبہ تھکا، ہم نے راتیں، دنوں کی

خاطر سینکڑوں مرتبہ جاگ کر گزاریں، اگر یہ دس راتیں اللہ کے لئے جاگ کے گزاردیں گے اور دن اللہ کی عبادت میں گزاردیں گے اور تھکائیں گے تو یہ کون سی بڑی بات ہو جائے گی، تو اس لئے دل میں ہمت ہو، جذبہ ہو، شوق ہو کہ ہم نے ان دس دنوں میں خوب جی بھر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے۔

## وقت کی قدر کریں

رمضان المبارک کا وقت ویسے ہی قیمتی اور آخری عشرہ دو کی نسبت اور زیادہ قیمتی محکم کے لئے تو پھر اور بھی زیادہ قیمتی چونکہ محکم کی مثال ایسی ہے جیسے کسی سخی کی دہلیز پکڑ کے کوئی سائل بیٹھ جائے کہ مجھے جب تک کچھ نہیں ملے گا میں دروازہ پکڑے رہوں گا تو سخی بالآخر اسے کچھ دے ہی دیا کرتا ہے ہمارے مشائخ نے فرمایا الوقت من ذہب وفضہ وقت جو ہے وہ سونے اور چاندی کی ڈلیوں کی مانند ہے استعمال کر لو تو چاندی بنا لو اور زیادہ اخلاص کے ساتھ کر تو سونے کی ڈلی بنے گی اور اگر استعمال نہیں کرو گے تو مٹی کے ڈھیلے کے مانند گزر جائے گا، بلکہ بعض بزرگوں نے تو یوں کہا کہ الوقت سيف قاطع وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے امام شافعیؒ فرماتے تھے کہ مجھے صوفیا کی دو باتوں سے بہت فائدہ ہوا ایک بات تو یہ کہ وقت ایک کاٹنے والی تلوار ہے اگر تم اسے نہیں کاٹو گے تو وہ تمہیں کاٹ کر رکھ دے گی اور دوسرا فرمایا کرتے تھے کہ یہ بات مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ اگر تم نفس کو حق میں مشغول نہیں کرو گے تو نفس تمہیں باطل میں مشغول کر دے گا تو بات بالکل سچی ہے ہم نفس کو پالنے میں مشغول ہیں اور نفس ہمیں جہنم میں دھکا دینے میں مشغول ہے بہر حال جتنا بھی وقت ہے ہمارا وہ طے شدہ ہے۔

اے شمع تیری عمر طبعی ہے ایک رات  
ہنس کر گزاردے یا اسے رو کر گزاردے

## حقیقی زندگی کونسی؟

اس ہماری زندگی کے اوقات میں جو یاد الہی میں وقت گزر رہا ہے یہ تو زندگی

ہے اور باقی ساری کی ساری شرمندگی، ایک بڑے مہاں سے کسی نے پوچھا کہ بڑے میاں عمر کتنی؟ کہنے لگے پندرہ سال اس نے لہا کیوں جو ان بنے کا زیادہ ہی شوق ہے کہ پندرہ سال کہہ رہے ہو کہنے لگے نہیں بھائی جب سے تو بہ کر کے اللہ سے صلح کی ہے پندرہ سال گزر رہے ہیں یہ میری زندگی ہے اور اس سے پہلے والی ساری شرمندگی ہے۔

میری زیست کا حال کیا پوچھتے ہو  
بڑھا پا نہ بچپن نہ میری جوانی  
جو چند ساعتیں یاد دلبر میں گزریں  
وہی ساعتیں ہیں میری زندگانی

جو چند ساعتیں اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزر گئیں وہ میری زندگی ہے اور باقی ساری کی ساری شرمندگی ہے۔

## آخرت کی تیاری کی فکر

(۱) ایک بزرگ گزر رہے ہیں اولیس قرنیٰ قرن ایک قبیلہ تھا اسکے رہنے والے تھے یہ نبی ﷺ کے دور میں تھے والدہ کی خدمت کرتے تھے ان سے اجازت لے نبی ﷺ کے دیدار کے لئے حاضر ہوئے مگر اللہ کے محبوب سفر پر جا چکے تھے، پیچھے والدہ اکیلی تھیں بیمار تھیں اسلئے ویسے ہی واپس آ گئے جب نبی ﷺ تشریف لائے اور آپ کو پتہ چلا تو معتبر کتابوں میں لکھا ہے کہ نبی ﷺ نے اپنا جبہ حضرت عمرؓ کو دیا اور کہا کہ تم ان کی تلاش کرنا فلاں فلاں جگہ، نشانیاں بتائیں کہ وہاں تمہیں ملیں گے اور انکو میری طرف سے یہ جبہ ہدیہ پیش کرنا اور انکو کہنا کہ وہ میری امت کے لئے مغفرت کی دعا کریں، چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد نبی ﷺ کا وصال ہو گیا تو بعد میں حضرت عمرؓ اور حضرت علیؓ یہ دونوں حضرات انکی تلاش میں گئے انکو ایک جگہ پالیا انکو جبہ بھی دیا انکو بتایا بھی سہی کتاب

میں لکھا ہے کہ بس تھوڑی سی گفتگو آپس میں ہوئی اسکے بعد اوایس قرنی نے کہا کہ آپ نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہوگی اور میں نے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے اچھا پھر روز محشر کو ملیں گے انکو رخصت کر دیا۔

(۲)..... ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا حسین علی واں پھر ایں والے انکے بارے میں بھی یہی ہے کوئی بھی ملنے آتا تھوڑی دیر اس سے گفتگو کرتے جو کام کی گفتگو تھی اور گفتگو کرنے کے بعد کہتے بھی اپنے بھی آخرت کی تیاری کرنی ہے اور میں نے بھی تیاری کرنی ہے اچھا پھر ملیں گے فارغ کر دیتے تھے یہ کیسے لوگ تھے ہر دن اپنی آخرت کی تیاری میں لگے ہوتے تھے۔

(۳)..... چنانچہ ایک آدمی نے رابعہ بصریہ سے دعا کروانی تھی کسی پریشانی میں پھنسا ہوا تھا وہ کہتے ہیں میں فجر کے بعد گیا ملنے کیلئے تو وہ نفلیں پڑھ رہی تھیں، میں نے کہا ظہور کے بعد سہی پھر گیا تو نفل پڑھ رہی تھیں، میں نے کہا عصر کے بعد سہی عصر کے بعد گیا تو تلاوت قرآن کر رہی تھیں، کہ مغرب کے بعد سہی تو پھر نفلیں پڑھ رہی تھیں، کہنے لگے عشاء کے بعد سہی عشاء کے بعد بھی انہوں نے نفل کی نیت باندھی اور پوری ہی نہیں کر رہی تھیں حتیٰ کہ اسی طرح انہوں نے پوری رات گزار دی فجر کا وقت آ گیا تو فجر پڑھی میں فجر پڑھ کر پھر جلدی گیا تو کہنے لگے کہ فجر کے بعد اشراق پڑھ کر تھوڑی دیر انکی آنکھ لگ گئی جب میں وہاں پہنچا تو میرے پاؤں کی آواز سے انکی آنکھ کھلی تو وہ ایسے اچانک اٹھ بیٹھیں جیسے کوئی بندہ بڑالیٹ ہو جاتا ہے اور جانا ہوتا ہے کہیں ایسے اٹھ بیٹھیں اور دعاء مانگنے لگیں ”اللهم انی اعوذ بک من عین لا تشبع من النوم“ اے اللہ میں ایسی آنکھ سے تیری پناہ مانگتی ہوں جو نیند سے بھرتی ہی نہیں ہے“ اب بتائیے کہ تھوڑا سا حصہ دن کا سونے میں گزرا اور اس پر بھی استغفار کر رہی ہیں۔

## جنتیوں کی حسرت

جب کوئی خوشی کی بات آتی ہے تا تو غم کی بات بھول جاتے ہیں جب بھی خوشی ہوتی ہے بندے کو تو غم بھول جاتے ہیں، کچی بات ہے جنت میں جانے سے بڑھ کر بھی کوئی خوشی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی اسی لئے جنتی جب جنت میں جائیں گے تو کہیں گے الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ ہم سے وہ غم چلا گیا اور جنت میں کتنی خوشی ہوگی کہ انسان اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا نبی علیہ السلام کا دیدار کرے گا نیکیوں کی محفل ہوگی اور یہ خوشی ہوگی کی اب یہ نعمتیں ہم سے کبھی واپس نہیں لی جائیں گی اس خوشی کے حال میں بھی بندے کو ایک حسرت رہے گی حدیث پاک میں آتا ہے حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریاؒ نے فضائل ذکر میں یہ حدیث کوٹ کی ہے وہ فرماتے ہیں [لا يتحسراهل الجنة الا على ساعة من ربهم لم يذكر الله تعالى] ”اہل جنت کو کسی بات پر حسرت نہیں ہوگی سوائے ایک بات کے کہ وہ وقت جو انہوں نے دنیا میں اللہ کی یاد کے بغیر یعنی غفلت میں گزارا تھا جنتیوں کو غفلت میں گزرے ہوئے اس وقت پر حسرت ہوا کرے گی“ کہ کاش ہم اکمیں غفلت نہ کرتے تو آج ہمارے رتبے اتنے زیادہ بلند ہوتے، اب بتاؤ جو حسرت جنت میں بھی جان نہ چھوڑے گی وہ کیسی بڑی حسرت ہوگی، تو اسلئے اپنے وقت کو اللہ تعالیٰ کی یاد سے معمور کر لیجئے۔

## پانچ چیزوں کی قدر کریں

نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا [اغتنم خمسا قبل خمس] پانچ کو پانچ سے غنیمت سمجھو:

[۱]..... زندگی کو غنیمت سمجھو موت سے پہلے

[۲]..... فرصت کو غنیمت سمجھو مشغولی سے پہلے

[۳]..... جوانی کو غنیمت سمجھو بڑھاپے سے پہلے

[۴]..... مال کو غنیمت سمجھو فقر سے پہلے

[۵]..... اور صحت کو غنیمت سمجھو بیماری سے پہلے

ایک اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا [نعمتان  
مبغون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ] دو نعمت ایسی ہیں  
کہ جن میں اکثر لوگ دھوکہ کھائے ہوئے ہیں

[۱] صحت، اور [۲] فرصت، حدیث پاک میں یہ مضمون آیا تو ہمیں چاہئے  
کہ ہم اپنے وقت کی قدر کریں جو وردگار نے ہمیں انعام کے طور پر عطا فرمایا بس یہ  
دس دن ہیں ڈٹ کے محنت کر لیجئے پھر اس کی برکتیں آپ کو آنکھوں سے محسوس ہوگی  
کسی شاعر نے کہا۔

نور میں ہو یا نار میں رہنا

ہر جگہ ذکر یا ر میں رہنا

چند جھونکے خزاں کے بس سہ لو

پھر ہمیشہ بہار میں رہنا

بس یہ چند دن محنت کے گزاریں پھر اسکی برکتیں آپ آنکھوں سے دیکھیں  
گے انشاء اللہ آج جس چیز کی کمی ہے ہمارے اندر وہ یہ کہ ہم سنتے تو ہیں سن سن  
کے سن ہو جاتے ہیں عمل نہیں کرتے، تو سننا اور سن کے عمل کرنا یہ آج وقت کی  
ضرورت ہے۔

## پانچ چیزوں کی قدر کریں

نبی ﷺ اس بات پر صحابہ کرام سے بیعت لیا کرتے تھے [اسمعو لو اطیعوا] کہ  
تم جو سنو گے اس پر عمل کرو گے اس پر میرے ہاتھوں پر بیعت کرو اللہ اسلئے جو لوگ  
سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند فرماتے ہیں ﴿الذین

يستمعون القول فيتبعون احسنه ﴿۱﴾ تو سننے کی نیت یعنی عمل کی نیت سے بیٹھ کر سنیں گے، ایک جگہ ارشاد فرمایا ﴿۱﴾ ان فی ذالک لآیات لقوم یسمعون ﴿۲﴾ انہیں نشانی ہے اس قوم کے لئے جو سنتے ہیں اور ایک جگہ فرمایا ﴿۲﴾ ولو اراد اللہ فیہم خیر الا سمعہم ﴿۳﴾ ”اگر اللہ انکے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا تو ان کو بات سنوادیتا“ اسلئے ہر بندہ بات نہیں سنا کرتا ہمارے حضرت ”مجمع کو فرماتے تھے اوہ! سن رہے ہو پھر فرمایا کرتے تھے تم نہیں سن رہے ہو، تو واقعی سننے کا بھی اپنا درجہ ہوتا ہے جہنمی جہنم میں جائیں گے تو فرشتے ان سے پوچھیں گے کہ تم لوگ کیوں جہنم میں آئے تمہیں کوئی سمجھانے والا نہیں تھا؟ تو جہنمی آگے سے جواب دیں گے ﴿۳﴾ لو کنا نسمع او نعقل ما کنا فی اصحاب السعیر ﴿۴﴾ اے کاش! اگر ہم سن لیتے یا ہمارے اندر عقل کی رتی ہوتی تو ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے“ تو اسلئے ایمان والے سنتے ہیں اور اپنی عقل سمجھ سے اسکو سوچتے ہیں اور اسکو عملی جامہ پہناتے ہیں آج کل تو انسان اپنے ضمیر کی آواز خود نہیں سنتا جب بھی کوئی انسان گناہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسکے اندر ایک ضمیر کی نعمت بنائی ہے وہ ضمیر چیختا ہے چلاتا ہے وہ بتاتا ہے ملامت کرتا ہے کئی نہیں سنتے سنی ان سنی کر دیتے ہیں حالانکہ وہ ہمارا سچا ساکھی ہے کبھی کبھی انسان اپنے آپ کو ضمیر کی عدالت میں کٹھرے میں کھڑا کر کے اپنے بارے میں رائے لے لے کہ میں کیا ہوں؟ بالکل صحیح فیصلہ ملے گا اسلئے کہتے ہیں اپنے آپ کی حقیقت معلوم کرنی ہو تو اپنی حقیقت اپنے دل سے پوچھو دل وہ گواہ ہے جو کبھی رشوت قبول نہیں کرتا، سچی گواہی دیتا ہے دل ہمیشہ بتائے گا کہ تم کتنے پانی میں ہو دنیا کے سامنے ہم جو بنتے پھریں ﴿۴﴾ بل الانسان علی نفسه بصيرة ولو القى معاذیرہ ﴿۵﴾

آج کے دور کی پانچ خامیاں

آج کے زمانہ میں پانچ خامیاں عام ہیں:

(۱)..... پہلی بات کہ ہم علم تو حاصل کر لیتے ہیں عمل میں اتنی کوشش نہیں کرتے اسلئے جس سے بات کر دوہ کہتا ہے کہ جی مجھے پتہ ہے بھی جانتے تو سب ہیں اللہ تعالیٰ تو یہ دیکھتے ہیں کہ مانتے کتنا ہیں؟ اگر نمٹ علم کے اوپر مغفرت ہونی ہوتی تو شیطان کی تو ہم سے پہلے ہو جاتی، اس کے علم میں تو ہمیں کوئی شک نہیں ہے تو نمٹ علم کے اوپر مغفرت نہیں ہوگی جس طرح چراغ جلانے بغیر فائدہ نہیں دیتا اسی طرح علم عمل کے بغیر فائدہ نہیں دیتا۔

(۲)..... دوسری بات کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تو مانگتے ہیں استعمال بھی کرتے ہیں مگر ان نعمتوں کا شکر ادا نہیں کرتے ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ ان گنت نعمتیں بھیجتے ہیں ﴿وان تعدوا نعمة الله لا تحصوها﴾ اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گنا چاہو تم شمار بھی نہیں کر سکتے اتنی ان گنت نعمت ہیں مگر ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے، کوئی شربت پلا دے تو اس کا بھی شکریہ اور جو پروردگار دسترخوان پہ اتنی نعمتیں کھلاتا ہے پیٹ بھر کر اٹھنے کے بعد کھانے کی دعا بھی یاد نہیں رہتی اسلئے ایک بزرگ فرماتے تھے اے دوست اللہ تعالیٰ کی نعمتیں کھا کھا کر تیرے دانت تو گھس گئے اس کا شکر ادا کرتے ہوئے تیری زبان تو نہیں گھسی۔

(۳)..... تیسری بات کہ ہم گناہ کر بیٹھتے ہیں مگر استغفار نہیں کرتے بعض تو اس وجہ سے کہ وہ سوچتے ہیں کر لیں گے یعنی نیت ہوتی ہے گناہ چھوڑنے کی مگر کہتے ہیں ہاں ابھی چھوڑیں گے اکمال الشیم میں عجیب بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں اے دوست تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیری عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے، رابعہ بصریہ فرمایا کرتی تھیں استغفار نایحتاج الی استغفار کہ ہم لوگ جو استغفار کرتے ہیں اتنی غفلت سے کہ استغفار پر استغفار کرنے کی ضرورت ہے۔

(۴)..... بات یہ کہ ہم میت کو تو دفن کرتے ہیں مگر عبرت نہیں پکڑتے ایک صاحب عجیب واقعہ سنانے لگے کہنے لگے میرے ہمسایہ میں ایک صاحب



تھے انہی وفات ہو گئی تو ہمیں بھی صدمہ ہوا تو میں نے اپنے گھر میں بچوں کو بتا دیا کہ اب بھی ایک مہینہ کم از کم ٹی وی نہیں ہونا چاہئے کیوں کہ ہمارے سامنے والے پڑوسی سے ہمارا اتنا اچھا تعلق ہے تو ان کو اتنا صدمہ ہوا اور انکے والد جوان العمر تھے اور اچھا کاروبار تھا تو میرے گھر کے بیوی بچوں نے میرے ساتھ وعدہ کر لیا کہ ہم چالیس دن تک ٹی وی کو اون نہیں کریں گے، کہنے لگے چوتھا دن گزرا تو جس گھر میں وفات ہوئی تھی اس گھر میں ٹی وی کی آواز آرہی تھی اسکا مطلب ہے ان بچوں نے باپ کو دفن تو کیا عبرت نہیں پکڑی تو ہم میت کو دفن تو کرتے ہیں عبرت نہیں پکڑتے کہ ہم نے بھی آتا ہے، حسن بصری کے بارے میں آتا ہے کہ قبرستان جانے کے بعد اس قدر ان پر غم طاری ہوتا تھا کہ کئی مرتبہ جس چارپائی پر مردے کو لے جایا جاتا اس چارپائی پر اٹکولنا کرواپس لایا کرتے تھے ایسی حالت ہو جاتی تھی اور علامہ عبدالوہاب شعرائی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سلف صالحین جب جنازہ لے کر چلتے تھے تو جنازے کے پیچھے ہر بندے کی آنکھ سے آنسو ٹپکتے تھے باہر والے بندے کے لئے پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کہ جنازے کا ولی کون ہے موت کو یاد کر کے سارے روتے نظر آ رہے ہوتے تھے آخرت کو یاد کر کے گناہوں کو یاد کر کے، وہ جنازے سے عبرت پکڑتے تھے۔

(۵)..... اور پانچویں چیز کہ آج کے دور میں دوست و احباب فقر الکی نصیحت تو سنتے ہیں اسکی پیروی نہیں کرتے بس سننے تک ہی کام رکھتے ہیں اور پھر آپس میں تقابل کرتے ہیں یہ ایک نئی مصیبت کہ فلاں کا بیان ایسا ہوتا ہے اور فلاں کا ایسا ہوتا ہے او! خدا کے بندے بجائے اسکے کہ ہم اکمیں پڑیں ہم یہ کیوں نہیں سوچتے جو ہمیں بتایا گیا ہے اس میں ہمارے لئے عمل کا کیا پیغام دیا ہے۔

**قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟**

تو ہمیں اپنی زندگی میں قلب سلیم حاصل کرنا ہے اسلئے کہ قیامت کے دن

انسان کے یہی کام آئے گا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ﴿یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم﴾ ”قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے کام آئیں گے جو سنوارا ہو اول لائے گا وہ دل اسے کام آئے گا، تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دلوں کے بیوپاری ہیں بندے سے دل چاہتے ہیں اے بندے اپنا دل مجھے دیدے بندہ اپنے دل میں اپنے رب کو بسالے ایسی محنت کرے کہ اللہ تعالیٰ دل میں آجائے اللہ تعالیٰ دل میں سا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ دل میں چھا جائے اس کو قلب سلیم اور قلب منیر کہتے ہیں۔

لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی یہ اسی ملک افریقہ کے رہنے والے تھے غلام تھے مگر حکمت نے ان کو سردار بنا دیا تھا تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اے بیٹے! میں سورج اور چاند کی روشنی میں پرورش پاتا رہا مگر دل کی روشنی سے میں نے کسی چیز کو فائدہ مند نہیں دیکھی۔

تسخیر مہر و ماہ مبارک تمہیں مگر ☆ دل میں اگر نہیں تو کہیں روشنی نہیں

ڈھونڈنے والا ستاروں کی گذرگا ہوں کا

اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا

جس نے سورج کی شعاعوں کو گرفتار کیا

زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا

سارے جہاں کو قہقہوں سے روشن کرنے والا اپنے من میں اندھیرا لئے پھرتا ہے تو اگر من میں اندھیرا ہے تو پھر قیامت کے دن کیا کام آئے گا یاد رکھنا کہ دل سیاہ ہو تو چمکتی آنکھیں کوئی فائدہ نہیں دیا کرتیں، ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے دل کے مالک بن جاؤ گے اللہ تعالیٰ تمہیں جہان کا مالک بنا دے گا تم اپنے دل کے مالک بن جاؤ پھر دیکھئے اللہ رب العزت تم پر کیسی مہربانیاں فرماتے ہیں

دل گلستاں تھا تو ہر شے سے چمکتی تھی بہار

یہ بیا بیاں کیا ہوا عالم بیا بیاں ہو گیا

یہ دل اہل اللہ کی محفل میں سنورتے ہیں ہم یہاں اکٹھے ہیں اپنے دلوں کو سنوارنے کے لئے تو بس یہ آپ ذہن میں رکھئے کہ ہم نے جو یہ دس دن ہیں کوئی بھی گناہ نہیں کرنا نہ آنکھ سے نہ زبان سے نہ کان سے نہ دل و دماغ سے نہ ہاتھ سے نہ شرم گاہ سے۔

## ایک سنہری بات

ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ تھے ابو الحسن خرقانی ایک عجیب بات فرمایا کرتے تھے سونے کی سیاہی سے لکھنے کے قابل ہے، فرماتے تھے کہ جس شخص نے جو دن گناہوں کے بغیر گزارا ایسا ہی ہے جیسے اس نے وہ دن نبی ﷺ کی صحبت میں گزارا تو ہمارے دل میں یہ بھی تمنا ہو کہ ہم دس دن گناہوں کے بغیر گزاریں، اس لئے ہر وقت ذکر و عبادت میں مشغول رہیں معتکف کو ہر وقت عبادت میں مشغول رہنا یہ زیادہ پسندیدہ عمل ہے، عام طور پر بات خیر خیریت سے شروع ہوتی ہے اور پھر کاروبار کے تذکرے شروع ہو جائیں گے گھربارے کے تذکرے شروع ہو جائیں گے اور اگر نو جوان ہے تو اپنی شادی کی پلاننگ کے تذکرے شروع ہو جائیں گے

## بات پہنچی تیری جوانی تک

اسلئے معتکفین حضرات ایک دوسرے سے بس کام کی گفتگو کریں اور تفصیلات بعد میں اعتکاف کے بعد، ضروری جو گفتگو ہو بس وہ کریں اس سے زیادہ نہیں۔

## حضرت تھانویؒ کا طریقہ علاج

حضرت اقدس تھانویؒ کی خانقاہ پر بڑے بڑے علماء آتے تھے اپنی تربیت کے لئے اور انکی خوب تربیت ہوتی تھی حضرت قاری محمد طیبؒ نے جب دارالعلوم دیوبند کا نظام سنبھالا تو جوانی بھی تھی اور اللہ نے حسن و جمال بھی خوب دیا تھا اور علم و کمال بھی خوب دیا تھا اور لوگوں کے دلوں میں محبت بھی بہت دی تھی تو

انہوں نے حضرت اقدس تھانویؒ کو خط لکھا کہ حضرت کبھی کبھی میرے دل میں خود پسندی آ جاتی ہے خود پسندی کا کیا مطلب؟ اپنے آپ کو پسند کرنا کہ بھی میرے اندر بڑی صفات ہیں جوانی میں میں دارالعلوم کا مہتمم بھی ہوں اللہ نے اتنا علم بھی دیا کہ لوگ وعظ سنتے ہیں تو سر دھنتے ہیں اور خوبصورتی بھی اللہ نے اتنی زیادہ دی اور مال و منال بھی دیا، عزت بھی دی، ہر بندہ بچھتا چلا جا رہا ہے تو اس وجہ سے میرے دل میں کبھی کبھی خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے حضرت تھانویؒ نے خط لکھا کہ اچھا آپ سب کچھ کسی کے حوالے کر دو اور ایک مہینہ کے لئے یہاں ہمارے پاس آ جاؤ تو ایک مہینہ کے لئے فوراً پہنچ گئے تھانہ بھون جب وہاں پہنچے تو حضرت نے فرمایا کہ بس آپ اپنا دن گزاریں جیسے گزارتے ہیں ایک کام کرنا ہے کہ جو لوگ مسجد میں آتے ہیں انکے جوتے سیدھے کر دینا بس اتنی سی ڈبوٹی لگا دی کہ آپ کا کام یہی ہے کہ جوتوں کے پاس بیٹھے رہیں اور جو مسجد میں آئیں جائیں انکے جوتے سیدھے کرتے رہنا، قاری محمد طیبؒ خود لکھتے ہیں کہ میں نے چند دن جوتے سیدھے کئے میرے اندر سے خود پسندی اور تکبر کا ہمیشہ کے لئے ازالہ ہو گیا چند دن جوتے سیدھے کئے اپنی اوقات کا پتہ چل گیا، ان حضرات کے پاس ایسے نسخے تھے کہ وہ تکبر خود پسندی اور ایسی بیماریوں کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے۔

چنانچہ ایک دفعہ ان کے پاس اس خانقاہ میں حضرت محمد شفیعؒ بھی پہنچ گئے اور مولانا بنوریؒ بھی پہنچ گئے اب دونوں حضرات جوان، نئے نئے پڑھ کر فارغ ہوئے اور شوق شوق میں گئے کہ بھی ہم نے دارالعلوم میں تو پڑھ لیا اب کچھ بزرگوں کی بھی صحبت اختیار کر لیں عشاء کی نماز ہوئی تو پرانے لوگ تھے وہ سب اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے چھوٹے چھوٹے کمرے بنے ہوئے تھے اب بھی جا کر دیکھیں تو ایسے ہی ہیں اسی حال میں باقی ہیں اب یہ حضرات ایک کمرہ ان کو دیا گیا تھا تو یہ جب اپنے کمرے میں گئے تو کسی موضوع پر بات چل پڑی

دونوں عالم تھے اور چیزیں از بر تھیں اور بڑے ذہین اور قہین تھے اب آپس میں خوب بحث چلنی شروع ہو گئی دلائل چلنے شروع ہو گئے ابھی دلائل چل ہی رہے تھے کہ ایک بڑے میاں جو نگران تھے وہ آگئے اور کہنے لگے کہ شہزادو پہلے دن آئے ہو تمہیں ابھی پتہ نہیں یہاں عشاء کے بعد کوئی بات نہیں کر سکتا کرنی ہے تو اپنے دل میں اپنے رب سے باتیں کرو، چونکہ پہلا دن ہے لہذا آج میں آپکو تنبیہا کہہ رہا ہوں آج کے بعد پھر میں نے آپ دونوں کو بات کرتے دیکھا تو دونوں کے بستر خانقاہ سے اٹھا کر باہر رکھ دیئے جائیں گے یہ حضرات خود فرمایا کرتے تھے کہ اس بڑے میاں کی بات نے ہمارا دماغ سیدھا کر دیا پھر ہم صحیح آداب کے ساتھ رہے اور پھر اللہ نے ہمیں ”چپ“ کے مزے عطا فرمادئے چپ کے بھی تو مزے ہوتے، اس مزے سے ہر بندہ واقف نہیں ہے، آج کل کھانے کے مزے سے لوگ واقف ہیں اور فاقہ کے مزے سے واقف نہیں ہیں، بولنے کے مزے سے واقف ہیں چپ کے مزے سے واقف نہیں ہیں، سونے کے مزے سے واقف ہیں جاگنے کے مزے سے واقف نہیں ہیں، چپ کا اپنا مزہ ہے اسی لئے جو جتنا بڑا عالم ہوگا آپ اسکو دیکھیں گے وہ اکثر زیادہ خاموش ہوگا۔

کہہ رہا ہے شور دریا سے سمندر کا سکوت  
جتنا جس کا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے

## نماز کیسے پڑھیں؟

جو نمازیں پڑھنی ہیں ان دس دنوں میں وہ بھائی بنا سنوار کر پڑھیں تعدیل ارکان کے ساتھ نماز پڑھیں، یعنی رکوع سجدہ جم کر کریں تسلی سے پنجابی میں کہتے ہیں نکا کے نماز پڑھنا، تو ان دس دنوں میں ہم اپنی نمازیں خوب توجہ الی اللہ کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں تسلی سے نماز پڑھیں اپنے رب کے سامنے اسکی مشق کریں آپ مشق کیجئے گا اللہ رب

العزیز انشاء اللہ رحمت فرمائیں گے۔

## ایک واقعہ

حضرت شاہ اسماعیل شہیدؒ ایک دفعہ گئے اپنے شیخ سید احمد شہیدؒ سے ملنے کیلئے شاہ صاحب نے پوچھ لیا کہ شہزادے میاں کیا چاہتے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ آگے سے میرے دل میں کیا آیا تو میں نے کہہ دیا کہ حضرت مجھے صحابہ جیسی کوئی نماز ہی پڑھا دیں ہم ہوتے تو کاروبار کی اچھائی کی دعا منگواتے یا نیک خوبصورت بیوی ملنے کی دعا منگواتے، انہوں نے دعا کیا منگوائی؟ کہ حضرت کوئی صحابہ جیسی نماز ہی ہمیں پڑھائیں سن کر خاموش ہو گئے، رات ہوئی تو تہجد میں میں اٹھا تو مجھے فرمانے لگے بھی اٹھ گئے؟ کہ جی اٹھ گیا، فرمانے لگے جاؤ اللہ کے لئے وضو کرو، فرماتے ہیں ان الفاظ میں پتہ نہیں کیا بجلی بھری ہوئی تھی کہ اللہ کے لئے وضو کرو کہ میرے دل پر ایک عجیب اللہ کی ہیبت، عظمت طاری ہو گئی اور میں نے جو وضو کیا تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں اور میں انکے سامنے وضو کر رہا ہوں کہنے لگے وضو کر کے آیا تو فرمانے لگے وضو کر لیا میں نے کہا جی کر لیا، فرمانے لگے اللہ کے لئے دو رکعت پڑھو اصل وہ توجہ باطنی بھی ساتھ مل رہی تھی تو یہ دو رکعت جو میں نے سنی اللہ کیلئے پڑھو تو بس اب تو میں نے دو رکعت کی نیت باندھی اور میرے اوپر گریہ طاری ہو گیا اور میں دو رکعت پڑھوں میرے دل میں خیال آیا میں نے تو بھی صحیح نہیں پڑھی پھر اگلی دو رکعت پھر اگلی دو رکعت کرتے کرتے اس رات میں نے سو نفل پڑھے اور میری دو رکعت پر بھی تسلی نہ ہوئی بعد میں پھر شیخ نے بتایا کہ صحابہ ایسی نمازیں پڑھا کرتے تھے کہ اپنی طرف سے ٹکا کے پڑھتے تھے اور پڑھنے کے بعد کہتے تھے [ما عبدناک حق عبادتک و ما عرفناک حق معرفتک] یہ صحابہ کی نماز تھی تو بھئی ان دنوں میں ہم بھی تعذیل ارکان کے ساتھ اس طرح نماز پڑھیں۔

## اللہ کا ہاتھ جماعت پر

یہ ذہن میں رکھنا دلوں کے اجتماع کو اللہ کے یہاں قبولیت میں بڑا دخل ہے اب آپ سنے کہ ہر روز پوری دنیا میں اپنے اپنے گھروں میں لاکھوں انسان بلکہ کروڑوں مسلمان روزانہ دعا مانگتے ہیں مگر وہ اپنے اپنے گھروں میں مانگتے ہیں اللہ کی طرف سے انکی قبولیت کا وعدہ کوئی نہیں ہے اور چند لاکھ مسلمان میدان عرفات میں اکٹھے ہو جاتے ہیں اب ان کے دل جمع ہو گئے ایک جگہ پر تو قبولیت دیکھیں کہ عرفات کے میدان میں حدیث پاک کے مطابق جو مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے بڑا گنہگار وہ ہوتا ہے جو عرفات میں وقوف عرفہ میں دعاء مانگے اور پھر کہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی سب سے بڑا گنہگار وہ ہے اتنے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں تو معلوم ہوا کہ مل کے جب کوئی عمل کرتے ہیں تو [ید اللہ علی الجماعۃ] تو جماعت کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ہاتھ ہوتا ہے لہذا جب مل کر دعا مانگتے ہیں پروردگار دعاؤں کو جلدی قبول کرتے ہیں۔

## اللہ کی مہربانی

حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام نے ایک دفعہ وعظ فرمایا ایسا بر تاثیر وعظ تھا کہ ایک صحابی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے جب نبی ﷺ نے محفل مکمل کی تو نبی ﷺ نے فرمایا ان کا رونا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند آیا ان کی وجہ سے پوری محفل کے لوگوں کی مغفرت فرمادی گئی، تو بھی اتنے لوگ جو ہر محفل میں دعاء مانگیں گے تو کوئی ایک تو اللہ کا مقبول بندہ تو ہوگا ایسا، ہم گنہگار سہی پتہ نہیں کیسے کیسے دل میں تقویٰ والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لئے اس وقت کو غنیمت سمجھیں اور اس میں ہم خوب اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگیں ایک اصول یاد رکھیں کہ جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت سے دوستی کرنے کی نیت کرے گا کوشش کرے

گا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسکو دشمنوں کی صفوں میں کبھی کھڑا نہیں فرمائے گا، اس مالک کی رحمت گوارا نہیں کریگی یہ دنیا میں مجھ سے دوستی کی کوششیں کرتا تھا اور مجھ سے دوستی کی دعائیں مانگتا تھا اسکو میں دشمنوں کی صف میں کھڑا کر دوں، اس لئے اس میں یہ دعا مانگئے [اللهم انی اسئلك منك] اے پروردگار میں آپ سے آپ ہی کو طلب کرتا ہوں آپ ہی کو چاہتا ہوں اللہ تعالیٰ کی محبت مانگئے پھر دیکھئے اس محبت میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیسی برکت عطا فرمائیں گے یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک موقع اور دیدارِ رمضان المبارک کا ورہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہمارے گناہوں کو دیکھا جائے تو چہرے ہی مسخ ہو جاتے زمین میں ہی دھنس جاتے پتہ نہیں کیا کیا عذاب آنے کے قابل تھے مگر اس پروردگار نے پھر مہربانی کی اپنے گنہگار بندوں کو اپنے در پر دلیز پکڑ کر بیٹھنے کا ایک موقع اور عطا فرمادیا تو اللہ تعالیٰ کا ارادہ خیر کا ہے وہ دینا چاہتا ہے وہ پروردگار اپنے آنے والوں کو خالی نہیں بھیجا کرتا، خنی دنیا کا نہیں سنا چاہتا کہ لوگوں کی محفل میں کوئی فقیر کہے اوجی میں نے آپ کے در سے مانگا تھا مجھے ملا نہیں تھا ارے دنیا! خنی سنا گوارا نہیں کرتا کہ لوگوں میں بیٹھ کر کوئی فقیر کہے میں اسکے دروازے پر گیا مانگا مجھے نہیں ملا پروردگار کیسے پسند فرمائیں گے کہ روزِ محشر کوئی بندہ کہے اللہ میں آپکے در پر یہ رو رو کر مانگتا تھا مجھے آپ کے در سے نہ ملا اللہ تعالیٰ کبھی سنا گوارا نہیں کریں گے، جو مانگے گا پروردگار عطا فرمادے گا ضرور عطا فرمائیں گے اسلئے اللہ تعالیٰ دے کر خوش ہوتے ہیں اور بندہ لے کر خوش ہوتا ہے تو اسلئے ہم خوب مانگیں اپنے پروردگار سے ان دس دنوں میں تہجد کی پابندی کریں تسبیحات ذکرِ مراقبہ مجالس کی پابندی کریں اور مجھے امید ہے کہ انشاء اللہ آپ جب یہ دس دن یہاں گزاریں گے نا تو دس دنوں کے بعد اٹھتے ہوئے ہم محسوس کریں گے کہ ہم کسی اور مقام پر چلے گئے تھے۔ اب! اپس اپنے گھروں میں دوبارہ آگئے ہیں انشاء اللہ دلوں کی کیفیت ایسی ہوگی۔



فکر دنیا کر کے دیکھی فکر عقبی کر کے دیکھ  
 چھوڑ کر اب فکر سارے ذکر مولیٰ کر کے دیکھ  
 کون کس کے کام آیا کون کس کا ہے بنا  
 سب کو اپنا کر کے دیکھا اب رب کو اپنا کر کے دیکھ  
 بڑے دنیا سے دل لگائے اب ان دس دنوں میں رب سے دل لگا کے  
 دیکھیں کہ وہ پروردگار کتنی مہربانیاں فرماتا ہے انشاء اللہ ہم آداب کے ساتھ وقت  
 گزاریں گے تو رب کریم ہم پر مہربانی فرمائیں گے رب کریم ہم آپ سب  
 کا یہاں حاضر ہونا قبول فرمائے آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ﴾

# روزِ جزا

از افادات

حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی زید مجید

﴿ایم ایسڈل لوسکا کا زامبیا میں بحالت اعتکاف ہوئے﴾

۲۰۰۳ء مطابق ۱۴۲۴ھ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ

رہ کے دنیا میں بشر کو نہیں زیا غفلت  
موت کا دھیان بھی لازم ہے کہ ہر آن رہے  
جو بھی بشر آتا ہے دنیا میں یہ کہتی ہے قضا  
میں بھی پیچھے چلی آتی ہوں ذرا دھیان رہے  
(خواجہ مجذوب)

## فہرست عناوین

صفحہ نمبر	عناوین	نمبر شمار
۳۷	عقیدہ آخرت کی مثال	۱
۳۸	ماننے میں فائدہ ہے	۲
۳۹	ایک دہریہ	۳
۳۹	آخرت کی تیاری دنیا میں	۴
۴۲	ایک واقعہ نے زندگی بدل دی	۵
۴۲	ایک عجیب واقعہ	۶
۴۳	ملائکہ کو اللہ والوں کے جوابات	۷
۴۵	روز قیامت کے نام	۸
۴۹	بڑے کی بڑی خبر	۹
۴۹	سرکاری گواہ	۱۰
۵۱	گناہ سے بچنے پر اللہ کی رحمت	۱۱
۵۲	بہاؤ الدین زکریا ملتانی	۱۲
۵۳	بچہ کا یقین	۱۳
۵۳	عورت کا استحضار	۱۴
۵۳	حضرت عمرؓ کا واقعہ	۱۵
۵۵	چرواہے کا استحضار	۱۶
۵۶	حضرت عمرؓ کی فکر	۱۷
۵۶	راجلہ بصریہ کا خوف	۱۸
۵۷	حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ	۱۹
۵۷	آخرت کے فکر مندوں کے اقوال	۲۰
۵۸	روز حساب	۲۱
۵۹	سیدنا ابو بکرؓ کا حساب	۲۲
۶۰	سیدنا عمرؓ کا حساب	۲۳
۶۰	سیدنا عثمانؓ کا حساب	۲۴
۶۲	عبداللہ ابن مبارکؓ کا خوف	۲۵
۶۲	خولہ بنت عثمانؓ خیر آبادی	۲۶
۶۳	محمد شاہ کا عجز	۲۷
۶۳	حضرت عیسیٰؑ کا خوف	۲۸
۶۳	عجیب واقعہ	۲۹

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ.....!

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
﴿اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَیْنَا لَا تُرْجَعُوْنَ﴾

وقال الله تعالى فى مقام آخر

﴿اَقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِی غَفْلَةٍ مُّعْرِضُوْنَ﴾

وقال الله تعالى فى مقام آخر

﴿اَقْتَرَبَ السَّاعَةُ وَاَنْشَقَّ الْقَمَرُ﴾

وقال الله تعالى فى مقام آخر

﴿وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُوْنَ فِیْهِ اِلَى اللّٰهِ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

عقائد اسلام

دین اسلام کے تین بنیادی عقائد ہیں

(۱)..... ایک عقیدہ ہے توحید کا کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے جس نے اس

کائنات کو پیدا کیا اسکی ذات میں یا اسکی صفات میں کوئی بھی شریک نہیں وہ  
وحده لا شریک ہے۔

(۲)..... دوسرا عقیدہ ہے رسالت کا کہ نبی ﷺ رب العزت کے سچے

رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔

(۳)..... اور تیسرا عقیدہ ہے آخرت کا کہ اس زندگی کے بعد ایک اور بھی زندگی ہے جس کو عالم آخرت کہا جاتا ہے جو کچھ انسان اس دنیا میں کرے گا اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینا پڑے گا اور یہ عقیدہ سب انبیاء کرام کا رہا اس لئے کہ دین کا تصور اسکے سوا ادھورا ہوتا ہے، ایک بندہ اگر اس دنیا میں خواہشات کو چھوڑتا ہے اچھائی کی خاطر قربانیاں دیتا ہے تو عقل تقاضہ کرتی ہے کہ اسے اس کا بدلہ ملنا چاہئے ایک آدمی اگر خواہشات کا بندہ بنتا ہے دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے انکو تکلیف دیتا ہے ایذا پہنچاتا ہے عقل تقاضہ کرتی ہے کہ اس بندے کو سزا ملنی چاہئے، تو دنیا عمل کی جگہ ہے قیامت کا دن اسکے بدلے کی جگہ ہے اسلئے دنیا کی زندگی ایک محدود زندگی ہے [وما جعلنا لرجل من قبلک الخلد] محبوب آپ سے پہلے بھی ہم نے کسی کے لئے دنیا میں ہمیشہ رہنا نہیں لکھا، تو ہم ایک محدود وقت گزاریں گے اور بالآخر اپنے رب کے پاس پہنچیں گے، دنیا میں جو کیا ہوگا اس کا حساب دینا پڑے گا، اسلئے ارشاد فرمایا ﴿واتقو یوما ترجعون فیہ الی اللہ﴾ تم ڈرو اس دن سے جس دن تمہیں اللہ کے پاس جانا ہے اس دن مؤمن کیلئے زندگی کا فیصلہ ہوگا، کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ ہوگا، یہ قیامت کا تصور انسان کی پریشانیوں کو کم کر دیتا ہے، انسان کو خوشیوں میں بدمست نہیں ہونے دیتا قابو میں رکھتا ہے، جو انسان جیسا کرے گا، ویسا بھرے گا، ادلے کا بدلہ جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھ جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھ

### عقیدہ آخرت کی مثال

دریا میں مچھلی ایک تیر رہی تھی اس سے دوسری بڑی مچھلی نے کہا کہ یہاں شکاری کا نالہ لگاتے ہیں تو ذرا سن بھل کے رہنا اگر تم نے حرص کی اور پھنس گئی

تو شکاری تمہیں اپنی طرف کھینچے گا، پھر وہ چھری سے تمہارے نکلے کرے گا اسکی بیوی تمہیں نمک مرچ لگائی گی، آگ کے شعلوں پر پکائے گی، دسترخوان پر سجائے گی، پھر مہمانوں کو بلائے گی، پھر وہ سب تمہیں بتیس دانتوں میں خوب چبا چبا کر کھائیں گے، اب وہ چھوٹی مچھلی کہنے لگی کہ اچھا میں ذرا دیکھتی ہوں کہ یہ سب چیزیں کہاں ہیں وہ اگر ساری عمر دریا میں چکر لگاتی رہے، تب بھی نہ چھری دیکھے گی، نہ آگ دیکھے گی، نہ بتیس دانت دیکھے گی، اسلئے کہ وہ پانی میں ہے ہی نہیں، یہ تو اعتبار کرنے والی بات ہے، مان جائے تو اسکا اپنا فائدہ نہیں مانے گی تو جیسے ہی وہ اس شکاری کے کانٹے میں پھنسے گی اسکے ہاتھوں میں آتے ہی یہ سب منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے گی پورا پوروس اسکے ساتھ ہوگا۔

اب پچھتائے کیا ہوت جب جڑ یا چک گئی کھیت

### ماننے میں فائدہ ہے

انڈے کے اندر مرغی کا بچہ ہے پیدا ہونے سے چند لمحے پہلے اگر اسکو کوئی بتائے کہ تم ایک ایسے جہان میں جا رہے ہو، جہاں چھٹ کا انسان ہوتا ہے اور سوسومنز لہ بلدنگیں ہوتی ہیں اور پچاس فٹ اونچے درخت ہوتے ہیں، پہاڑ ہوتے ہیں، سمندر ہوتے ہیں، دریا ہوتے ہیں، وہ کہے اچھا میں دیکھتا ہوں تو انڈے کے اندر تو اسکو کچھ نظر نہیں آسکتا، مان جائے تو بہتر نہیں مانے گا تو جیسے ہی انڈے سے باہر نکلے گا وہ انسان کو بھی دیکھے گا، وہ درختوں کو بھی دیکھے گا وہ پہاڑوں کو بھی دیکھے گا وہ دریاؤں کو بھی دیکھے گا۔

بالکل یہی حال انسان کا ہے کہ نبی علیہ السلام نے معراج کی رات میں جنت اور جہنم کے حالات کو دیکھا، اللہ تعالیٰ کے محبوب نے دنیا میں آکر اسکی گواہی دی، سمجھایا، کہ ایک دن آنے والا ہے، جب تمہارا حساب ہوگا، لوگو اس دن کی تیاری کر لو اب ہم اگر اسکو مان لیں تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اسکے لئے

تیاری کر لیں گے اور اگر نہیں مانیں گے تو اپنا ہی نقصان کریں گے۔

## ایک دہریہ

ایک دہریہ حضرت علیؑ کے پاس آیا کہنے لگا کہ میں تو کہتا ہوں کہ دنیا کو کسی نے نہیں پیدا کیا اور آپ کہتے ہیں کہ خدا نے پیدا کیا کیوں کہتے ہیں؟ حضرت علیؑ نے دیکھ لیا کہ یہ دلائل سے سمجھنے والا بندہ نہیں ہے، کسی اور طریقہ سے اسکے خانہ میں بات بیٹھے گی تو اسے بلا کر کہا کہ دیکھو بھی تم کہتے ہو کہ خود بخود کائنات پیدا ہوئی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا؟ لہذا ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں اگر مان لیا کہ تمہاری بات ٹھیک ہے تو ہماری محنت تو ہو ہی رہی ہے ہمارا نقصان کوئی نہیں اور اگر ہماری بات ٹھیک نکل آئے تو بچو تمہیں دھر لیا جائے گا، اب بتاؤ احتیاط کس میں ہے؟ تو وہ کہنے لگا بات تو ٹھیک ہے کہ اگر ہماری بات ٹھیک نکلے تو ان کو فرق نہیں پڑتا اور انکی ٹھیک نکل آئی تو جو ہماری گت بنے گی وہ پھر دنیا دیکھے گی، تو مؤمن کو تو اس پر یقین ہے ہم تو مان چکے، ایمان لا چکے کہ نبی ﷺ اللہ تعالیٰ کی طرف جو لے کر آئے وہ سب کچھ سچ ہے، ہم اسکی تصدیق کرتے ہیں، لہذا اس دن کی تیاری کریں۔

## آخرت کی تیاری دنیا میں

آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جب بچے کے پیپر ہوتے ہیں تو وہ چند دن بہت مصروف رہتا ہے ساری مصروفیات ترک کر دیتا ہے نہ کہیں کھیلوں میں حصہ لیتا ہے نہ کہیں دوستوں کی برتھ ڈے پارٹیوں میں حصہ لیتا ہے، وہ کہتا ہے جی میرا امتحان ہے، ماں باپ کو بھی کہتا ہے جی مجھے ڈسٹرب نہ کریں، تھوڑا کھاتا ہے، تھوڑا پیتا ہے، تھوڑا سوتا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اپنی پڑھائی میں لگاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آج میں محنت کروں گا ایک دن آئے گا کہ مجھے کامیابی پر پھولوں کے ہار پہنائے جائیں گے، پھر جب امتحان کا دن



آتا ہے تو ایک اس کا اے پیپر ہوتا ہے اور ایک اس کا بی پیپر ہوتا ہے اسکے بعد اس کا رزلٹ نکلتا ہے

مؤمن کے ساتھ یہی معاملہ ہے کہ مؤمن دنیا میں اس امتحان کے لئے تیاری کر رہا ہے وہ اس دنیا میں اپنی خواہشات کو گھٹاتا ہے ضروریات پوری کرتا ہے اسلئے کہ ضروریات کی انتہا ہوتی ہے اور خواہشات کو پوری نہیں کرتا اسلئے کہ خواہشات کی کوئی حد نہیں ہوتی اور آخرت کو ہر وقت سامنے رکھتا ہے کہ اس دن میرا کیا بنے گا؟ اسکی تیاری کرتا ہے اب جب اس دنیا سے فوت ہوتا ہے تو قبر میں اسکا لے پیپر ہوتا ہے اس اے پیپر میں ہر بندے سے تین سوال پوچھے جائیں گے، دنیا میں لوگ ممکنہ سوالات کے پیپر جاری کرتے ہیں کہ ہم اندازہ لگاتے ہیں کہ کیا سوالات آئیں گے اللہ تیری کریمی پر قریان جائیں کہ آپ نے اپنے محبوب کے ذریعہ پیپر پہلے ہی آؤٹ کر دیا، بھی تمہیں بتا دیتے ہیں سوالات کیا ہیں، تو تم انکی تیاری کر لینا، چھوٹے چھوٹے تین سوال ہوں گے، تینوں لازمی

(۱)..... پہلا سوال من ربك تیرا رب کون ہے؟ مگر اس کا جواب ہر بندہ نہیں دے سکے گا، جواب وہ دے گا کہ جس نے دل میں اس یقین کو بٹھایا ہوگا کہ میرا پروردگار اللہ ہے اور اگر وہ سمجھے گا کہ مجھے دفتر پالتا رہا دوکان پالتی رہی لوگ پالتے رہے تو وہ رب کا نام کیسے لے سکے گا، وہ چیز زبان سے نکلے گی جو دل میں ہوگی، ایک صاحب نے طوطا پالا اسکو اللہ اللہ کا ذکر سکھایا لوگ سو در در سے اسکو دیکھنے آتے اسکی باتیں سننے آتے، اللہ تعالیٰ کی شان کہ ایک بلی اس طوطے کو پکڑ کر لے گئی، پنجرہ کھلا رہ گیا تھا، وہ جب لے جا رہی تھی تو طوطا ٹپس ٹپس کر رہا تھا، اسکو دکھ تو بڑا ہوا میری محنت بے کار گئی، ایک اللہ والے کے سامنے تذکرہ ہوا تو وہ کہنے لگا حضرت چلو صدمہ جو تھا سو تھا یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میں نے اسکو اللہ اللہ سکھایا حضرت بلی پکڑ کر لے جا رہی تھی پیچارہ ٹپس

نہیں کرتا جا رہا تھا ان بزرگ نے کہا کہ بات یہ ہے اسکی زبان پر کلمہ تھا اسکے دل میں ٹیس ٹیس تھی جب موت کا وقت آتا ہے وہ نکلتا ہے جو دل میں ہوتا ہے، اسلئے تمہارے طوطے نے ٹیس ٹیس کی تو بھی ہماری زبان پہ ویسے تو کلمہ رہے اور دل میں دنیا کی محبت بسی ہو تو پھر موت کے وقت جواب کیا نکلے گا؟ اسلئے اس یقین کو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے کہ ہم نوکری سے نہیں پل رہے ہم کارخانہ سے نہیں پل رہے دفتر سے نہیں پل رہے بزنس سے نہیں پل رہے ہمیں پالنے والا پروردگار ہے؟ اللہ بھلا کرے ہمارے یہ جماعت کے دوست یہی تو آواز لگاتے ہیں اسی کو سیکھنے کے لئے آپ سب حضرات کو دعوت دیتے ہیں کہ یہ دل میں پہلے سے ہم بٹھالیں، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے تب دل میں یہ یقین بیٹھتا ہے ورنہ تو جہاں نظریں لگی ہوتی ہیں، بس وہی انسان کو یقین ہوتا ہے

(۲)..... دوسرا سوال ہو گا من نبیک تیرے نبی کون ہے؟ اب اس کا جواب صحیح تو وہی دے گا، جس نے قدم قدم پر نبی کے مبارک طریقہ پر پیروی کی ہوگی، جس نے نبی کے زیر قدم رہ کر زندگی گزاری ہوگی، کھانے میں پینے میں لباس میں، طعام میں، قیام میں، ہر چیز میں جس، نے نبی کے طریقہ کو اپنایا ہوگا تو وہ انسان کہے گا، کہ میرے نبی اللہ کے محبوب ہیں

(۳)..... اور تیسرا سوال ہو گا ما دینک تیرا دین کون سا تھا؟ اللہ والوں نے محنت کی ہوتی ہے انکی موت بھی شان سے آتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو بندہ باقاعدگی کے ساتھ مسواک کرتا ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو بھیجتے ہیں وہ اس سے شیطان کو مار بھگاتا ہے اور اس بندے کو بتا دیتا ہے کہ تیرا وقت قریب ہے تو کلمہ پڑھ لے، اب یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ شیطان کو مار کر دور بھگائیں اور کلمہ یاد دلایں، چنانچہ اللہ والوں کو موت کے وقت ایسی بشارتیں ہو جاتی ہیں، انکے آگے کے مسئلے بھی اللہ آسان کر دیتا ہے، اسلئے کہ انکا دل

مخلوق میں نہیں انکا ہوتا انکا دل خالق کے ساتھ جڑا ہوتا ہے۔

## ایک واقعہ نے زندگی بدل دی

”تذکرۃ الاولیاء“ کے مصنف خواجہ فرید الدین عطارؒ کی عطر کی دوکان تھی جو ان العر تھے، عام زندگی تھی، دل مخلوق میں خوب ادھر ادھر لگا ہوا تھا ایک دن ایک باخدا بندہ انکی اس دوکان پر آیا اور انکی شیشیوں کو بڑے غور سے دیکھنے لگا، تو یہ کہنے لگے، کہ بڑے میاں کیا دیکھ رہے ہو، بڑے میاں کہنے لگے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اتنی شیشیوں میں آپکی جان انکی ہوئی ہے، یہ کیسے نکلے گی؟ تو انہوں نے غصہ میں آکر کہا کہ بڑے میاں جیسے تمہاری نکلے گی ویسے میری نکلے گی، اس نے کہا اچھا، پھر میری تو ایسے نکلے گی، اسکے پاس کپڑا تھا وہیں دوکان میں فرش پر لیٹ گیا، کپڑا اوپر کیا، کہا لا الہ الا اللہ یہ سمجھے کہ کوئی بہانہ اور ڈرامہ کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے بعد جب کپڑا ہٹایا دیکھا تو واقعی وہ اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، دل پر چوٹ لگی کہ واقعی یہ ہیں باخدا لوگ کہ جو دنیا سے دل نہیں لگاتے، اپنے رب سے دل لگاتے ہیں اور پھر کلمہ پڑھ کر دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں پھر بعد میں چل کر یہ بڑے اولیا میں شامل ہوئے۔

## ایک عجیب واقعہ

سری سقطیؒ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ایک جگہ بیٹھے تھے ایک درویش بندہ آیا کہتا ہے کوئی اچھی سی جگہ ہے جہاں کوئی مر سکے ہم حیران ہو گئے اس کی بات سن کر میں نے کہا وہ سامنے کنواں ہے، وہ گیا وہاں کنویں پر اس نے وضو کیا اور دو رکعت نفل پڑھے اور جا کر لیٹ گیا، ہم سمجھے سویا ہوا ہے، نماز کا وقت آیا ہم نے بھی وضو کیا جب اسکو جگانے گئے دیکھا وہ تو اللہ کو پیارا ہو چکا تھا، یہ اللہ والے اس طرح دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور آگے کا معاملہ بھی انکا ایسا ہی ہوتا ہے۔

بایزید بسطامیؒ خواب میں کسی کو نظر آئے تو اس نے پوچھا کہ جناب آگے

کیا بنا؟ تو کہنے لگے کہ جب میں قبر میں گیا تو فرشتے کہنے لگے اے بڑھے کیا لائے ہو؟ تو میں نے جواب دیا کہ جب بادشاہ کے دربار میں آتے ہیں تو یہ نہیں پوچھتے کیا لایا ہے؟ ہمیشہ پوچھتے ہیں تو کیا لینے کے لئے آیا ہے؟ میری بات سن کر فرشتے مسکرا پڑے اور کہنے لگے اسکا یقین پکا ہے اور وہ وہاں سے چلے گئے،

## ملائکہ کو اللہ والوں کے جوابات

(۱)..... جنید بغدادی خواب میں نظر آئے کسی نے کہا جی آگے کیا بنا؟ انہوں نے کہا فرشتے آئے تھے کہنے لگے من ربك تیرا رب کون ہے؟ میں نے انکو اتنا بتا دیا کہ میرا رب وہی ہے جس نے تمہیں حکم دیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو وہ آپس میں کہنے لگے کہ یہ تو آگے سے ہو کر ملا۔

(۲)..... شیخ عبدالقادر جیلانی کو کسی نے دیکھا، حضرت آگے کیا بنا؟ کہنے لگے قبر میں فرشتے آئے تھے پھر پوچھنے لگے من ربك تیرا رب کون ہے؟ تو میں نے انہیں کہا کہ دیکھو تم عرش سے فرش پر آئے ہو اتنا سفر کر کے اور رب کو نہیں بھولے تو زمین کے اوپر سے میں دو گز نیچے آ کر اپنے رب کو بھول جاؤں گا۔

(۳)..... رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی خواب میں نظر آئیں کسی نے پوچھا کہ آگے کیا بنا؟ کہنے لگیں فرشتے آئے تھے تو پوچھ رہے تھے کہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا جا کر اللہ تعالیٰ کو کہہ دو اللہ تیری اتنی کھربوں مخلوق ہے، اتنی مخلوق میں سے تو ایک مجھ بڑھیا کو نہیں بھولا، میرا تیرے سوا ہے ہی کون؟ میں تجھے بھلا کیسے بھول جاؤں گی۔

تو یہ جواب بندہ کب دے سکتا ہے؟ جب دل کا یقین بنا ہوا ہوتا ہے، جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے، ورنہ تو انسان اس وقت پریشان ہوتا ہے کہ میں کیا کہوں تو یہ اے پیر قبر میں ہوگا، پھر اگر جواب ٹھیک دیدیئے تو قبر کو جنت کا باغ بنادیں گے، نہ دئے تو جہنم کا گڑھا بنادیں گے یہ ابھی ٹرانزٹ ہو گا قیامت کے دن سب

کو اٹھایا جائے گا، اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوں گے اور وہاں پر پانچ سوالوں کے جواب سب کو دینے پڑیں گے، بنی آدم کے پاؤں اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے جب تک وہ ان سوالوں کے جواب نہ دیدیں، تو وہ سوال ہماری زندگی کا بی پیپر ہوگا اس میں بھی سب جواب دینے ضروری ہیں اور وہ بی پیپر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے ذریعہ آؤٹ کروا دیا ہے، پوچھا جائے گا:

اے بندے تو نے زندگی کیسے گزاری؟

تو نے جوانی کیسے گزاری؟

مال کہاں سے کمایا کہاں پر خرچ کیا؟

اپنے علم پر کتنا عمل کیا؟

اب اس وقت ان سوالوں کا جواب دینا یہ بہت مشکل کام ہوگا، تاہم جو لوگ نیکی کر کے دنیا سے جائیں گے، پروردگار ان کے ساتھ رحمت کا معاملہ فرمائیں گے اور جو لوگ دنیا میں ایمان سے محروم رہیں گے اور محروم ہی اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچیں گے تو انکے لئے جہنم ٹھکانہ ہوگا اسلئے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ﴿و امتازو الیوم ایہا المجرمون﴾ اے مجرموں! آج کے دن میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہو جاؤ، دو الگ الگ راستے ہوں گے ایک طرف جنتی لوگوں کو بھیجا جائے گا اور دوسری طرف جہنمی لوگوں کو بھیجا جائے گا، تو یہ قیامت کا تصور اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے، یہ جتنا انسان کے دل میں راسخ ہوگا اتنا اسکی زندگی صحیح لائن پر ہوگی، اسلئے آپ قرآن پاک کا مطالعہ کریں ایک تو پوری سورت اسی نام سے ملے گی القیامۃ اور دوسرا یہ کہ ہر دوسرے صفحہ پر آپ کو کسی نہ کسی انداز میں قیامت کا تذکرہ ملے گا، اتنا اہم یہ مسئلہ ہے، کہ قرآن پاک کے ہر صفحہ یا ہر دوسرے صفحہ پر آخرت کی یاد دلائی گئی کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے۔

قیامت کے مختلف نام قرآن وحدیث میں وارد ہیں جیسے اللہ تعالیٰ عظمت

والے ہیں انکے بے انتہا نام ہیں

جس کے ناموں کی نہیں ہے انتہا

ابتدا کرتا ہوں اس کے نام سے

## روز قیامت کے نام

نبی ﷺ کی شان بڑی انکے بھی ننانوے نام، قرآن مجید کے بھی ساٹھ کے قریب نام مفسرین نے لکھوائے ہیں اسی طرح قیامت کے بھی بہت سارے نام قرآن وحدیث میں آئے ہیں، مثال کے طور پر اس کا ایک نام ہے یوم القيامة قیامت کا دن، لیل القیامۃ نہیں کہا گیا قیامت کی رات قیامت کا دن کہا کیوں؟ کہ جب بندے کی موت آتی ہے تو رات ہو جاتی ہے رات میں ہی سوتا ہے، تو مؤمن قبر میں رات میں سوئے گا اور صبح بیدار ہوتا ہے اور یہ قیامت کی صبح بیدار ہوگا اور پھر اپنے مالک سے ملاقات کرے گا اسکو یوم الحسرة بھی کہا گیا، حسرت کا دن، کچھ لوگ ہونگے جو دھوکے میں رہیں گے اور تیاری نہیں کر سکیں گے، تو قیامت کے دن انکو حسرت ہوگی ہم بڑے اسماٹ تھے ہم بڑے چلتے پرزے تھے، ہم بڑے کام نکال لیتے تھے، اوہو اسمیں ہم مار کھا گئے، قال رب ارجعون کہیں گے اللہ ایک چانس اور دیدے فرمایا جائے گا کلا ہرگز نہیں ہرگز نہیں، اب وہ ہاتھ ملیں گے کہ ہم نے دنیا میں اس کو سیریس کیوں نہ لیا اسلئے قیامت کا ایک نام حسرت کا دن اور ایک نام یوم حساب ﴿رب اجعلنی مقيم الصلوة ومن ذریعتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب﴾ تو اس دن اللہ رب العزت حساب لیس گے اور یہ حساب دینا کوئی آسان نہیں ہوگا، جیسے مولانا حبیب اللہ صاحب فرما فرما رہے تھے کہ جس کا سب کام ٹھیک ہو آڈٹ والوں کا نام سن کر اسکو بھی پسینہ آ جاتا ہے پتہ نہیں کیا نکال دیں، ہم ٹھیک سمجھ رہے ہوں اور غلطی ہو تو اسلئے قیامت کے دن اللہ

تعالیٰ کے حضور حساب دینا ہے، جب یہ بات انسان سنتا ہے تو پھر اسکو ڈر لگتا ہے اسلئے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَكُفِّي بِنَا حَاسِبِينَ﴾ کہ ہم حساب لینے والے کافی ہیں، ہمیں حساب لینا آتا ہے، ہم تمہیں حساب لیکر دکھائیں گے ﴿وَنُضِيعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ قیامت کے دن ہم میزانِ عدل قائم کر کے دکھائیں گے، اس کا نام یوم الندمۃ بھی ہے ندامت کا دن شرمندگی کا دن کہ دنیا میں انسان لوگوں کے سامنے نیک بن کر رہے گا اور اندر رنگ کچھ اور ہوگا، تو قیامت کے دن اسکا ڈھول کا پول کھل جائے گا اب ندامت ہوگی لوگ کہیں گے جی تمہاری باتیں سن کر ہی تو ہم نیک بنے ہاں بھی اوروں کو نصیحت خود میاں فصیحت، ہم تمہیں نصیحت کرتے تھے خود چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے، اس لئے آج ہمیں پریشانی ہوئی، اسلئے ایک روایت میں آتا ہے کہ حسرت والوں میں سے ایک وہ بندہ بھی ہوگا، کہ جو مالک ہوگا اور اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائے گا اور اسکی آنکھوں کے سامنے اسکا غلام اپنی نیک نامی کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہوگا، تو مالک کو حسرت ہوگی یہ دنیا میں میرا غلام تھا مجھ سے تو یہ بھلا نکلا، میں من مانی کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہوں اور یہ فرماں برداری کی وجہ سے جنت میں جا رہا ہے اسی لئے ندامت کی وجہ سے قیامت کے دن مجرم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے آنکھ اٹھا نہیں سکیں گے قرآن مجید میں فرمایا ﴿وَلَوْ تَرَىٰ اِذِ الْمَجْرَمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ﴾ اگر تم مجرم لوگوں کو دیکھو کہ انکے چہرے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکے ہوئے ہونگے اپنی نگاہیں نہیں اٹھا سکیں گے، شرم کی وجہ سے شرمندہ ہونگے، اس کو زلزلہ کا دن بھی کہا گیا ﴿اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا﴾ آج اس دنیا میں زلزلہ آتا ہے نا اللہ آدھے منٹ میں اپنی حقیقت معلوم ہو جاتی ہے، اس دن تو ایسا زلزلہ آئے گا کہ نہ اس سے پہلے آیا نہ کبھی بعد میں آئے گا، زمین کو ہلا کر رکھ دیا جائے گا، اس کا ایک نام ”کڑک کا دن“ آج بارش کے وقت

جب بجلی چمک رہی تھی، بادل کڑک رہے تھے، تو کیسے دل دہل رہے تھے تو قیامت کے دن کا نام کڑک کا دن بھی ہے، ایسی آواز پیدا ہوگی جو دلوں کو دہلا کر رکھ دے گی کیلچے منہ کو آئیں گے، اسی لئے تو کہا ﴿یوم ترونہا نذہل کل مرضعة عما رضعن﴾ دودھ پلانے والی دودھ پینے والے کو بھول جائیں گی، ایک اسکا نام ”کھڑکھڑانے“ کا دن یہ بھی اسی آواز سے متعلقہ ایک اسکا نام ہے ”روز واقعہ“ ﴿اذا وقعت الواقعة﴾ تو وہ دن عجیب دن ہوگا کہ جب انسان کے ایک نیا معاملہ پیش آئے گا ایک نام ہے اس کا ”چھا جانے والا دن“ ایک ہے ”دلوں کو دہلا دینے والا دن“ بڑوں بڑوں کے پتے پانی ہو جائیں گے ایک ہے ”روز برحق“ ایسا دن جس میں کوئی شک نہیں ایک اسکا نام ہے ”ہنگامہ کا دن“ عجیب ہنگامہ ہوگا، سب بھاگ رہے ہونگے، نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا عائشہ صدیقہؓ کو کہ لوگ قبروں سے اٹھیں گے جس حالت میں دفن کئے گئے ہوں گے اور بھاگ رہے ہوں گے انہوں نے حیران ہو کر پوچھا اے اللہ کے محبوب کیا انکے ستر چھپے ہوئے نہیں ہوں گے، تو نبی ﷺ نے فرمایا نہیں تو کہنے لگیں اللہ کے نبی پھر مرد اور عورتیں اکٹھے کیسے ہوں گے تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس دن دل ایسے دہلا دیئے جائیں گے کہ آدمی کو دوسرے کی طرف دھیان کرنے کا موقع ہی نہیں ہوگا سب کو اپنی پڑی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا ﴿ولا تذروا ذرۃ و ذرۃ اخری﴾ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، ایک اسکا نام ہے ”چیخ و پکار کا دن“ کہ انسان اس دن کی سختی کو دیکھیں گے تو چیخیں گے، چلائیں گے، روئیں گے، مگر اسکا نتیجہ نہیں ہوگا ایک اسکا نام ہے ”ملاقات کا دن“ کہ لوگ اپنے رب سے ملاقات کریں گے جس نے فرمانبرداری کی ہوگی وہ دوست کی شکل میں ملاقات کرے گا اور جس نے نافرمانی کی ہوگی وہ مجرم کی شکل میں اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ایک اسکا نام ہے ”باہم پکارنے کا دن“ ایک دوسرے کو مدد کے



لئے پکاریں گے، مگر کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ﴿الاخلاء یومئذ بعضہم لبعض عدوا﴾ المتقین ﴿﴾ دوست ایک دوسرے کے ساتھ دشمن ہو جائیں گے، ایک اس کا نام ہے ”بدلہ کا دن“ اللہ تعالیٰ ہر ایک کے عمل کا بدلہ اس کو دلوائیں گے، ظلم کیا ہوگا تو بدلہ ملے گا اچھائی کی ہوگی تو اجر ملے گا، بدلہ ضرور ملے گا ایک اس کا نام ہے ”ڈراوے کا دن“ ڈرانے والا دن، ایک نام ہے ”پیشی کا دن“ کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوگی، بندوں کی، ایک نام ہے ”اعمال کے وزن ہونے کا دن“ اور ایک نام ہے ”فیصلہ کا دن“ کہ انسان کے لئے جنت یا جہنم کا فیصلہ ہوگا اے انسان یا تو زندگی کی بازی جیت جائے گا یا زندگی کی بازی ہار جائے گا، ایک نام ہے ”جمع ہونے کا دن“ اولین اور آخرین کو اللہ ایک جگہ جمع فرمادیں گے ایک نام ہے ”دوبارہ اٹھنے کا دن“ ایک نام ہے ”اس کا رسوائی کا دن“ یقینی بات ہے کہ آخرت کی رسوائی بہت بڑی اور بہت بری ہے ایک نام ہے اس کا ”سختی کا دن“ کہ عرش کے سایہ کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا اور بندہ اپنے گناہوں کے بقدر پسینہ میں شرابور ہوگا، ایک نام ہے ”پھیلنے کا دن“ اور ایک ہے ”انصاف کا دن“ اور ایک فرمایا کہ وہ دن جب کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا ﴿یوم یفر المرء من اخیه وامه وایہ وصاحبته وبنیہ﴾ بھاگیں گے، ماں باپ بھی اپنی بیٹے سے دور، دنیا میں محبت کی اظہار کرنے والی مائیں انجان بن جائیں گی، بڑے شفیق باپ انجان بن جائیں گے، بہن بھائی کی محبتوں کے دعوے کرنے والے سب ایک دوسرے سے انجان ہونگے، انسان اس دن حسرت کریگا ﴿یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلاً﴾ اے کاش میں رسول کے بتائے ہوئے راستہ پر چلتا یا ﴿یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلاً﴾ اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا ﴿لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ بئانی وکان الشیطان للانسان خذولاً﴾ اسی لئے قرآن مجید میں اس قیامت کے واقعہ کو بہت بڑی خبر کہا گیا۔

## بڑے کی بڑی خبر

دیکھیں بھائی ایک ہوتا ہے میرا اور آپ کا کسی کو بڑا کہہ دینا، ایک ہوتا ہے کسی بڑے کا کسی کو بڑا کہنا، علامہ شبیر احمد عثمانی لکھتے ہیں جب بڑے کسی کو بڑا کہیں وہ چیز واقعی بہت بڑی ہوتی ہے سب بڑوں کے بڑے نے رب کریم نے اس چیز کو اس خبر کو بڑی خبر کہا ﴿عم يتساءلون عن النبا العظيم﴾ یہ آپ سے بڑی خبر کے بارے میں پوچھتے ہیں تو جب اللہ کریم کسی چیز کو بڑا کہہ رہے ہوں تو وہ کتنی بڑی بات ہوگی معلوم ہوا کہ ہم نے قرآن مجید میں جو قوم نوح علیہ السلام کے سیلاب کی خبر سنی وہ چھوٹی، جو قوم عاد کے مرنے کی خبر سنی وہ چھوٹی، جو قوم ثمود پر کڑک کی بات سنی وہ چھوٹی، جو قوم لوط پر پتھروں کی خبر سنی وہ چھوٹی، جو فرعون کے ڈوبنے کی خبر سنی وہ چھوٹی، جو یوسف علیہ السلام کے بکنے کی خبر سنی وہ چھوٹی، جو عیسیٰ علیہ السلام کو عرش پر اٹھانے کی خبر سنی وہ چھوٹی، یہ سب خبریں چھوٹی ہیں ایک خبر ان سب سے بڑی خبر ہے جسکو پروردگار فرماتے ہیں ﴿عن النبا العظيم﴾ بڑی خبر جس کو قیامت کے دن کی بات کہتے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے اسی لئے اس خبر کو بھی بڑی خبر کہا اور اس دن کے واقعہ کو بڑا واقعہ کہا گیا ﴿يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شنى عظيم﴾ اللہ تعالیٰ خود عظیم ہیں وہو اعلیٰ العظیم اس عظیم پروردگار نے اسکو نبأ عظیم بھی کہا اور شینی عظیم بھی کہا تو معلوم ہوا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں دور ہے ﴿ان ہم یرونہ بعیدا و نراہ قریبا﴾ ”یہ اسے دور سمجھتے ہیں اور ہم اسے قریب دیکھتے ہیں“ چنانچہ اس دن ہر بندہ اپنے اعمال کے حساب سے گروی ہوگا ﴿کل امرء بما کسب دھین﴾ اپنے عملوں کے بقدر گروی ہوگا جیسے گروی چیز کو چھڑانا پڑتا ہے عمل ہوں گے تو چھوٹے گا ورنہ نہیں چھوٹے گا۔

## سرکاری گواہ

اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چار گواہ پیش کریں گے

(۱)..... ایک تو نامہ اعمال پیش ہوگا انسان کے گناہوں پر ﴿ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه﴾ جب کتاب پیش ہوگی تو مجرم لوگ افسوس میں جب اپنے کرتوتوں کو دیکھیں گے تو ڈریں اور کانپیں گے اور زبان سے کہہ بھی دیں گے ﴿ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة﴾ مسماہا ﴿کوئی چھوٹا کوئی بڑا عمل ایسا نہیں جو اس میں درج نہ کر دیا گیا ہو﴾ ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدًا ﴿

(۲)..... اور دوسرے فرشتے گواہی دیں گے ﴿ان عليكم لحافظين﴾ کراما کاتبین يعلمون ما تفعلون ﴿

(۳)..... اور تیسرے جسم کے اعضاء گواہی دیں گے جن سے انسان گناہ کرتا ہے۔ ﴿يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون﴾

(۴)..... اور چوتھا اللہ تعالیٰ کی زمین گواہی دے گی ﴿يومئذ تحدث اخبارها﴾ بان ربك اوحى لها ﴿جیسے فائلیں مینین کی جاتی ہیں اب دنیا میں ویڈیو کیسرے کے ذریعہ لوگ منظر کو سیو کر لیتے ہیں کیچ کرتے ہیں پیش کرنے کے لئے، ایسے ہی یہ زمین کا ویڈیو کیسرہ یہ سب کے فوٹو لے رہا ہے اور قیامت کے دن یہ اپنی خبریں نشر کرے گا، اس نے میری اس جگہ پر یہ کیا، میری اس جگہ پر یہ کیا، میری اس جگہ پر یہ کیا، اور انسان کے اعضاء یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ پولیس ہے انہیں سے بندہ گناہ کرتا ہے اور یہی قیامت کے دن اللہ کے سامنے گواہی دیں گے، گناہوں کی، پھر کیا بنے گا؟ اس لئے مومن کو چاہئے کہ ہر وقت قیامت کا خیال رکھے اور یہ سوچے کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھتے ہیں اور میں اللہ تعالیٰ کی نظر سے اوجھل نہیں ہو سکتا، جب دل میں یہ یقین بیٹھ گیا تو اب بندے کے لئے گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اس لئے نبی ﷺ نے اس یقین کو خوب بٹھایا تھا، صحابہ کرام کا ایسا یقین بن گیا تھا کہ

انکو یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ہم ہر وقت اللہ رب العزت کے عرش کے سامنے ہیں، چنانچہ حدیث پاک ہے نبی ﷺ نے حارثہؓ سے پوچھا [کیف اصبحت یا حارثہ] ”اے حارثہ تم نے کیسے صبح کی؟“ انہوں نے جواب میں کہا اے اللہ کے نبی اس حال میں صبح کی کہ مجھے یوں لگتا ہے میں اپنے رب کے عرش کے سامنے کھڑا ہوا ہوں، ایسا انکا کامل یقین بن گیا تھا، چنانچہ جب یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونا ہے تو پھر بندہ اپنے نفس کو قابو کرتا ہے۔

### گناہ سے بچنے پر اللہ کی رحمت

کتابوں میں ایک باندی کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک قصاب اس پر بدنیت ہو گیا ہو گیا تھا، موقعہ کی تلاش میں تھا وہ کسی کام کے لئے باہر نکلی تو اس نے موقعہ غنیمت پایا تو اسکے سامنے اپنے برے خیال کا اظہار کیا کہ میں تجھ سے برائی کرنا چاہتا ہوں، سمجھا رہی تھی اس نے آگے سے کہا کہ دیکھو جتنی محبت تم مجھ سے کرتے ہو اس سے زیادہ محبت میرے دل میں ہے مگر میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتی ہوں اسلئے میں گناہ نہیں کرنا چاہتی اس خدا کی بندی نے جو الفاظ کہے نا کہ میں اللہ سے ڈرتی ہوں تو ان الفاظ کی وجہ سے اس نوجوان کے دل پر اثر ہوا اور اس نے گناہ سے بچنے کی کوشش کر لی اس نے دل میں سوچا چلو میں اب چلا جاتا ہوں کہیں جب شہر سے باہر نکلا تو اسکو ایک بڑے میاں ملے کوئی بزرگ تھے وہ بھی جارہے تھے ایک دوسرے سے سلام دعا ہوئی کہاں جانا ہے کہا اُس بستی میں جانا ہے، آپ نے کہاں جانا ہے؟ اسکے قریب دوسری بستی میں جانا ہے، اچھا تو پھر اکٹھے سفر کرتے ہیں، تین دن اکٹھے چلے، گری کا موسم تھا جب دونوں چلے تو ان کے سروں پر بادل نے سایہ کیا ہوا تھا، قصاب بھی سمجھتا رہا کہ اس بزرگ کی وجہ سے اللہ کی یہ رحمت اور وہ بزرگ بھی سمجھتے تھے کہ یہ مجھ پر اللہ کی مہربانی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب تین دن کے بعد ان کا راستہ

جدا ہوا تو بادل قصاب کے سر پر تھا، تو وہ بڑے میاں پھر آئے اور انہوں نے کہا بھائی بتا تیرا کوئی راز ہے، کوئی تیرا عمل اللہ کو بڑا پسند آیا، تو وہ قصاب رو دیا کہنے لگا بڑا گنہگار ہوں، زندگی گناہوں میں گزر چکی، میں تو اپنی زندگی کا کوئی عمل پیش کرنے کے قابل نہیں ہوں، وہ کہنے لگے کوئی نہ کوئی عمل ہوا ضرور ہے، جو تجھ پر اللہ کا یہ کرم ہے، ذرا سوچ تب اس قصاب نے بتایا کہ میں نے تو گناہ کی نیت کی تھی، لیکن اللہ کا نام سن کر میرے دل پر ایک ہیبت طاری ہوئی میں نے اللہ کے خوف سے گناہ چھوڑ دیا، بزرگ نے کہا اسکی یہ برکت ہے کہ اللہ نے گرمی کے موسم میں تجھے بادل کا سایہ عطا فرمایا، وہ پروردگار اتنا کریم ہے کہ کوئی بندہ ایک گناہ سے بچتا ہے اپنے اس بندے کے ساتھ رحمت کا بادل کر دیتے ہیں۔

### بہاؤ الدین زکریا ملتائی

کہتے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردیؒ نے بہاؤ الدین زکریا ملتائیؒ کو تین دن میں خلافت دیدی تھی وہ اپنی تیل بتی سنوار کے آئے تھے، شیخ نے بس اسکو آگ دکھادی جلنے لگ گئی، جو پرانے پرانے لوگ وہاں رہتے تھے انکے دل میں خیال آیا کہ دیکھو جی اس کو تین دن میں اجازت مل گئی اور ہم مدتوں ہو گئے رستے میں پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے حضرت سے کہا ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں، حضرت نے کہا اچھا میں پھر تمہیں بتاؤں گا، چنانچہ اگلے دن مہمان آگئے تو انہوں نے کچھ مرغیاں ذبح کر وانی تھیں انہوں نے بلایا ان دو چار بندوں کو اور ہر ایک کو مرغی اور چھری دے کر کہا کہ ابھی اسکو ذبح کرو مگر ایسی جگہ کرنا جہاں کوئی نہ دیکھتا ہو انہوں نے کہا بہت اچھا ایک نے دیوار کی اوٹ میں ذبح کر لی، دوسرے نے درخت کی اوٹ میں ذبح کر لی، تھوڑی دیر میں سب ذبح کر کے آگئے حضرت نے دیکھا کہ بہاؤ الدین زکریا چھری ہاتھ میں مرغی ہاتھ میں روتے ہوئے آرہے ہیں، ابھی رو کیوں رہے ہو حضرت

آپ نے حکم دیا تھا میں پورا ہی نہ کر سکا بھی کیوں نہیں پورا کر سکے سب نے پورا کر دیا، حضرت اسلئے کہ میں جہاں جاتا ہوں اللہ مجھے ہر جگہ دیکھتے ہیں حضرت نے فرمایا دیکھو اسکا یقین پہلے سے بنا ہوا تھا اسلئے اسکو اجازت تین دن کے اندر مل گئی، تو ہر وقت دل میں یقین رکھئے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھتے ہیں۔

### بچہ کا یقین

ایک باپ اپنے بیٹے کے ساتھ جارہا تھا راستہ میں انکو انگور کا باغ نظر آیا تو والد کا دل لچایا کہ بھی انگور کاتے ہیں، اس نے بچے کو کھڑا کیا باہر اور کہا کہ دیکھو جب کوئی آئے تا تو مجھے آواز دے دینا، میں جا کر ذرا انگور توڑتا ہوں اب وہ گیا اور جیسے ہی انگور توڑنے کے لئے اسے ہاتھ بڑھایا تو بچے نے شور مچا دیا ابو ابو ہمیں کوئی دیکھ رہا ہے، تو باپ سمجھا کہ کوئی بندہ آگیا تو وہ اتر کر سہم کر آگے گیا ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نہیں تھا کہنے لگا کون دیکھ رہا ہے یہاں تو کوئی بندہ نہیں، بچے نے کہا ابو بندہ نہیں دیکھ رہا ہے بندوں کا پروردگار دیکھ رہا ہے، ہمارا تو یقین اس بچے جیسا بھی نہ بن سکا۔

### عورت کا استحضار

ایک آدمی نے کسی غریب عورت کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا اور اسکو برائی پر مجبور کر دیا وہ فاقوں سے تنگ آئی ہوئی تھی بچوں کی خاطر اس نے اس کی بات مان لی اب جب یہ گھر آیا اسکو لے کے تو کہنے لگا کہ اچھا ذرا دروازے سب بند کر دو وہ بند کرتی رہی مگر سست سست جیسے کوئی بندہ بے دلی سے کرتا ہے تو اسے اسکو کہا کہ ابھی تک دروازے بند نہیں ہوئے وہ کہنے لگی بس ایک دروازہ بند نہیں ہوتا باقی تو ہو گئے، تو یہ اسے کہتا ہے کونسا دروازہ بند نہیں ہوتا تو جب اسنے یہ کہا؟ تو اس عورت نے جواب دیا کی جن دروازوں سے مخلوق دیکھتی ہے ان سب دروازوں کو میں نے بند کر دیا، جس دروازے سے پروردگار دیکھتا ہے

میں وہ دروازہ بند نہیں کر سکی، تو جو نیک لوگ ہوتے ہیں ان کے دل پر ہر وقت یہ احتظار ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دیکھتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں ﴿وہو معکم این ما کنتم﴾ تم جہاں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے اسلئے صحابہ کرام کا بڑا یقین بنا ہوا تھا۔

### حضرت عمر رضی اللہ عنہ واقعہ

عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے توجہ سے سنئے، اپنے دور خلافت میں تہجد کے بعد ذرا حالات معلوم کرنے کے لئے گلیوں میں چکر لگا رہے تھے ایک مکان سے دو عورتوں کی آواز آئی ایک ذرا بڑی عمر کی تھی ایک چھوٹی لڑکی تھی ماں نے بیٹی سے پوچھا بکری نے دودھ دیدیا دیدیا؟ کتنا دیا ہے؟ کہ ذرا تھوڑا دیا ہے کہنے لگی مانگنے والے تو پورا مانگیں گے تم اس میں تھوڑا پانی ملا دو، اس نے کہا کہ امیر المؤمنین نے اعلان نہیں کروایا کہ کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے اس نے کہا کونسا امیر المؤمنین اس وقت نہ عمر دیکھ رہا ہے اور نہ منادی دیکھ رہا ہے تو آگے سے جوان بچی نے جواب دیا اے اما، عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا پروردگار تو دیکھتا ہے عمر نے بات سنی واپس آگئے اگلے دن تیار ہو کر جب امور مملکت سنبھالنے کے لئے کام کاج پنپانے کے لئے بیٹھے تو ان دونوں عورتوں کو بلا بھیجا، پتہ چلا کہ ایک بڑی ہے اور ایک اسکی بیٹی جوان العمر ہے، مگر شادی نہیں ہوئی عمر کے دل میں خیال آیا کہ کہ میرا بھی بیٹا جوان ہے اگر شادی کرنی ہو تو بہو تو ایسی ہونی چاہئے جس کے دل میں ایسا یقین ہو تو اس بڑھیا سے کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی جوان ہے میرا بیٹا جوان ہے کیوں نہ دونوں کا نکاح کر دیں چنانچہ دونوں کا نکاح کیا یہ وہ لڑکی تھی جو عمر بن عبد العزیز کی نانی بنی اسکو بیٹی ملی اور وہ ماں بنی عمر بن عبد العزیز کی اب شادی تو ہو گئی عمر نے اسکو ایک دن بلایا اور اس لڑکی کو کہا کہ دیکھو بیٹی میں تمہاری ایک ڈیوٹی لگانا چاہتا ہوں اس نے کہا جی حکم

فرمائیں، فرمانے لگے ڈیوٹی یہ ہے کہ جب میں روزانہ تیار ہو کر امور خلافت کے لئے گھر سے نکلنا چاہوں تو تمہاری ڈیوٹی یہ ہے کہ رستے میں آ کر میرے قریب تم نے مجھے وہی سبق یاد دلادینا ہے اس نے کہا کونسا سبق؟ کہنے لگے جو تم نے ماں کے سامنے کہا تھا ”عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے“ حضرت عمرؓ کو یہ فقرہ اتنا اچھا لگتا تھا کہ اس بچی کو فرماتے تھے کہ تو بار بار یہ کلمہ میرے سامنے دو ہر اچانچہ ہر دن وہ بچی آپ کو جاتے ہوئے یاد دلاتی قریب آ کر کہتی ”اگر عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے“ کتابوں میں لکھا ہے عمرؓ کے دل پر ایسی چھاپ لگ گئی تھی اس فقرے کی کہ تنہائی میں بیٹھے ہوئے خود بخود کبھی کہہ اٹھتے تھے ”عمر نہیں دیکھتا تو عمر کا خدا تو دیکھتا ہے“ ایسا دل روہ فقرہ پیوست ہو گیا تھا۔

### چرواہے کا استحضار

عبداللہ ابن عمرؓ راستے میں جا رہے تھے تو ایک جگہ ایک چرواہا ملا چرواہے کو کہا کہ بھئی کچھ ہمیں دودھ ہی دیدو، اس نے کہا کہ جی میری بکریاں نہیں ہیں اجازت نہیں ہے، بھئی ہم کچھ بنائیں گے، کھانا پکائیں گے تمہیں بھی کھلائیں گے اس نے کہا جی میرا تو روزہ ہے، تو بڑے حیران ہوئے کہ جنگل میں دیکھنے والا کوئی نہیں گرمی کی شدت اور پھر بکریاں چرانے والا اللہ تو بہ اتنا بھاگتا پڑتا ہے ان کے پیچھے کہ بندے کا حشر ہو جاتا ہے اور اس حالت میں چرواہا روزے سے ہے تو دل میں خیال آیا کہ اسکو آزماتے ہیں، تو اسکو مشورہ دیا آزمانے کی خاطر بھئی ایک بکری ہمیں بچ دو، ہم اسکو پکائیں گے تم بھی افطاری کر لینا ہم بھی کھائیں گے اسنے کہا جی میں مالک تو نہیں ہوں فرمایا بھئی تم مالک کو کہہ دینا کہ ایک بکری کو بھیڑیا لے گیا وہ نوجوان مسکرایا اور کہتا ہے کہ اچھا اگر میں اسکو کہوں گا کہ بکری کو بھیڑیا لے گیا تو فاین اللہ تو اللہ تو دیکھتا ہے اللہ بھی تو ہے، عبداللہ ابن عمرؓ کے دل پر



ایسا اثر ہوا کہ بعد میں لوگوں کے سامنے یہ واقعہ سنا کر کہا کرتے تھے کہ اس قوم کا حال دیکھو کہ اتنا کامل یقین کہ چرواہا بھی تنہائیوں میں روزے کی شدتیں برداشت کرتا ہے اور جب کہا جاتا ہے کوئی عمل خلاف شرع کر لو تو کہتا ہے فاین اللہ پھر اللہ کہاں ہے۔

### حضرت عمرؓ کی فکر

چنانچہ عمرؓ کا یقین ایسا تھا قیامت کے بارے میں کہ جب آپ کی وفات ہونے لگی آپ نے اپنی وصیت فرمائی کہ مجھے جلدی نہ ملا دیں اور جلدی دفنا دیں تین دفعہ اسکو دوہرایا تو ایک صحابی نے کہا کہ امیر المؤمنین ہم جلدی دفنائیں گے جلدی آپ کو کفنا دیں گے لیکن اتنی جلدی آپ کیوں کر رہے ہیں تو جب یہ کہا، عمرؓ کی آنکھوں میں آنسو آگئے فرمانے لگے میں جلدی اس لئے کر رہا ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے راضی ہوئے تو تم مجھے اللہ سے جلدی ملا دینا اور اگر اللہ مجھ سے خفا ہوئے تو میرا بوجھ کندھے سے جلدی ہٹا دینا اور عمر کے انجام کو تو اللہ بہتر جانتا ہے، عشرہ مبشرہ میں سے تھے، مراد مصطفیٰ تھے [لو کان بعدی نبیالکان عمر] یہ فضائل تھے مگر پھر بھی کہتے ہیں عمر کے انجام کو تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔

### رابعہ بصریہ کا خوف

رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی کسی نے اٹکو کھانے لئے بھنا ہوا مرغ لا کر دیا انہوں نے جب بھنا ہوا مرغ دیکھا تو رونے لگ گئیں وہ لانے والا آدمی پریشان ہو گیا کہ پتہ نہیں کیا بات ہوئی تو کہنے لگا اماں آپ کیوں رو رہی ہیں فرمانے لگیں کہ مجھ سے تو یہ مرغ اچھا پوچھا وہ کیسے؟ فرمانے لگیں اس لئے کہ مرغ کو پہلے ذبح کیا گیا جب اسکی جان نکل گئی اسکو آگ پر ڈالا گیا اگر قیامت کے دن رابعہ کے گناہ معاف نہ کئے گئے تو اسے تو زندہ حالت میں جہنم میں بھونا

جائے گا، مجھ سے تو مرغ اچھا ہے اسکی روح پہلے نکلی بعد میں بھونا گیا اور ابو کو تو زندہ حالت میں جہنم میں بھونا جائے گا۔

### حضرت عمر بن عبدالعزیزؓ

عمر بن عبدالعزیزؓ کے پاس ایک بڑھیا آئی اس نے کہا کہ جی پہلے لوگ تو تو اپنی اولادوں کے لئے اتنا چھوڑ گئے تم بھی کچھ جاگیریں وقف کر دو، کہنے لگے میں نہیں کر سکتا وہ ذرا ناراض ہونے لگیں کہ میں بڑی ہوں تم کسی کی بات مانتے نہیں ضدی ہو، انہوں نے غلام کو کہا کہ بھی کوئی سکھ ہو تو لاؤ، وہ ایک دینار کا سکھ لایا کہنے لگے ایک گوشت کا ٹکڑا بھی لاؤ تو دینار کو آگ میں ڈلوادیا جب دینار لال سرخ ہو گیا تو اسکو گوشت پر رکھوایا تو گوشت جلنے لگا اب جب گوشت جلتا ہے تو بو آتی ہے تو وہ بڑھیا کہنے لگی کہ کیا بد بو آرہی ہے کہنے لگے اماں آپ کو منظر دکھایا ہے کہ آپ عمر بن عبدالعزیزؓ کو کہنے آئیں ہیں کہ قیامت کے دن تمہارا اسی طرح حشر کیا جائے، تم بیت المال کے پیسہ کو اپنے بچوں کے لئے وقف کر دو، میں نے تمہیں نمونہ دکھایا ہے کہ کل میرے ساتھ یوں ہی ہوگا، تو اتنا یقین انکے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا اسی لئے بھائی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا چھوٹی بات نہیں۔

### آخرت کے فکر مندوں کے اقوال

اللہ کے محبوب کبھی کبھی کہتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے بالیت رب محمد لم یخلق محمد اے کاش کہ محمد ﷺ کا پروردگار محمد ﷺ کو پیدا ہی نہ کرتا، سیدنا ابو بکر صدیقؓ فرماتے تھے بالیتنی کنت عصفور اے کاش کہ میں کوئی پرندہ ہوتا، مومن کے بدن کا بال ہوتا، مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، چنانچہ عبداللہ ابن مسعودؓ ایک صحابی ہیں انکے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا یا لیتنی اکون من اصحاب الیمین ”اے کاش میں اصحاب الیمین میں

سے ہوتا، تو اس بات کو سن کر عبد اللہ ابن مسعودؓ نے فرمایا ”یا لیتسی کنت اذا مت لم ابعث“ اے کاش کہ اگر میں مرتا تو میں دوبارہ اٹھایا ہی نہ جاتا ایسے بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ اس قیامت کے دن کی پیشی سے اتنا ڈرتے تھے۔

## روزِ حساب

اس لئے احادیث میں آیا ہے کہ اس دن نفسی کا عالم ہوگا انبیاءؑ تھراتے ہوں گے، سب لوگ اکٹھے ہو کر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے کہ اے انسانوں کے باپ آپ اللہ کے حضور عرض کیجئے کہ ہمیں اس مصیبت سے نجات دیجئے حساب شروع کر لیجئے حضرت آدمؑ کہیں گے کہ میں اللہ کے حضور حاضری نہیں دے سکتا اس لئے کہ میں نے درخت کا پھل کھا لیا تھا مجھے آج اس دن کی دہشت ناکی کی وجہ سے اللہ کے سامنے بات کرتے ڈر لگتا ہے لوگ حضرت نوحؑ کے پاس جائیں گے حضرت نوحؑ بھی انکار فرمائیں گے کہ میں نے بد دعا مانگی تھی جس کی وجہ سے ساری قوم کو غرق کر دیا گیا اب میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے ڈرتا ہوں لوگ حضرت موسیٰؑ کے پاس آئیں گے وہ فرمائیں گے کہ مجھ سے ایک قبلی مارا گیا تھا میں اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے ڈرتا ہوں حضرت عیسیٰؑ کے پاس آئیں گے کہیں گے کہ بھی نہیں لوگوں نے تو مجھے اللہ کا شریک بنا لیا تھا اور مجھے تو اللہ کے حضور پیش ہوتے ہوئے ڈر لگتا ہے سب انکار کر دیں گے بالآخر ساری انسانیت نبی اللہؑ کی خدمت میں حاضر ہوگی حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی اللہؑ مقام محمود پر پہنچ کر سجدے میں جائیں گے نبی اللہؑ نے فرمایا میں اس دن اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد بیان کروں گا نہ پہلے کسی نے کی نہ کوئی بعد میں ایسی حمد بیان کرے گا اور پھر نبی اللہؑ سجدے کی حالت میں رونا شروع کر دیں گے اللہ اپنے محبوب کو فرمائیں گے میرے محبوب آپ دنیا میں بھی روتے رہے سجدوں میں اور آج بھی سجدے میں

رور ہے ہیں سجدے سے سراٹھائیے [سَلِّ تَعَطَّ] آپ مانگئے جو مانگیں گے ہم آپ کو عطا کریں گے تو اللہ کے محبوب فرمائیں گے اے اللہ اپنے بندوں کا حساب لیجئے ان کی اس مصیبت سے جان چھڑائیے فرمائیں گے اچھا کسی کو پیش کرو

### سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کا حساب

کتابوں میں لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ کسی کو پیش کرو تو نبی ﷺ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو کہیں گے کہ تم پیش ہو جاؤ جب کہیں گے تو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ونا شروع کر دیں گے، اے اللہ کے نبی میں اپنے رب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتا اے اللہ کے نبی میں عمر کے آخری حصہ میں آ کر مسلمان ہوا زیادہ عرصہ میرا اسلام سے پہلے کا ہے میری عمر اس قابل نہیں کہ میں اللہ کے حضور پیش ہو جاؤں انکار کریں گے نبی ﷺ فرمائیں گے ابوبکر تجھے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے جب ابوبکر صدیق کو نبی ﷺ حکم دیں گے تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک قدم آگے بڑھائیں گے حدیث میں آتا ہے وہ بھی رونا شروع کر دیں گے اللہ میں پیش ہونے کے قابل نہیں ہوں میں حساب دینے کے قابل نہیں ہوں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے او میرے محبوب کے یار غار تو نے میرے محبوب پر ایسے احسانات کئے ہوئے ہیں کہ اس کا بدلہ ہم نے اپنے ذمہ لیا حدیث پاک میں آتا ہے [اِنَّ اللّٰهَ يَتَجَلٰى لِلْخَلْقِ عَامَةً وَلٰكِنْ لَّا بِىْ بَكْرٍ خَاصَةً] اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مخلوق کے لئے عام تجلی فرمائے گا مگر ابوبکر کیلئے خاص تجلی فرمائے گا، اللہ رب العزت مسکرا کر دیکھیں گے ابوبکر صدیق کی طرف تم روتے ہو تمہارے تو احسانات ہیں میرے محبوب پر اور احسانات کا بدلہ میں نے دینا ہے نبی ﷺ نے فرمایا میں نے دنیا میں سب کے احسانات کے بدلے دیدیئے ابوبکر تیرے احسان کا بدلہ اللہ دے گا کیسی زندگی ہوگی کہ احسان کا بدلہ دینے والے اللہ کے محبوب فرماتے ہیں ابوبکر تیرے

احسانات کا بدلہ اللہ دے گا ﷻ چنانچہ سیدنا صدیق اکبرؓ ہٹا گئے ہونگے اللہ تعالیٰ انکا نامہ اعمال دیکھیں گے مسکرا کر فرمائیں گے کہ ہم نے تو کہا تھا ﴿وَلَسَوْفَ يَرْضَى﴾ ابو بکرؓ ہم تمہیں خوش کر دیں گے ﷻ

### سیدنا عمرؓ کا حساب

پھر جب انکا حساب ہو جائے گا تو سیدنا عمرؓ کو پیش کیا جائے گا سیدنا عمرؓ بھی روئیں گے مگر اللہ رب العزت کی رحمت جوش میں آئے گی نبی ﷺ نے فرمایا حضرت صدیقؓ کو کہ آسمان کے ستاروں کے برابر اگر کسی کی نیکیاں دیکھنی ہوں تو عمر فاروق کی نیکیوں کو دیکھے مراد مصطفیٰؐ تھے اللہ تعالیٰ انکو بھی مسکرا کر پاس فرما دیں گے۔

### سیدنا عثمان غنیؓ کا حساب

پھر سیدنا عثمان غنیؓ پیش ہوں گے حدیث پاک میں آتا ہے کہ انکا حساب بہت آسانی سے لیا جائے گا چونکہ نبی ﷺ نے دعادی تھی ایک مرتبہ عید کا دن تھا نبی ﷺ عید پڑھانے کے لئے تشریف لے جانے لگے تو ام المؤمنینؓ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی آپ عید پڑھانے جارہے ہیں ہمیں کچھ دیجئے کہ ہم کچھ منگوائیں اور پکائیں یتیم آئیں گے یوائیں آئیں گی تاکہ انکو بھی آج عید کے دن دے سکیں نبی ﷺ نے فرمایا کہ میرے پاس تو کچھ نہیں وہ خاموش ہو گئیں نبی ﷺ نے عید کی نماز پڑھائی جب عید کی نماز پڑھا کر واپس گئے تو دیکھا کہ گھر میں بہت کچھ پکا ہوا ہے اور یتیم یوائیں آ رہی ہیں اور وہ بھی لے لے کر جارہے ہیں تو نبی ﷺ بڑے حیران ہوئے پوچھا کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا عرض کیا اے اللہ کے نبی جب آپ عید کی نماز پڑھانے کے لئے تشریف لے گئے تو سیدنا عثمان ابن عفانؓ نے آپ کی ہرزوجہ کے گھر سامان سے لدا ہوا ایک ایک اونٹ ہدیہ کے طور پر بھیجا سب ازواج کو ہدیہ بھیجا تو سب ازواج نے کھانا پکایا اور اللہ کے

راستے میں دے رہی ہیں تو نبی ﷺ نے جب یہ سنا تو فرمایا [بارِ حمن سہل الحساب علی العثمان] اے رحمن اب تو عثمان کے لئے قیامت کے دن کا حساب آسان فرمادے، چنانچہ قیامت کے دن جب عثمان غنی ؓ پیش ہو گئے اللہ رب العزت ان کا حساب آسان فرمادیں گے پھر علی ؓ پیش ہو گئے حدیث پاک میں آتا ہے [اسرع المحاسبة يوم القيامة حساب علی] قیامت کے دن سب سے جلدی حساب اللہ تعالیٰ سیدنا علی ؓ کا لیں گے جب چاروں کا حساب دیں گے ان کا حساب دیکر اللہ رب العزت کو اتنی خوشی ہوگی محبوب کے یاروں کو دیکھ کر کہ اللہ تعالیٰ کا جلال اللہ کے جمال میں بدلے گا باقی ساری مخلوق کا حساب اللہ آسانی کے ساتھ لیں گے اللہ رحمت کے ساتھ حساب ہوگا ہر ایک کا، پھر تو رحمت کا وہ نزول ہوگا قاری محمد طیبؒ کہتے ہیں کہ اتنا اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوگا کہ ایک وقت آئے گا شیطان بھی سر اٹھا کر دیکھے گا شاید آج میری بھی مغفرت کر دی جائے، واہ میرے مولیٰ اسکی رحمت کا کتنا ظہور ہوگا تو بھی اس دن کی ابتدا کی شدت بڑی زیادہ ہے اسلئے اس دن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونے سے ہمارے اسلاف ڈرتے تھے علامہ اقبال نے عجیب اشعار کہے فرماتے ہیں

تو غنی از ہر دو عالم من فقیر

روز محشر عذر ہائے من پذیر

(اے اللہ تو دو عالم سے غنی ہے اور میں محتاج ہوں قیامت کے دن میرے

عذروں کو قبول کر لینا)

گر تو می بنی حسابم ناگزیر

از نگاہ مصطفیٰ پناہ گیر

اور اللہ اگر تو فیصلہ کر لے کہ حساب لینا لازمی ہے تو مالکؒ میری فریاد ہے پھر میرا حساب مصطفیٰ کریم کی نگاہوں سے اوجھل لینا مجھے انکے سامنے شرمندگی

نہ ہو جائے کہ محبوب تو راتوں کو روتے رہے اور ہم نے انکے آنسوؤں کی قدر نہ کی اس دن کی پیشی سے ہمارے اکابر اتنا گھبراہٹ کرتے تھے، آسان کام نہیں ہے اللہ کے حضور پیش ہونا۔

## عبداللہ ابن مبارک کا خوف

عبداللہ ابن مبارک کا آخری وقت آیا ہزاروں شاگردوں کے استاد تھے، شاگردوں سے کہا کہ مجھے اس چار پائی سے اتار کر نیچے زمین پہ لٹا دو الامر فوق الادب شاگردوں نے نیچے لٹا دیا مگر انکی چیخ نکل گئی کیا دیکھا اتنے بڑے محدث وہ اپنے رخسار کو زمین پر دگڑنے لگے اور اپنی داڑھی کو پکڑ کر رو کر کہنے لگے اے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم کر کوئی عمل اللہ کے حضور پیش نہیں کیا اللہ میں نے حدیث کی خدمت کی میں نے لاکھوں بندوں کو نصیحت کی تیرے بندوں کی زندگیاں بدلیں اللہ میں نے دن رات قربانیاں دیں علم سیکھا، کوئی عمل اللہ کے حضور پیش نہیں کیا، بس اپنی داڑھی کو پکڑ کر صرف اتنا کہنے لگے اللہ عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما عبداللہ کے بڑھاپے پر رحم فرما، وہ ڈرتے تھے اسی لئے قیامت کے دن کی تیاری کرتے تھے۔

## خواجہ عثمان خیر آبادیؒ

خواجہ عثمان خیر آبادیؒ کے بارے میں آتا ہے انکی بقالہ کی دوکان تھی جو بندہ ان کے پاس سودا لینے آتا تو کچھ کے پاس کھوٹے سکے ہوتے اس زمانہ میں چاندی کے سکے ہوتے تھے جب گھس جاتے تھے تو انکو کھوٹا سکہ کہتے تھے تو وہ لے کر رکھ لیتے سودا دیدیتے ساری عمر یہی حال رہا جب انکی وفات کا وقت قریب آیا آخری لمحہ قریب تھا ٹیک لگائی ہوئی تھی اٹھ کر بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کرنے لگے اے اللہ میں ساری زندگی تیرے بندوں سے کھوٹے سکے قبول کرتا رہا تو بھی میرے کھوٹے عملوں کو قبول کر لے، وہ لوگ اس دن کی

تیاری کرتے تھے اب ہم سوچیں ہم نے اس دن کے لئے کیا تیار کر رکھا ہے تو پھر ہمیں احساس ہوگا کہ ہم نے اس دن کے لئے کچھ تیاری نہیں کی وہ دن بڑا مشکل ہے۔

### محمد شاہ کا عجز

محمد شاہ مکران کا بادشاہ گزرا ہے ایک دفعہ یہ جنگل میں گیا شکار کھیلنے کے لئے ایک بڑھیا کی گائے تھی اسکے پولیس والوں نے اسکی گائے کو ذبح کر کے اسکے کباب بھون کر کھائے بڑھیا نے ان سے کہا کہ مجھے کچھ پیسے دیدو کوئی اور گائے لے لوں گی اسی کے دودھ پر میرا گزار تھا، انہوں نے بات ہی نہ سنی بڑی پریشان، کسی شخص سے مشورہ کیا میں کیا کروں اس نے کہا بادشاہ نرم دل آدمی ہے تم بادشاہ کو اپنی بات پہنچاؤ وہ تمہیں اس کا معاوضہ دیدے گا اس نے کہا پولیس والے تو جانے ہی نہیں دیتے اس نے کہا میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں بادشاہ نے دودن کے بعد واپس جانا ہے اور اسکے گھر کے راستہ میں دریا ہے اور دریا پر ایک ہی پل ہے یہ اس پل سے گزرے گا تم پل پر پہنچ جاؤ اور محمد شاہ سے اپنی بات کر لینا، بڑھیا وہاں پہنچ گئی، جب محمد شاہ وہاں پہنچا بڑھیا آگے بڑھی اس نے سواری کی لگام کو پکڑ لی، محمد شاہ کہنے لگا اماں کیا بات ہے؟ سواری کیوں روکی؟ کہنے لگی محمد شاہ میرا تیرا ایک مقدمہ ہے یہ پوچھنا چاہتی ہوں اس پل پر چل کرنا چاہتا ہے یا قیامت کے دن پل صراط پر چل کرنا چاہتا ہے بس اس نے یہ الفاظ کہے، کہتے ہیں بادشاہ کو پسینہ آ گیا کہنے لگا اماں میں اس قابل نہیں ہوں کہ پل صراط پر فیصلہ چکاؤں، چنانچہ بڑھیا نے اسکو سارا معاملہ سنایا، محمد شاہ نے اس بڑھیا کو ستر گائیوں کی قیمت دی اور معافی مانگی اور کہا اماں معاف کر دینا میں قیامت کے دن پل صراط پر کوئی مقدمہ پیش نہیں کر سکتا، آسان کام ہے کہ کوئی بندہ کہے کہ میں قیامت کے دن پیش ہونے کے قابل ہوں، ماں نے کوئی لال نہیں



جنا جو دم مارے کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے قابل ہوں، وہ ایسا دن ہوگا کہ انبیاء تھراتے ہوں گے۔

### حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا خوف

کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے ﴿اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَهَيْنِ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾ کیا آپ نے کہا تھا لوگوں کو مجھے اور میری ماں کو اللہ کے ساتھ معبود بنا لو شیخ عبد القادر جیلانیؒ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے تو جیسے بندے کو ایک دم پسینہ آ جاتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پسینہ آئے گا اور جسم کے ہر سام میں سے خون کا قطرہ نکل آئے گا ڈر اور خوف کی وجہ سے، اللہ اکبر کبیر اسلئے جو آدمی قیامت کے دن کا ڈر رکھے اور پھر اپنے نفس کو گناہوں سے بچائے وہ انسان قیامت کے دن کامیاب ہونے والا انسان ہے۔

### عجیب واقعہ

امام شافعیؒ کے زمانہ میں وقت کا حاکم ایک پریشانی کا شکار ہوا کہ بیوی روٹھ گئی اب وہ چاہتا تھا کہ منائے بیوی غصہ کر گئی تھی ایک دن اسکو اس نے زیادہ منانے کی کوشش کی وہ جتنا مناتا وہ اور اس سے ناراض ہوتی حتیٰ کے اس عورت نے اسکو کہہ دیا کہ جہنمی میں تیری شکل نہیں دیکھنا چاہتی جب اس نے جہنمی کا لفظ کہہ دیا تو وہ بھی حاکم تھا اس نے غصہ میں کہہ دیا اگر میں جہنمی تو تجھے تین طلاق اب جب غصہ دونوں کا ٹھنڈا ہوا تو بادشاہ بھی سوچنے لگا کہ پورے ملک میں ایسی خوبصورت لڑکی تو اور ہے نہیں، میں بھی نہیں اسکو اپنے سے جدا کرنا چاہتا اور بیوی کا دماغ ٹھنڈا ہوا تو وہ بھی سوچنے لگی کہ جو عزت بادشاہ کی وجہ سے میری ہے اسکے بغیر تو نہیں ہوگی اب دونوں چاہتے تھے کہ بھی ذرا صلح ہو جائے مگر طلاق مشروط تھی تو اب بادشاہ سے بیوی نے پوچھا پتہ کریں

کہ طلاق واقع ہوگئی کہ نہیں ہوئی اسنے علماء سے پوچھا علماء نے کہا کہ جی ہم تو جواب نہیں دے سکتے اسلئے کہ طلاق مشروط ہے، اگر میں جہنمی تو تجھے تین طلاق تو کون فیصلہ کرے گا کہ آپ جہنمی ہیں یا نہیں، اب تماشا بن گیا اب جسکو یہ مسئلہ پتہ چلے وہ کہے جی کوئی اسکا جواب نہیں دے سکتا عجیب کیفیت ہے کسی نے امام شافعیؒ کو بتایا وہ کہنے لگے ہاں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں چنانچہ کسی نے بادشاہ کو اطلاع دی کہ فلاں بزرگ ہیں اس نے دعوت دی انکو اور کہا جی میں اس مصیبت میں ہوں مجھے نکالیں انہوں نے کہا ہاں میں اس کا جواب دے سکتا ہوں مگر مجھے آپ سے ایک بات پوچھنی پڑے گی تنہائی میں اس نے انتظام کر دیا، تنہائی کا انہوں نے بادشاہ سے پوچھا کہ یہ بتاؤ آپ کی پوری زندگی میں کوئی ایسا موقع آیا کہ آپ کسی گناہ کو کرنے کی قدرت رکھتے ہوں مگر اللہ کے ڈر سے آپ نے گناہ کو چھوڑ دیا بادشاہ نے سوچ سوچ کر کہا ہاں ایک واقعہ پیش آیا وہ کیسے؟ بادشاہ نے کہا کہ میں ایک مرتبہ اپنے کام سے ذرا جلدی فارغ ہو گیا خلاف معمول جلدی میں اپنی آرام گاہ میں آ گیا تو تو میں نے کیا دیکھا کہ محل میں کام کرنے والی نوجوان لڑکی وہ ابھی بستر وغیرہ سنوار رہی تھی میں کمرے میں آ گیا اسکے چہرے پر نظر پڑی تو مجھے وہ بہت خوبصورت لگی تو میری نیت بدلی میں نے کنڈی لگا دی اب جیسے ہی میں نے کنڈی لگائی وہ لڑکی پہچان گئی کہ بادشاہ کی نیت ٹھیک نہیں میں نے اس کی طرف قدم اٹھایا تو وہ بچی مجھے دیکھ کر کہنے لگی یا مالک اتق اللہ اے بادشاہ اللہ سے ڈراتی تھیہ نقیہ خوف خدا رکھنے والی وہ بچی تھی اس نے ایسے انداز سے کہا اتق اللہ سے ڈر کہ اللہ کی ہیبت میرے دل پر طاری ہوگئی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور میں نے دروازہ کھول دیا اچھا جا چلی جا اگر میں دروازہ نہ کھولتا میں اسکے ساتھ اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا، بادشاہ تھا، مجھے کون پوچھنے والا تھا مگر اللہ کے ڈر سے میں نے گناہ نہ کیا جب انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو انہوں

نے اسکو کہا کہ میں فتویٰ لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ کی بیوی کو طلاق واقع نہیں ہوئی اب جب یہ فتویٰ علماء کے سامنے آیا تو سب علماء نے ان سے پوچھا کہ جی آپ کیسے کہتے ہیں یہ تو مشروط طلاق تھی تو آپ کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ جنتی ہیں یا جہنمی تو انہوں نے کہا کہ جناب یہ فیصلہ میں نے نہیں کیا یہ فیصلہ خود قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کیا یہ فتویٰ میں نے نہیں دیا یہ فتویٰ پروردگار نے دیا ہے اللہ تعالیٰ بھی تو حافظ ہیں قاری ہیں مولانا ہیں اور مفتی بھی ہیں ماشاء اللہ سب کچھ ہیں ہم نہیں پڑھتے ﴿فَاللّٰهُ خَيْرٌ حَافِظًا﴾ تو حافظ بھی ہوئے ﴿سُنْفَرْنٰکَ فَلَاتِنْسٰی﴾ تو قاری بھی ہوئے ﴿اَنْتَ مَوْلَانَا﴾ تو مولانا بھی ہوئے ﴿اللّٰهُ یَفْتِیْکُمْ فِی الْکِلَالَةِ﴾ اللہ کلام کے بارے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے مفتی بھی ہوئے ماشاء اللہ یہ سب کتنے مزے کے الفاظ ہیں اللہ کی شان علماء کی خوش نصیبی یہ الفاظ لوگ انکے لئے استعمال کرتے ہیں واہ میرے مولیٰ ﴿تَخْلُقُوْا بِاَخْلَاقِ اللّٰهِ﴾ اسکا نمونہ دیکھو پروردگار نے فرمایا اللہ کے اخلاق سے اپنے آپ کو مزین کرو یہ علماء وہ خوش نصیب لوگ ہیں دنیا میں جو الفاظ اللہ کے لئے استعمال کئے جاتے ہیں وہ ان علماء کے لئے استعمال کر لئے جاتے ہیں کیسے خوش نصیب ہیں تو انہوں نے کہا جناب فتویٰ میں نے نہیں دیا فتویٰ قرآن نے دیا، انہوں نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ﴿وَاٰمَنَ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰی فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِیَ الْمَآوِیُّ﴾ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا اور اس نے اپنے نفس کو خواہشات میں پڑنے سے بچا لیا بس اسکا ٹھکانہ جنت ہے تو بھی قیامت کے دن کی پیشی کو یاد رکھیں گناہوں سے بچنا یہ جنت میں جانے کا ذریعہ ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی معیت کا انتظار نصیب فرمائے اور قیامت کے دن کی چھاپ ہمارے دلوں میں لگائے تاکہ گناہوں سے بچنا ہمارے لئے آسان ہو جائے

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا اِنَّ الْحَمْدَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِیْنَ

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾

# گناہوں پر دنیا میں سزا

از افادات

حضرت مولانا امجدی حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی زید مجدہ

لوسا کا مسجد نور زامبیا

﴿ایم ایسڈل ۲۰۰۳ء مطابق ۱۴۲۴﴾

# فہرست عناوین

نمبر شمار	عناوین	صفحات نمبر
۱	قانون جزاء اور سزا.....	۷۰
۲	کن کن پر دنیا میں پکڑ آئی؟.....	۷۱
۳	قوم نوح علیہ السلام کا انجام.....	۷۱
۴	قوم عاد.....	۷۲
۵	حضرت صالح علیہ السلام.....	۷۳
۶	حضرت لوط علیہ السلام.....	۷۳
۷	حضرت شعیب علیہ السلام.....	۷۴
۸	فرعون بے عون.....	۷۵
۹	قارون.....	۷۵
۱۰	بنی اسرائیل.....	۷۶
۱۱	قرآن مجید میں تذکرے.....	۷۸
۱۲	ادلے کا بدلہ.....	۷۹
۱۳	فتح کے وقت صحابی کارونا.....	۸۰
۱۴	سزا کے تین طریقے.....	۸۲
۱۵	ایک واقعہ.....	۸۳
۱۶	سبق آموز قصہ.....	۸۵
۱۷	بنی اسرائیل کے ایک عالم کا واقعہ.....	۸۵
۱۸	تین اہم باتیں.....	۸۵
۱۹	سنا رکھا واقعہ.....	۸۶

## اقتباس

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

جو انسان اللہ تعالیٰ کی فرمائیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اسکو کچھ نقد سزا دے دیے ہیں اور آخرت میں تو ملے گی ہی سہی اسکو کہتے ہیں اگلے کا بدلہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کیکر کا درخت بوئے اور اسکے اوپر پھل لگنے لگ جائیں جو کیکر بوئے گا اسے کانٹے ملیں گے جو گناہ کریگا اسے سزا ملے گی۔

عدل وانصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں  
زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے

﴿حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب مدظلہ﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ !

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِی الْبَرِّ وَالبَحْرِ یَمَّا كَسَبَتْ اَیْدِی النَّاسِ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

انسانی زندگی ایک مقصد کے لئے عطا کی گئی ہے ارشاد باری تعالیٰ ہے

﴿اَفَحَسِبْتُمْ اِنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَاَنْتُمْ اِلٰیْنَا لَا تَرْجِعُوْنَ﴾ ” کیا تم یہ

گمان کرتے ہو کہ تم بے فائدہ پیدا کئے گئے ہو اور کیا تم ہماری طرف لوٹائے

نہیں جاؤ گے، تو معلوم ہوا کہ انسان کے پیدا ہونے کا ایک مقصد ہے اور اس

سبب دن اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، لہذا جو کچھ ہم دنیا میں کرتے

ہیں، اسکا ہمیں بدلہ ملنا ہے، نیک کاموں کا اچھا بدلہ ملتا ہے اور برے کاموں کا

برابادلہ ملتا ہے، اب یہ انسان کے اوپر منحصر ہے کہ وہ کیسی زندگی گزارتا ہے۔

## قانون جزاء اور سزا

اللہ تعالیٰ کے یہاں مستقل ایک قانون ہے جو بھی نیکی کرے گا وہ

اچھا اجر پائے گا اور جو بھی برائی کریگا وہ اسکی سزا کو بھگت کے رہے گا یہ نہیں

ہو سکتا کہ انسان دنیا میں رہ کر من مانی کرے اور اسکو پوچھنے والا کوئی نہ ہو، لوگ

کہتے ہیں رہنا دریا میں اور مگر مجھ سے بیر تو دریا میں رہ کر مگر مجھ سے بیر نہیں چلتی

تو دنیا میں رہ کر پروردگار سے بیر کیسے چلی گی  
کن کن پر دنیا میں پکڑ آئی؟

جو انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اسکو کچھ نقد سزا دے دیتے ہیں اور آخرت میں تو ملے گی ہی سہی اسکو کہتے ہیں ادا لے کا بدلہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کیکر کا درخت بوئے اور اسے اوپر پھل لگنے لگ جائیں جو کیکر بوئے گا اسے کانٹے ملیں گے جو گناہ کریگا اسے سزا ملے گی۔

عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں

زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے

اس دنیا میں بھی انسان کو گناہوں کی سزا مل کر رہتی ہے چنانچہ کتنے لوگ تھے کتنی قومیں تھیں جنہوں نے من مانی کی اور پھر ان پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا، اس کے تذکرے قرآن کریم میں موجود ہیں کیا عبرت کے لئے یہ کافی نہیں کہ ابلیس جو ایک وقت میں بڑا عبادت گزار تھا، بڑا نیلوار تھا، طاؤوس الملائک، کہلاتا تھا اس نے زمین کے ہر ہر چپے پہ سجدے کئے تھے اتنا عبادت گزار تھا عرش تک اسکی پرواز تھی، اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ﴿ابی واستکبر وکان من الکافرین﴾ اس نے سجدے سے انکار کیا کافروں میں سے ہوا، چنانچہ رب کریم نے فرمایا ﴿فاحرج منها فانک رجیم﴾ نکل جا میرے دربار سے، اپنے دربار سے نکال دیا اور ساتھ پروردگار نے یہ بھی کہہ دیا ﴿وان علیک لعنتی الی یوم الدین﴾ اب تجھ پر قیامت تک میری لعنتیں برسیں گیں، کہاں رحمتوں کا مستحق تھا کہاں لعنتوں کا مستحق: دیکھا جب عبادت گزار تھا تو رحمتیں برسی تھیں اور جب گنہگار بنا تو لعنتوں کا مستحق بن گیا کتنا برا انجام ہے۔

قوم نوح علیہ السلام کا انجام

قوم نوح علیہ السلام کے ساتھ کیا ہوا وہ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ مذاق



اڑاتے تھے جب آپ کو حکم ہوا ﴿واصنع الفلک بأعيننا ووحینا﴾  
 ”آپ کشتی بنائیے ہماری آنکھوں کے سامنے وحی کے مطابق“، تو جب وہ کشتی  
 بناتے تھے انکی قوم والے انکو کشتی بناتے دیکھ کر کہتے کیوں بنا رہے ہو؟ فرماتے  
 تھے کہ طوفان آنے والا ہے، وہ کہتے تھے یہاں تو ریت اڑتی ہے ہر طرف صحراء  
 ہے ہم تو چاہتے ہیں کہ یہاں پانی جلدی آئے، مذاق اڑاتے تھے، ﴿قال ان  
 تسخروا منا فاننا نخرجکم کما تخرجون﴾ مذاق اڑاتے تھے بس  
 پھر اللہ رب العزت کا جب فیصلہ آگیا تو پروردگار نے حضرت نوح علیہ السلام کو  
 فرمایا ﴿ولا تخاطبنی فی الذین ظلموا انهم مغفون﴾ اب آپ نے  
 مجھ سے ان ظالموں کے بارے میں گفتگو نہیں کرنی، میرے پیغمبر! ہو سکتا ہے  
 آپ کا دل پسج جائے آپ کا دل نرم ہو جائے، آپ ان پر مہربان ہو جائیں  
 اب مجھ سے انکے بارے میں کلام مت کیجئے، اب انہوں نے غرق ہو کر  
 رہنا ہے، چنانچہ ایسا طوفان آیا کہ پوری دنیا میں سوائے وہ لوگ جو نوح علیہ السلام  
 کی کشتی میں تھے باقی سب غرق ہو گئے۔

### قوم عاد

قوم عاد دنیا میں گزری مفسرین نے لکھا کہ ساٹھ ہاتھ چوڑے انکے  
 سینہ ہوتے تھے لمبے لمبے قد ہوتے تھے ﴿وتنحتون من الجبال بیوتا﴾  
 ”پہاڑوں کو کھود کر گھر بناتے تھے“ اور آج بھی دنیا میں ایسے مقامات موجود ہیں  
 کہ پہاڑ کے اندر جائیں تو آپ کو عجیب و غریب اندر مکان بنے ہوئے محسوس  
 ہوتے ہیں جو آج کے انسان کے بس سے بھی باہر ہیں انکو اپنی طاقت پہ  
 بڑا ناز تھا کہتے تھے ﴿من اشد مناقرة﴾ ”کون ہے ہم سے زیادہ طاقت  
 والا؟ اور اللہ تعالیٰ نے بھی تصدیق کر دی ﴿لم یخلق مثلها فی البلاد﴾ ان  
 جیسی قوم پھر شہروں میں پیدا نہیں ہوئی تو طاقت پر ناز تھا گھمنڈ تھا وقت کے نبی

ﷺ کی بات نہ مانی اللہ تعالیٰ نے ان پر تیز ہوا کا عذاب بھیجا اور وہ تیز ہوا بھی کیسی کہ مؤمن کو لگتی تو اتنی اچھی کہ دل خوش ہوتا کہتا کہ یہ ہوا تو چلنی چاہئے لیکن کافر کے لئے وہ اتنی تیز کہ وہ انگوٹھ کر زمین پر مارتی حتیٰ کہ انکی لاشیں ایسی بکھری تھیں ﴿كَانَهُمْ اَعْجَازُ نَخْلٍ خَاوِيَةٍ﴾ جیسے کہ کھجور کے تنے بکھرے ہوئے پڑے ہوں، پوری قوم کو ختم کر کے رکھ دیا۔

### حضرت صالح ﷺ

”قوم ثمود“ حضرت صالح ﷺ کی قوم کہنے لگی کہ آپ ہمیں کوئی معجزہ دکھائیے انہوں نے دعا کی چنانچہ اللہ رب العزت نے پہاڑ میں سے ایک اونٹنی نکال دی ناقة اللہ اسکو ایک بچہ بھی تھا۔ وہ اتنا دیتی تھی کہ سارے گاؤں والے اسکو پیتے تھے مگر اسکی خوراک بھی اتنی تھی کہ ایک دن گاؤں والے پانی بھر سکتے تھے اور ایک دن وہ اونٹنی پانی پی لیتی تھی، حضرت صالح ﷺ نے فرمایا کہ اس کو تم کچھ نہ کہنا یہ اللہ کی نشانی ہے مگر ایک بدکار عورت کے پیچھے کچھ لوگوں نے آکر اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹیں اور بالآخر اسے مارا، نتیجہ کیا ہوا کہ ایک تیز آواز آئی حضرت صالح ﷺ فرمایا تھا ﴿فَلَا تَمْسُوْهُا بِسَوْءٍ فَيَاْخُذْكُمْ عَذَابُ الْيَمِّ﴾ اس اونٹنی کو کچھ نہ کہنا دردناک عذاب ملے گا جب بات نہ مانی ﴿فَاْخُذْتَهُمُ الرِّجْفَ فَاصْبَحُوْا فِیْ دَارِهِمْ جَاثِمِیْنَ﴾ ایک کڑک آواز آئی جیسی بجلی کڑکتی ہے اگلے دن سب اپنے گھروں کے اندر مردے پڑے ہوئے ملے۔

### حضرت لوط ﷺ

قوم لوط غیر فطری عمل کرتے تھے حضرت لوط ﷺ نے انہیں بہت سمجھایا لٹاندا کرتے ﴿اِنَّهُمْ اَنَا سَیِّئُوْنَ﴾ یہ بڑے پاک لوگ ہیں، نتیجہ کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھیجا فرماتے ہیں ﴿فَلَمَّا جَاءَ

امرنا جعلنا علیہا سافلہا ﴿ زمین ٹکڑے کو حضرت جبریل علیہ السلام نے اکھاڑا اور اکھاڑ کر آسمان کی بلندیوں تک لے گئے حتیٰ کہ اس بستی کے مرغوں کی اذانیں پہلے آسمان کے فرشتوں نے سنیں اور وہاں جا کر الٹ دیا اور انکے اوپر پتھر برسائے ﴿ و امطرنا علیہا حجارا من سجیل ﴾۔

### حضرت شعیب علیہ السلام

حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، تاجر لوگ تھے مگر ناپ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، ڈنڈی مارتے تھے انکو بہت سمجھایا کہ ناپ تول میں کمی مت کرو لیکن باز نہیں آئے قرآن مجید میں ہے ﴿ و اخذت الذین ظلموا الصبیحة ﴾ ان پر بھی ایک زوردار آواز ایسی آئی بجلی کی چمک جیسی، اس قوم کو بھی ختم کر دیا۔

### فرعون بے عون

فرعون دنیا میں کتنا متکبر بادشاہ تھا اپنی قوم کو کہتا تھا ﴿ الیس لی ملک مصر و هذه الانهار تجری من تحتی ﴾ دیکھو یہ ملک مصر، یہ میرا ہے اور اس کا نظام آب پاشی کیسا بڑا مزے کا ہے نہریں بہتیں ہیں دریا بہتے ہیں، میں بہتر ہوں میری یکتائی دیکھو اور یہ موسیٰ علیہ السلام جو صحیح طرح بول بھی نہیں سکتے، ایسا تکبر کرتا تھا، کہتا تھا ﴿ اناریکم الاعلیٰ ﴾ میں بڑا پروردگار ہوں بس پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی فرماتے ہیں ﴿ فاغرقنا آل فرعون و انتم تنظرون ﴾ بس جب عذاب آجاتا ہے نا پھر بندہ پیچھے ہٹنا بھی چاہے تو نہیں ہٹ سکتا کہتے ہیں جب فرعون دریا کے کنارے پہنچا تو اس نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو پار اتر گئے تو یہ گھبرایا ڈرا کہ میں نہیں اندر جاتا تو جب یہ ذرا گھبرایا تو جبریل علیہ السلام ایک گھوڑی پر سوار ہو کر آئے اور انہوں نے اپنی اس گھوڑی کو پانی میں ڈال دیا اب فرعون کے گھوڑے نے جب گھوڑی کو دیکھا تو وہ اسکے پیچھے بھاگا اب اسکے بس میں نہیں تھا تو یہاں سے مفسرین نے نتیجہ نکالا کہ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب

آجاتا ہے اب بندہ پیچھے بھی ہٹنا چاہے پروردگار پیچھے ہٹنے نہیں دیتے  
بچہ کدھر جاتا ہے، تو نے میرے عذاب کو دعوت دی گناہوں کے ذریعہ سے  
اب بھاگ کر کہاں جاؤ گے۔

## قارون

قارون کو اللہ رب العزت نے مال اتنا دیا تھا کہ اسکے خزانوں کی کنجیاں کئی  
اونٹوں پر لادی جاتی تھیں آپ میں سے کوئی بڑے سے بڑا بزنس میں  
ہوگا تا تو اسکی دکانوں کی کنجیاں بھی جیب میں آجائیں گی اللہ کی شان اتنا امیر بندہ  
کہ اسکے خزانوں کی کنجیاں اونٹوں پہ لادی جاتی تھیں مگر اس نے اسکو اللہ کی  
نعمت نہ سمجھا کہنے لگا یہ تو میرے خون پسینہ کی کمائی ہے جو میں نے اپنے علم سے  
حاصل کی اب وہ کہتا تھا کہ کسی طرح مجھے اسکی زکوٰۃ نہ دینی پڑے چنانچہ اسے  
حضرت موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگانے کی کوشش بھی کی بس پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب  
آیا ارشاد فرمایا ﴿فَخَسَفْنَا بِهِ وَابْنَاهُ الْأَرْضَ﴾ اللہ تعالیٰ نے اسکو بھی زمین  
میں دھنسا دیا اور اسکے مکان کو بھی زمین میں دھنسا دیا دھنستا ہی چلا جا رہا ہے۔

## بنی اسرائیل

بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ کی کتنی نعمتیں تھیں ﴿وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ  
يَقُومُوا لِذِكْرِ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ﴾ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ  
اے قوم! اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو ﴿وَإِذْ جَعَلُ  
فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُوْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ﴾  
اللہ تعالیٰ نے تم سے انبیاء بھی بنائے اور تم میں سے بادشاہ بھی بنائے اور پروردگار  
نے تمہیں وہ کچھ دیا جو جہانوں میں کسی کو نہیں دیا مگر اتنی نعمتوں کے باوجود یہ  
گناہوں میں پڑ گئے خواہشات کے پیچھے پڑ گئے نتیجہ کیا ہوا کہ اللہ رب العزت نے  
ان پر عذاب بھیجا ﴿وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاوُوا بِالْغُصْبِ﴾

من اللہ ﴿ ذلت اور مسکنت اللہ تعالیٰ نے ان پر پھینک دی اور اللہ تعالیٰ کا ان پر غضب ہو گیا ایسا ظالم بادشاہ ان پر مسلط ہوا جس نے انکو ذلیل اور رسوا کر دیا انکو سر چھپانے کی کہیں جگہ نہیں ملی،

تو یہ سب واقعات بتاتے ہیں کہ جس نے بھی دنیا میں اپنی من مانی کی اپنے رب کی نافرمانی کی بالآخر اس پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آگئی جلد یا بدیر کسی کو موقع مل جاتا ہے کسی پر جلدی پکڑ آتی ہے، آتی ضرور ہے، گناہوں کی سزا آخرت میں تو ملے گی ہی دنیا میں بھی مل کر رہتی ہے، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی۔

### قرآن مجید میں تذکرے

قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے عذاب کا تذکرہ کیا اور واضح طور پر کہا کہ یہ عذاب اسلئے کہ وہ عمل ایسا کرتے تھے مثلاً لفظ [ اِنْ ] کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کچھ باتوں کا تذکرہ کیا ﴿ اِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا ﴾ اے ایمان والو! اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے تو ہم تمہیں فرقان عطا کریں گے ایک نور عطا کریں گے جو تمہارے سینوں کو روشن کرے گا، تمہیں حق اور باطل کی پہچان نصیب ہوگی، تو معلوم ہوا کہ یہ نور کیسے ملا؟ ﴿ اِنْ تَتَّقُوا اللَّهَ ﴾ کے ذریعہ تو دیکھو نیک عمل کا اجر دنیا میں بندے کو ملا دوسری جگہ فرمایا ﴿ مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ ﴾ اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ جیسے ہم آپس میں باتیں کرتے کہتے ہیں کہ تمہیں عذاب دے کر اللہ کے ہاتھ کیا آئے گا ﴿ اِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ ﴾ ”اگر تم ایمان لاؤ اور شکر ادا کرو“ تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ تو دیکھو عمل کے اوپر ایمان اور شکر کے اوپر فرمایا کہ ہم تمہیں عذاب نہیں دیں گے ﴿ اِنْ تَطِيعُوهُ تَهْتَدُوا ﴾ اگر تم رسول ﷺ کی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے، تو لفظ [ اِنْ ] کے ذریعہ سے بھی بتایا کہ دیکھو تمہارے اعمال کا تم کو اجر ملے گا

کہیں [فلما] کے ذریعہ بتایا چنانچہ فرمایا ﴿فلما اعتوا عمنہو اعنہ قلنا لہم کونوا قردة خاسنین﴾ ”جب انہوں نے وہی کام نافرمانی کے کئے جس سے منع کر دئے گئے تھے ہم نے انکو کہا بن جاؤ پھنکارے ہوئے بندر تو یہ بندر بننے کا حکم کیوں دیا؟ انکی نافرمانی کی وجہ سے چنانچہ ایک جگہ فرمایا ﴿فلما آسفوا اننا انتقمنا منهم واغرقناہم اجمعین﴾ ”جب انہوں نے ہمیں متأسف کیا یعنی ہماری بات کو پورا نہ کیا ہمیں افسوس دلایا، ہم نے بھی ان سے انتقام لیا“ تو اب دیکھو قرآن مجید سے ثبوت مل رہا ہے کہ انسان عمل ایسے کرتا ہے کہ پروردگار اسکے گناہوں کا اس سے انتقام لیتے ہیں اسلئے ایک جگہ فرمایا ﴿انامن المجرمین منتقمون﴾ ہم مجرموں سے انتقام لے کر رہیں گے۔

تیسرا کہیں پر [لو] کے ذریعہ سے ان باتوں کا تذکرہ کیا ﴿وان لو استقاموا علی الطریفة لاسقیناہم ماء غدقا﴾ ”اگر یہ استقامت حاصل کرتے راستے پر تو ان کو پینے کے لئے اچھا پانی مل جاتا“ ایک جگہ فرمایا ﴿ولوانہم فعلوا ما یوعظون بہ لکان خیر الہم﴾ ”اگر انہوں نے کیا ہوتا وہ کام جو انکو نصیحت کی گئی تھی انکے لئے بہتر ہوتا“ تو اس لفظ کے ذریعہ سے بھی اس بات کو کھولا گیا

چوتھا کہیں پر [ذلک] کا لفظ استعمال کیا گیا ﴿ذلک بما قدمت ایدیکم﴾ ”یہ جو تمہیں بدلہ ملا یہ اسلئے کہ جو تم نے اپنے ہاتھوں سے کچھ آگے بھیجا اسکا نتیجہ تھا“ کہیں پر فرمایا ﴿ذلک بانہم کفروا بآیاتنا﴾ ”یہ انکے ساتھ معاملہ اس لئے پیش آیا انہوں نے ہماری آیتوں کا انکار کیا۔

پانچواں کہیں پر [ف] کا استعمال ہوا حرف ”ف“ ہوتا ہے نا اسکو سبب کے طور پر بتایا اسکو ”ف“ سمیہ کہتے ہیں چنانچہ فرمایا ﴿فان تابوا واقاموا الصلوۃ واتوا الزکوۃ فاخوانکم فی الدین﴾ دیکھئے اب یہ ”ف“ سبب بن رہی ہے ”اگر یہ توبہ کریں نماز قائم کریں اور زکوۃ ادا کریں تو یہ دین میں تمہارے بھائی

ہیں، ایک جگہ فرمایا ﴿فَعَصُوا رَسُولَ رَبِّهِمْ فَاخَذَهُمُ الرَّايَةُ﴾ ایک جگہ فرمایا ﴿فَكَذَّبُوا هُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُهْلَكِينَ﴾ اور انہوں نے ان دونوں کا انکار کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے کے سارے ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے تو ان سب باتوں سے ایک نتیجہ سامنے آتا ہے کہ جو کچھ بھی انسان کے اوپر یہ حالات آتے ہیں یہ اسکے اپنے اعمال کا نتیجہ ہوتا ہے، جیسے اعمال ہوں گے ویسے حالات ہونگے، اچھے اعمال کریں گے تو حالات اچھے ہوں گے اور برے اعمال کریں گے تو حالات برے ہوں گے روایت میں آتا ہے کہ فرشتے بندوں کے اعمال لے کر اللہ تعالیٰ کے حضور جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان اعمال کو دیکھ کر ان جیسے حالات ان بندوں پر نازل فرما دیتے ہیں۔

جب کہا میں نے کہ یا اللہ تو میرا حال دیکھ  
حکم آیا میرے بندے نامہ اعمال دیکھ  
تو یہ ہمارے اپنے کرتوت ہوتے ہیں جس کی ہمیں سزا ملتی ہے۔

### ادلے کا بدلہ

حدیث پاک میں فرمایا گیا ابن ماجہ کی روایت ہے عبد اللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں فرماتے ہیں کہ جب پانچ چیزیں تم میں آئیں گی تو پانچ چیزیں ہو کر رہیں گی یہ لازم اور ملزوم ہے۔

(۱) جب امت میں بے حیائی اور فحاشی آئے گی تو اللہ تعالیٰ ایسی مہلک بیماریاں بھیج دیں گے جن کا نام بھی نہیں سنا ہوگا، اور اب تو اس بات سے سب واقف ہیں کہ بے حیائی اور فحاشی کا کیا نتیجہ نکل رہا ہے، کہیں چالیس فیصد مثبت ہے کہیں پچاس فیصد، شریعت نے پہلے بتا دیا تھا چودہ سو سال پہلے جب ایسے امراض کا کسی سائنسداں کو بھی نہیں پتہ تھا اللہ تعالیٰ کے محبوب نے بتایا جب فحاشی اور بے حیائی عام ہو جائے گی ایسی مہلک بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جو آکے

پیکش پر لوگوں کو مار ڈالے گی، آج گھر تو کیا ملک پریشان ہیں۔

(۲)..... ایک بات یہ فرمائی کہ جو قوم ناپ تول میں کمی کرے گی اللہ تعالیٰ اسکے اوپر ظالم حکام کو مسلط فرمادیں گے۔

(۳)..... اور فرمایا جو قوم زکوٰۃ کو نادان سمجھے گی بوجھ سمجھے گی اللہ تعالیٰ اسکو قحط سالی عطا فرمائیں گے۔

(۴)..... اور فرمایا جو قوم عہد شکنی کرے گی، اپنے وعدے کو توڑے گی اللہ رب العزت اس کے اوپر دشمن کو نازل فرمادیں گے۔

(۵)..... اور جو قوم قانون خدا کی خلاف ورزی کرے گی، قانون خدا کے خلاف حکم جاری کرے گی اللہ تعالیٰ ان میں نا اتفاقی اور خانہ جنگی کی کیفیت پیدا فرمادیں گے۔

آج ہم مسلمانوں کے حکام اپنی من مرضی کے قانون بناتے پھر رہے ہیں نتیجہ کیا ہے کہ ایک کی دوسرے سے نہیں بنتی، ایک خدا ایک رسول ایک قرآن ایک کعبہ ایک دین، ایک کارخ مشرق کی طرف ہے دوسرے کا مغرب کی طرف ہے۔

یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو

تم سبھی کچھ بتاؤ تو مسلمان بھی ہو

فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں

کیا زمانہ میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں

اسلئے اللہ رب العزت نعمتیں دیتے ہیں اور جو بندہ نا قدری کرتا ہے ان سے واپس لے لیتے ہیں۔

## فتح کے وقت صحابی کا رونا

امام احمدؒ نے روایت نقل کی کہ جب قبرص فتح ہوا تو زبیر بن نضرؓ نے



ابودرداء رضی اللہ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا تو بڑے حیران ہوئے ابودرداء رضی اللہ عنہ سے کہا کہ حضرت اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اس شاندار فتح کے دن آپ رورہے ہیں؟ وہ فرمانے لگے کہ میں عبرت کی وجہ سے رورہا ہوں اس قوم کو دیکھو اللہ نے دنیا میں کتنی عزتیں دی تھیں اور کتنے ان کو انعامات دئے تھے انہوں نے ناقدری کی آج اللہ نے انکو دنیا میں مغلوب کر دیا جو پروردگار دینا جانتا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے۔

ایک حدیث میں ہے جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے انتقام لینا چاہتے ہیں تو پھر اس قوم کے بچے بکثرت مرتے ہیں اور اس کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ بانجھ کر دیا کرتے ہیں۔

اور ایک روایت میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم سے ناراض ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان پر لعنت بھیجتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی لعنت کا اثر سات پشتوں تک باقی رہتا ہے، اسلئے گناہ کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے آخرت میں بھی ملتی ہے۔

### سزا کے تین طریقے

ارشاد باری تعالیٰ ہے ﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾ ”جو بھی کوئی گناہ کرے گا اسے اسکی سزا مل کر رہے گی“

سزا ملنے کے تین طریقے ہیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ایک بندہ من مانی کرے شریعت کی خلاف ورزی کرے اور اس پر عذاب نہ آئے مگر عذاب آنے کے پکڑ کے تین طریقہ ہیں:

(۱)..... پہلے کو کہتے ہیں ”نکیر“ تنبیہ، کہ بندے نے گناہ کیا پروردگار نے کوئی مصیبت بھیج دی تو جب غم آتا ہے پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے تو بندہ پھر گناہ کرتے ہوئے ڈرتا ہے، ہمیں ایک صاحب ملے کہنے لگے جی جب بھی میں اپنی بیوی کو ناراض کرتا ہوں، دکھ دیتا ہوں تو میں محسوس کرتا ہوں

کہ مجھے کاروبار میں کوئی نہ کوئی غم ملتا ہے، اب وہ بیچارہ کاروبار کے غم سے بچنے کے لئے بیوی کو خوش رکھتا تھا، ہم نے کہا قسمت والی بیوی ہے۔

ایک آدمی جھوٹ نہیں بولتا تھا، حالانکہ اسکی زندگی کوئی تقویٰ والی بھی نہیں تھی بات سچی کرتا تھا، تو ہم نے اس سے پوچھا بھی آپ میں یہ صفت کیسے آئی، کہنے لگا حضرت سچی بات ہے جب میں جھوٹ بولتا ہوں کہیں نہ کہیں کوئی بندہ مجھ سے دھوکہ کرجاتا ہے لہذا میں سچ بولتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کا معاملہ ایسا کر دیتے ہیں نقد کا معاملہ کوئی الٹا کام کریں گے اگلے دن کوئی بری خبر سنیں گے، تو ڈر کے مارے پھر وہ ایسا الٹا سیدھا کام نہیں کرتے۔

ایک نوجوان مجھے کہنے لگا کہ میں ایک خاص گناہ کرتا تھا جب گناہ کرتا چوبیس گھنٹے کے اندر میں کوئی نہ کوئی ناپسندیدہ خبر ضرور سنتا تھا، کہتا ہے میں نے ایسے کئی سال آزمایا اب میں نے اپنے رب سے صلح کر لی، سچی توبہ کر لی پروردگار نے مجھے پریشانیوں سے نجات عطا فرمادی ہے، اسکو نکیر کہتے ہیں۔

اور ایسا کیوں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بندے پر مہربان ہیں اگر بندہ غفلت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکو جگانے کے لئے ایسی پریشانیاں فوراً بھیج دیتے ہیں، یاد رکھنا خوشیاں سلاتی ہیں اور غم جگاتے ہیں۔

سکھ دکھاں توں دیواں وار دکھا آن ملا یم یار

(میں سکھوں کو دکھوں پر قربان کر دوں کہ دکھوں نے مجھے میرے یار سے ملا دیا)

تو جب دکھ پڑتے ہیں تو رب یاد آتا ہے اسکو نکیر کہتے ہیں نقد کا معاملہ۔

(۲)..... اور کبھی کبھی سزا میں ”قاخیر“ ہوتی ہے، لہ گناہ تو بندہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑا اسکو مہلت دیدیتے ہیں رسی ڈھیلی کر دیتے ہیں ناراضگی کی وجہ سے اچھا بھی تم کر لو جو کرنا ہے، پھر ہم تمہارا بندہ بست کرتے ہیں اور یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہا ہو اور اس پر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں برس رہی ہوں تو وہ مجھ لے کہ مجھے اچھی طرح باندھا جا رہا ہے تو کبھی کبھی جلدی

سزا نہیں ہوتی،

چنانچہ جنید بغدادیؒ کا ایک شاگرد تھا اس نے بری نظر کہیں ڈالی نتیجہ کیا نکلا کہ بیس سال کے بعد قرآن مجید کا حفظ بھول گیا، قرآن مجید کے حفظ سے محروم کر دیا گیا، بہت ڈرنے کی بات ہے، گناہ جوانی میں کئے اللہ تعالیٰ نے بیوی کو بڑھاپے میں نافرمان بنا دیا اولاد ماں کے ساتھ ہو گئی، اور جب اولاد ماں کے ساتھ ہو جائے اور بیوی خاوند کی نافرمان بن جائے اس بندے کی زندگی جو خراب ہوتی ہے وہ بتا نہیں سکتا، بڑھاپے میں بیوی کا ناموافق ہو جانا یہ بہت بڑی سزا ہے،

## ایک واقعہ

ہم نے ایک آدمی کو دیکھا اپنی زندگی میں بڑا افسر تھا اس نے ساری زندگی اپنی بیوی کو بہت دبا کر رکھا، بچے اسکے بڑھ لکھ کر بڑے افسر بن گئے انہوں نے ماں کو دیکھا کہ اس نے بہت مظلومیت کا وقت گزارا ہے وہ سارے ماں کے ساتھ ہو گئے اب ادھر یہ صاحب بوڑھے ہو گئے تو ایک دن بیوی نے کہا کہ جناب گھر پر سے چھٹی، بیٹوں نے بھی کہہ دیا جو امی کہہ رہی ہیں وہی ہوگا اب تک آپ نے جو مرضی آئی وہ کیا، اب امی کی مرضی چلے گی، گھر سے اسکو نکال دیا گیا، کچھ دن وہ مسجد میں رہا نہ کوئی اس کا کھانا پکانے والا نہ کوئی اسکو پاس بٹھانے والا اتنا اس کا بڑھاپا خراب ہوتے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہم کانپا کرتے تھے اسے دیکھ کر، دھکے کھاتا تھا روتا تھا بیٹھ بیٹھ کر، گناہ جوانی میں کئے اللہ تعالیٰ نے اسکی سزا بڑھاپے میں دی۔

اسی طرح بے پردگی عورت نے جوانی میں کی، حالات ایسے بنے بڑھاپے میں طلاق ہو گئی اب جس عورت کو بڑھاپے میں طلاق ہو اس عورت کی اس سے زیادہ زندگی اور کیا خراب ہو سکتی ہے اب نہ باپ زندہ نہ ماں زندہ نہ کوئی بھائی

زندہ نہ بہن زندہ کوئی اپنا نہیں ہم نے ایک عورت کو دیکھا ایسے وقت میں اسکو طلاق ہوئی کہ اب دنیا میں اسکا اپنا کوئی نہیں اب عورت کہاں جائے، ہے بھی بوڑھی دھکے کھاتی تھی، بیچاری روتی تھی بیٹھ بیٹھ کر تو کبھی تو سزا نقد تو کبھی سزا تاخیر سے دیدی جاتی ہے۔

(۳)..... اور ایک اس سے بھی زیادہ مہلک سزا ہے اسکو کہتے ہیں ”خفیہ تدبیر“ کہ اللہ تعالیٰ ایسی طرح سے سزا دیتے ہیں کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ سزا مل رہی ہے یا نہیں، ایسی خفیہ، یہ سب سے خطرناک چیز ہوتی ہے مثلاً ظاہر میں یہ اپنی من مانیں کر رہا ہے، گناہ کر رہا ہے، خلاف شریعت کام کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ نعمتیں اور زیادہ کر دیتے ہیں، کاروبار بھی بڑھ رہا ہے اور واہ واہ بھی ہو رہی ہے عزتیں بھی مل رہی ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہوتی ہے سنئے قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ﴿فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِم ابوابِ كُلِّ شَيْءٍ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذْنَاهُمْ بَغْتَةً﴾ ”جب وہ قوم کے لوگ بھول گئے جو ہم نے انکو نصیحت کی تھی ہم نے ہر نعمت کے دروازے ان پر کھول دیئے، حتیٰ کہ جب بڑے خوش ہو گئے کہ ہمیں یہ سب کچھ مل گیا ہم نے اچانک ان لوگوں کو پکڑ لیا“ یہ جو اللہ کی اچانک پکڑ ہوتی ہے نایہ بڑی دردناک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اپنی پکڑ سے بچائے ﴿وَمَنْ يَهِنَ اللَّهُ فَعَالَمُهُ مِنْ مَكْرَمٍ﴾ ”جسے اللہ ذلیل کرنے پر آتا ہے اسے عزتیں دینے والا کوئی نہیں ملتا“

### سبق آموز قصہ

ہمارے ایک دوست تھے اپنی بیٹی کا واقعہ وہ سنایا کرتے تھے اللہ نے انکو بیٹی دی جو چاند جیسی خوبصورت تھی، ذہین اتنی کہ میڈیکل ڈاکٹر بن گئی، سینکڑوں رشتہ اسکے آئے دیکھنے میں حور پری تھی اور ایم بی بی ایس اوپر سے بن گئی، بڑے بڑے رشتے آئے مگر اسمیں تکبر تھا جو آتا اسنو حقارت سے ٹھکرا دیتی

اسکی کہیں نظر جمتی ہی نہیں تھیں، نیک رشتے بھی آئے مال والے رشتے بھی آئے، ذرا ماں باپ نے رشتے کی بات کی وہ اس میں دس عیب نکالتی کہ یہ بھی کوئی رشتہ ہے، آجاتے ہیں نکلے نکلے کے لوگ، ہمیشہ تکبر کی بات کرتی، ماں باپ اسے سمجھاتے بیٹی نعمت کی ناقدری نہ کرو اتنے رشتے ہیں جہاں تمہارا دل مطمئن ہوتا ہے، بتاؤ ہم تمہارا رشتہ کر دیں گے، اسے کوئی پسند ہی نہ آیا خوبصورت سے خوبصورت نوجوان، نیک سے نیک نوجوان بڑی عزت والی فیملی کے نوجوان، ہر ایک کو وہ حقارت سے ٹھکرا دیتی وہ خود کہتے تھے میرا بیٹی پر اللہ کی پکڑ آگئی، اللہ کی پکڑ کیسی آئی کہ ایک مرتبہ اس نے کوئی آپریشن کیا تو اس آپریشن تھیز میں پتہ نہیں کیا ہوا کہ اسکے ہاتھ کی انگلیوں کی جلد مردہ ہوئی شروع ہو گئی، ایک دو مہینہ کے اندر یہ دونوں ہاتھ کی جلد بالکل مردہ ہو کر بوڑھوں جیسی ہو گئی اب ایسی حور پری لیکن ہاتھ دیکھو تو بوڑھوں والے ہر وقت ہاتھ چھبائے رکھتی تھی دستانے پہنے رکھتی تھی، اب رشتے بھی آنے بند ہو گئے جو عورت آئی اسے دیکھتی اسکے ہاتھ دیکھتی کہتی مجھے اپنے بیٹے کے لئے یہ نہیں لینا، انتظار کرتے کرتے عمر بیس سال ہو گئی اب اسکو پتہ چلا کہ اب میرا رشتہ کوئی نہیں لا رہا اب وہ چاہتی کہ اب میرا کہیں رشتہ ہو جائے اور رشتہ کرنے کے لئے کوئی تیار نہیں ہوتا، جتنا تکبر کرتی تھی اللہ نے اتنی ہی ناک رگڑوائی، اب نمازیں پڑھتی ہے اب سجدے کرتی ہے اب روتی ہے اب دعائیں مانگتی ہے اب اسکا رشتہ کرنے والا کوئی نہیں اسکے والد کوئی عمل پوچھنے آئے اور آکر انہوں نے یہ خود تفصیل بتائی کہنے لگے اتنی پریشان ہے کہتی ہے کہ دنیا میں اللہ نے میری زندگی کو جہنم بنا دیا، اللہ تعالیٰ نے حسن و جمال دیا تھا دماغ خراب ہو گیا، جب اللہ تعالیٰ نعمت دے تو انسان نعمت کی قدر کرے، جھکے، اللہ کے سامنے، دیکھے اللہ تعالیٰ نے اسکے ساتھ کیا معاملہ کیا، تو کئی مرتبہ سزا ایسے ملتی ہے کہ بندے کو پتہ بھی نہیں چلتا۔

## بنی اسرائیل کے ایک عالم کا واقعہ

چنانچہ بنی اسرائیل کا ایک عالم مگر کسی گناہ میں ملوث ہو گیا اب علم تو تھا اسے پتہ تھا کہ گناہ کی کیا سزا ملنی ہے، گناہ بھی کرتا تھا اوپر سے ڈرتا بھی تھا کہ کچھ نہ کچھ میرے ساتھ ہونا ضرور ہے، کچھ عرصہ گزر گیا تو ایک دن اس نے تہجد کی نماز پڑھی اور تہجد کے بعد دعا مانگنے لگا، اللہ تو کتنا کریم اور کتنا مہربان ہے کہ میں تو تیری نافرمانی کر رہا ہوں اور تو نے مجھ پر اپنی نعمتیں سلامت رکھی ہیں، جب اس نے یہ بات کہی اللہ تعالیٰ نے اسکے دل میں القاء فرمایا میرے بندے نعمتیں سلامت نہیں تو محروم ہے تجھے محرومی کا پتہ نہیں چل رہا تو وہ حیران ہوا اے اللہ میں کس نعمت سے محروم ہوں اللہ تعالیٰ نے دل میں بات ڈالی کہ تو سوچ جس دن تو نے پہلی مرتبہ یہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کیا تھا اس دن سے ہم نے رات کے آخری پہر کی مناجات کی لذت سے تجھے محرم کر دیا، تب اسکو احساس ہوا کہ واقعی جب سے گناہ کرنا شروع کیا مجھے آخری پہر کا رونا کبھی نصیب نہیں ہوا، ہم اس کو سزا ہی نہیں سمجھتے ہم سوچیں کیا پتہ ہم تہجد سے اسی لئے محروم ہوتے ہوں، تکبیر اولیٰ سے محروم ہوتے ہوں، ایمان حقیقی کی حلاوت سے محروم ہوتے ہوں، ہم اسے سزا ہی نہیں سمجھتے تو اسکو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ﴿فلا یامن مکر اللہ الا القوم الکافرون﴾۔

## تین اہم باتیں

تین باتیں بہت اہم ہیں ذرا توجہ فرمائیے گا:

(۱) ..... قرآن کریم میں فرما دیا گیا ﴿انما بغیکم علی انفسکم﴾ ”تمہاری بغاوتیں تمہاری اپنی جانوں پر“ یعنی تم جتنے گناہ کرو گے بغاوت کرو گے اسکا اثر تم پر لوٹ کر رہے گا، کیا مطلب؟ ہم اللہ تعالیٰ کی اگر نافرمانی کریں گے اللہ تعالیٰ مخلوق کو ہمارا نافرمان بنا دیں گے اور یہ عام دستور ہے

کہتے ہیں، حضرت دعا کریں میرے بچے تو افلاطون بن گئے، سنتے ہی نہیں کسی کی، بھائی جیسے تم رب کی نہیں سنتے ویسے بچے تمہاری نہیں سنتے، فضیل بن عیاضؒ فرماتے تھے میں نے جب بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی میرے اس کا اثر فوراً اپنی بیوی میں دیکھایا اپنے غلام میں دیکھایا سواری کے جانور میں دیکھا جو میرے ماتحت تھے انہوں نے میری نافرمانی کی، تو ہم اگر چاہتے ہیں کہ مخلوق ہماری فرماں بردار بنے تو ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے رب کے فرمانبردار بنیں۔

(۲)..... دوسری بات ﴿وَلَا يَحْقِيقُ الْمَكْرُ سِئَاءَ الْآبَاہِلَ﴾ اگر کوئی آدمی کسی کے خلاف تدبیر کرے گا تو وہ تدبیر اسکے اہل پر لوٹے گی، کسی کا براسوچیں گے آپ کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ برا ہوگا، یہ اللہ کا بنایا ہوا قانون ہے اور اسکو آزمایا ہے لوگوں نے، مثال کے طور پر زنا ایک ایسا گناہ ہے کہ جو بندہ مرتکب ہوتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو اسکے اہل خانہ میں سے کوئی نہ کوئی اس کا مرتکب ہوتا ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں یہ قصاص کوئی نہ کوئی دیتا ہے،

### سنار کا واقعہ

مشہور واقعہ ہے ابن جوزیؒ نے یہ لکھا ہے فرماتے ہیں کہ ایک سنار تھا اس کے گھر ایک نوجوان اٹھارہ بیس سال سے پانی بھرا کرتا تھا ایک دن جب وہ پانی دینے کے لئے آیا اور اسکی بیوی نے دروازہ کھولا تو اس نے پانی تو بھرا مگر اسکی بیوی کا ہاتھ پکڑ کر شہوت سے دبایا، جب وہ پھر کے وقت وہ گھر آیا اس نے دیکھا کہ بیوی رو رہی ہے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگی یہ سترہ اٹھارہ سال سے کام کر رہا تھا اتنا ہمیں اس پر اعتماد تھا، یہ ایسا بد بخت نکلا کہ آج اس نے میرا بازو پکڑ کر شہوت کے ساتھ دبایا، تو اس سنار کی آنکھوں سے آنسو آ گئے بیوی نے پوچھا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا کہ یہ اس کا قصور نہیں یہ میرا قصور ہے آج میرے پاس ایک عورت زیور خریدنے آئی تھی اس نے چوڑیاں خریدیں، کہنے

لگی مجھے ذرا پہنا دو، مدد کرو، مجھے اسکے ہاتھ خوبصورت لگے پسند آئے میں نے اسکے ہاتھوں کو شہوت سے دبایا، اسکے نتیجہ میں میری بیوی کے ہاتھوں کو شہوت سے دبایا گیا، پھر وہ کہنے لگا آج میں سچی توبہ کرتا ہوں اور وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد ایسی کو تا ہی نہیں کروں گا یہ کہہ کر وہ چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد وہی پانی بھرنے والا آیا دروازہ کھٹکھٹایا بیوی نے پوچھا کون ہو کہنے لگا پانی بھرنے والا معذرت کرنے آیا ہوں مجھے معاف کر دیں میں آج کے بعد ایسا کبھی نہیں کروں گا، ابن جوزیؒ یہ بھی لکھتے ہیں کہ ایک عالم نے یہ بات کسی بادشاہ کو سنائی بادشاہ نیکو کار تھا اچھا تھا وہ کہنے لگا اسمیں قصص کا معاملہ ہے؟ کہا جی ہاں شریعت یہ ایک قانون خداوندی ہے، غیبی قانون ہے وہ اسی طرح چلتا ہے بادشاہ نے کہا اچھا میں آزماتا ہوں اسکی اپنی بیٹی تھی جوان العمر تھی اس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ کہ بیٹی جاؤ بازار کا چکر لگا کر آؤ اور اسکے ساتھ ایک اور عورت کو پیچھے پیچھے بھیج دیا کہ بچی اکیلی نہ ہو کوئی نہ کوئی پیچھے ضرور ہو، اب وہ لڑکی بازار میں سے گزری، نو جوان تھی، خوبصورت تھی وقت کی شہزادی تھی مگر جو بندہ اسکی طرف آنکھ اٹھا تا وہ جبرائیل تھا، جو اسکی طرف آنکھ اٹھا تا وہ جبرائیل تھا، کسی نے اسکو آنکھ بھر کر بھی نہیں دیکھا، وہ لڑکی چلتی چلتی اپنے گھر واپس آئی جب اپنے گھر داخل ہوئی محل کے اندر سے گزر رہی تھی ایک کمرے میں کوئی مرد تھا جو محل میں کام کرتا تھا، اس نے اس کو دیکھا تو اس نے تنہائی جان کر اس لڑکی کو قریب آ کر گلے سے لگایا اور اس کا بوسہ لے کر بھاگ گیا، لڑکی نے آ کر یہ بات ساری باپ کو بتادی اس عورت نے بھی بتادی بادشاہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا میں نے ساری زندگی غیر محرم سے اپنی آنکھ کو بچایا میری بیٹی کے ساتھ وہی معاملہ پیش آیا، مگر ایک مرتبہ میں نے بھی شہوت میں ایک عورت کو گلے لگا کر بوسہ لیا تھا، جتنا میں نے کیا کسی نے میری بیٹی کے ساتھ اتنا ہی کیا، تو نو جوان کیا سمجھتے ہیں ہم اگر دوسروں کی عزتوں پر غلط نظریں اٹھائیں گے تو کیا کوئی



ہماری عزت پر غلط نظر نہیں اٹھائے گا؟ کوئی بیوی براٹھائے گا کوئی بیٹی براٹھائے گا، کوئی بہو براٹھائے گا، گھر میں سے کوئی نہ کوئی اسکی سزا بھگتے گا، اور اسکی دلیل حدیث پاک سے ملتی ہے ایک صحابی نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی مجھے اپنی بیوی کی طرف سے اطمینان نہیں ہے کہ اس کا کردار اچھا ہے یا نہیں نبی ﷺ نے فرمایا تم دوسروں کی بیویوں کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کرو دوسرے تمہاری بیوی کے ساتھ پرہیزگاری کا معاملہ کریں گے، ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے گھر کی عورتیں پاکدامن رہیں پاکیزہ رہیں تو ہمیں چاہئے کہ ہم بھی اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھیں اپنے سینوں کو پاک رکھیں، جو گناہ کر چکے کر چکے، اگر آج سچی معافی مانگ لیں گے تو رب کریم آئندہ ہمارے گھروں میں بھی حیا اور پاکدامنی کے ماحول کو پیدا فرمادیں گے اور یہ ضروری نہیں ہوتا کہ بندہ توبہ نہ کرے اور کہے کہ جی نہیں میرے یہاں تو کچھ بھی نہیں، ناک کے نیچے دیا جلتا ہے نہ خاوند کو پتہ چلتا ہے نہ کسی اور کو اللہ کا قانون سچا ہے اسلئے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنے آپ کو ایسے گناہوں سے بچائیں،

جیسی کرنی ویسی بھرنی نہ مانے تو کر کے دیکھو

جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے نہ مانے تو مر کے دیکھو

جو گناہ ہم کر چکے اسکی ہم سچی معافی مانگیں اسلئے کہ جب انسان اپنی کوتاہی کی معافی مانگتا ہے پروردگار بڑے کریم ہیں جلدی معاف فرمادیتے ہیں سیدنا آدم ﷺ نے کہا تھا ﴿ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين﴾ سیدنا نوح ﷺ نے کہا تھا ﴿وان لا تغفر لی وترحمنی اکن من الخاسرين﴾ حضرت یونس ﷺ نے فرمایا ﴿لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین﴾ ہمیں بھی چاہئے کہ ہم بھی ان پاکیزہ ہستیوں کی اتباع کرتے ہوئے اپنی زندگی کی ہر چھوٹی بڑی غلطیوں سے معافی مانگیں رب کریم

مہربان ہیں اور پھر رمضان المبارک کی آج تین سو رات ہے تیس کی رات طاق راتوں میں سے ہے، کیا معلوم کہ آج ہی شب قدر ہو تو یہ چند راتیں ہی تو ہیں اکیس تیس پچیس ستائیس اسیس اللہ تعالیٰ ہمیں ان راتوں کی قدر دانی نصیب فرمائے اور ہم آج اپنے رب سے ان تمام گناہوں کی سچی سچی معافی مانگ لیں ایسا نہ ہو کہ پروردگار کی پکڑ آئے اسکی پکڑ آنے سے پہلے پہلے ہم اپنے پروردگار سے معافی مانگ لیں اور میرے دوستو! ہم پکڑ کے قابل نہیں ہیں ہم آزمائشوں کے قابل نہیں ہیں ہم کس کھیت کی گاجر مولیٰ ہیں کیا اوقات ہے ہماری اسکی پکڑ آتی ہے بڑوں بڑوں کو کھنٹی کا ناچ نچا دیا کرتے ہیں، آدمی کی گھر بیٹھے بٹھائے عزت ختم ہو جاتی ہے سر سے پگڑیاں اچھل جاتی ہیں، دوپٹے اتر جاتے ہیں، آدمی کسی کو چہرہ دکھانے کے قابل نہیں رہتا، اس لئے اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ہمیشہ ڈرنا چاہئے معافیاں مانگنی چاہئیں، اور اس پروردگار سے امید رکھنی چاہئے کہ وہ ہم پر مہربانی فرمائے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

## مناجات

میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے		ہوا و حرص والا دل بدل دے
خدایا فضل فرما دل بدل دے		بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے
بدل دے میرا راستہ دل بدل دے		گنہگاری میں کب تک عمر کاٹوں
مزا آجائے مولیٰ دل بدل دے		سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں
تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے		کروں قربان اپنی ساری خوشیاں
جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے		بہانوں آنکھ اپنی ماسوئی سے
خدیا رحم فرما دل بدل دے		سہل فرما مسلسل یاد اپنی
رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے		پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ
بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے		ترا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے
بتالے اپنا بندہ دل بدل دے		میری فریاد سن لے میری مولیٰ

ہوا و حرص والا دل بدل دے

میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے

﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ﴾

## گناہوں کے دنیا میں نقصانات

از افادات

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم  
(نقشبندی مجددی)

درحالت اعتکاف مسجد نور لوسا کا (زابیا) بعد نماز عشا

۲۰۰۳ء

## فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عناوین	نمبر شمار
۹۳	گناہ کے اثرات	۱
۹۵	علم نافع سے محرومی	۲
۹۶	ایک مثال	۳
۹۷	معصیت سے حافظہ میں کمی	۴
۹۸	رزق میں تنگی	۵
۱۰۳	انسانوں سے وحشت	۶
۱۰۵	لذت قلبی سے محرومی	۷
۱۰۶	صلاح الدین ایوبیؑ	۸
۱۰۷	قلب و جسم کی کمزوری	۹
۱۰۷	طاعت سے محرومی	۱۰
۱۱۰	مرشد عالم اور عیسائی	۱۱
۱۱۱	گناہوں کا تسلسل	۱۲
۱۱۱	توبہ کی توفیق کا چھن جانا	۱۳
۱۱۳	گناہ گنہگاروں کی میراث	۱۴
۱۱۳	ایک سچا واقعہ	۱۵
۱۱۶	عقل کی کمی	۱۶
۱۱۸	لعنت کن لوگوں پر	۱۷
۱۲۲	فرشتوں کی دعاؤں سے محرومی	۱۸
۱۲۲	پیداوار میں کمی	۱۹
۱۲۳	ایک بادشاہ کی بد بیتی	۲۰
۱۲۳	شرم و حیا رخصت	۲۱
۱۲۵	عظمت الہی کا دل سے نکلنا	۲۲
۱۲۵	مصیبتوں کے گھیرے میں	۲۳
۱۲۶	بسکون دل سے محرومی	۲۴
۱۲۶	کبیرہ پر اصرار	۲۵
۱۲۷	کلمہ سے محرومی	۲۶
۱۲۹	نیکی کا اثر	۲۷
۱۲۹	حضرت مولانا احمد علیؒ کا قول	۲۸

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## اقتباس

گناہ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں چاہے جتنا کامیابی سے  
گناہ کرے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں کوئی اسکو سمجھانے والا دنیا میں  
نہیں گناہ اسکے اختیار میں ہے تو بھی اسکی سزا اللہ رب العزت اسے  
دیں گے آخر یہ بڑے بڑے مالدار پیسوں والے جو اپنی من مرضی  
کا کھاتے ہیں، من مرضی کے گھروں میں سوتے ہیں انکو کیا مصیبت ہوتی  
ہے کہ انکو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، اگر اپنی خواہشات پوری کرنے  
پر انسان کو خوشی ہوتی، سکون قلب ہوتا، تو یہ لوگ دینا کے بڑے  
خوش نصیب لوگ ہوتے۔

﴿حضرت پیرزاد الفقار احمد صاحب نقشبندی مدظلہ﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ.....!

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطٰنِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿مَنْ یَعْمَلْ سُوْءً یُّجْزَ بِهِ﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

گناہ کے اپنے اثرات ہوتے ہیں چاہے جتنا کامیابی سے گناہ کرے کوئی اسے پوچھنے والا نہیں کوئی اسکو سمجھانے والا دنیا میں نہیں گناہ اس کے اختیار میں ہے تو بھی اسکی سزا اللہ رب العزت اسے دیں گے آخر یہ بڑے بڑے مالدار پیسوں والے جو اپنی من مرضی کا کھاتے ہیں، من مرضی کے گھروں میں سوتے ہیں انکو کیا مصیبت ہوتی ہے کہ انکو نیند کی گولیاں کھانی پڑتی ہیں، اگر اپنی خواہشات پوری کرنے پر انسان کو خوشی ہوتی، سکون قلب ہوتا، تو یہ لوگ دینا کے بڑے خوش نصیب لوگ ہوتے، جبکہ ایسا نہیں ہے پریشان حال ہوتے ہیں، ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، تو گناہ کے اپنے اثرات ہیں جو گناہ کرے گا اثرات کو روک نہیں سکے گا، یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں،

گناہ کے اثرات

جہاں گناہ ہوگا وہاں اکابد اثر ضرور ہوگا، تاہم کچھ اثرات ایسے ہیں جو واضح

نظر آتے ہیں اب انکی ایک تفصیل ہے حضرت اقدس تھانویؒ نے جزاء الاعمال جو چھوٹا سا کتابچہ ہے اس میں اسکی بڑی تفصیل دی ہے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم ان اثرات کو ایک ایک کر کے دیکھتے جائیں گے۔

## علم نافع سے محرومی

☆..... گناہ کا ایک اثر تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے، ایک ہوتا ہے علم اور ایک ہوتا ہے معلومات ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، معلومات تو ہر بندے کو ہوتی ہیں، چاہے مؤمن ہو چاہے کافر ہو ہمیں کتنے پادری ایسے ملے جو دین اسلام کی اتنی معلومات جانتے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے، ایسے پادری بھی ملے جو عربی میں گفتگو کرتے تھے آپ قرآن کی آیت پڑھیں وہ قرآن پاک کا ترجمہ آپ کو بتائیں گے ان کے پاس جو ہے وہ علم نہیں معلومات ہیں۔

پچھلے نے جب قرآن مجید کا ترجمہ انگریز میں کیا تو وہ اس وقت تک کافر تھا تو ایک کافر نے زبان دانی کے زور پر قرآن کا ترجمہ کیا نا، یہ تو اعجاز قرآن تھا کہ اللہ نے بعد میں اسکو ہدایت عطا فرمادی تو معلومات تو کافر کے پاس بھی ہو سکتی ہیں، پھر آخر فرق کیا ہے معلومات میں اور علم میں حضرت مفتی محمد شفیعؒ نے ایک مرتبہ طلبہ سے پوچھا کہ بتاؤ علم کسے کہتے ہیں؟ کسی نے کہا جاننا کسی نے کہا پہچانا حضرت خاموش رہے کچھ مختلف جواب دینے کے بعد بچے چپ ہوئے تو ایک نے کہا حضرت آپ ہی بتا دیجئے تو انہوں نے فرمایا علم وہ نور ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد اس پر عمل کیے بغیر چین نہیں آتا، اگر ایسا ہے تو علم ہے ورنہ معلومات ہے، تو اسکو علم نافع کہتے ہیں نفع دینے والا علم اور اگر ایسا نہیں تو ﴿کمئل الحمار یحمل اسفار﴾ گدھا ہے جس کے اور پر بوجھ لدا ہوا ہے، بنی اسرائیل کے جو بے عمل علماء تھے انکو گدھے سے تشبیہ دی گئی تو علم اور چیز ہے اور معلومات اور چیز ہے، اسی لئے جب معلومات ہوتی ہیں تو علم



کے باوجود بندہ گمراہ ہو جاتا ہے دیکھنے میں علم ہوتا ہے اسکے پاس مگر وہ نام کا علم ہے حقیقت میں معلومات ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ﴿افرايت من اتخذ الله هواہ واصلہ الله علی علم﴾ ”کیا دیکھا دیکھا آپ نے اسے جس نے اپنی خواہشات کو اپنا معبود بنالیا اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا“ تو یہ اصل میں معلوت تھیں یہ علم نافع نہیں تھا اگر ہوتا تو اسے نفع دیتا علم کے باوجود گمراہ ہو گیا یہ کیا بات ہے۔

## ایک مثال

علم کے باوجود گمراہ ہونا اسکی مثال سمجھ لیں کہ سگریٹ انسان کی صحت کے لئے مضر ہے، کئی مرتبہ سگریٹ پینے والا چھوٹے بچوں کو نصیحت بھی کرتا ہے بچی ہم نے تو زندگی برباد کر لی بچو تم اس بری عادت میں نہ پڑنا، اس کا مطلب ہے وہ جانتا ہے اور سگریٹ بنانے والی کمپنی اوپر لکھ بھی دیتی ہے ”سگریٹ نوشی مضر صحت ہے“ اب پینے والا بھی جانتا ہے بنانے والے بھی اسکو بتا رہے ہیں، لیکن اس بندے کے دل میں ایسی طلب پیدا ہوتی ہے وہ پھر گھٹنے ٹیک دیتا ہے اور سگریٹ پینی شروع کر دیتا ہے، اس کو کہتے ہیں علم کے باوجود گمراہ ہونا وہ بندہ جانتا ہے میں کر کیا رہا ہوں، نفس کے ہاتھوں مجبور ہوتا ہے ﴿وجعل علی قلبہ وسمعہ وجعل علی بصرہ غشاوہ و ختم علی قلبہ وسمعہ فمن یہدہ من بعد الله افلا تذکرون﴾ اسکے دل پر اسکے کانوں پر مہر لگا دیتے ہیں، اسکی آنکھوں پر پٹی باندھ دیتے ہیں، تو اس لئے علم نافع ہمیشہ مانگنا چاہئے، نفع دینے والا علم، تو گناہوں کی وجہ سے انسان علم نافع سے محروم ہو جاتا ہے، صرف معلومات رہ جاتی ہیں، شیطان کا دھوکہ ہوتا ہے طالب علم کہتا ہے، جی میں اکٹھا پڑھ لوں پھر اکٹھا عمل کروں گا، جواب پڑھ کر دل نہیں کر پارہا، جب پرہے ہوئے مدت گزر جائے گی، پھر عمل کہاں کر پائے گا، شیطان

کا دھوکا ہے، تو گناہوں کی ظلمت انسان کو علم نافع سے محروم کر دیتی ہے،

## معصیت سے حافظہ میں کمی

امام شافعیؒ نے اپنے استاذ امام وکیعؒ سے پوچھا کہ بھول جاتا ہوں انہوں نے کہا کہ بھئی گناہ نہ کیا کرو تو امام شافعیؒ کی طبیعت میں کچھ شاعرانہ مزاج بھی تھا انہوں نے اس کو شعر میں ڈھال دیا۔

شکوت الی وکیع سو حفظی

فاوصانی الی ترک المعاصی

فان العلم نورم من الہ

ونور اللہ لا یعطی لعاصی

”میں نے امام وکیعؒ سے اپنے حافظہ کی کوتاہی کی شکایت کی انہوں نے وصیت کی کہ تم گناہ نہ کرنا اسلئے کہ علم اللہ رب العزت کا نور ہے اور اللہ کا یہ نور گنہگاروں کے دل میں عطا نہیں کیا جاتا، تو ظلمت اور اندھیرا ایک جگہ تو نہیں رہتے تا، علم نور ہے گناہ اندھیرا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ ایک جگہ بد معاش اور شریف اکٹھے ہوں تو پھر شریف ہی جگہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے، تو جب دل میں ظلمت ہوگی گناہوں کی تو پھر علم رخصت ہو جائے گا۔

امام مالکؒ نے ایک مرتبہ امام شافعیؒ کو نصیحت فرمائی [انی اری اللہ تعالیٰ قد القى علی قلبک نوراً فلا تحفظنہ بظلمة المعاصی] ”میں دیکھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے اے نوجوان تمہارے دل میں ایک نور کو القا فرما دیا ہے اور تم گناہوں کی ظلمت سے اسے بچانہ دینا، تو علم کی حیثیت اگر چراغ کی سی ہے تو گناہ کی حیثیت ہوا کے تھپڑوں کی سی ہے، اگر ہوا کے تھپڑے لگتے رہیں گے، تو کب تک چراغ جلے گا، بالآخر بجھ جائے گا تو علم نافع سے انسان محروم ہو جاتا ہے، اسلئے آج طلبہ شکایت کرتے ہیں، کہ حضرت

یاد نہیں ہوتا کئی کہتے ہیں جی یاد ہو جاتا ہے بھول جلدی جاتے ہیں، یاد رکھنا ”جہاں عصیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا“ کیوں نہیں آج حافظ الحدیث بنتے، ایک وقت تھا کہ لاکھوں حدیثیں ایک ایک بندے کو یاد ہو جاتی تھیں، آج تو سینکڑوں بھی نہیں ہیں، ہزاروں کی بات تو دور کی ہے، ایسا قوت حافظہ تھا کہ طلباء سنتے چلے جاتے تھے، انہیں یاد ہوتا چلا جاتا تھا، آج گناہوں کی ظلمت کی وجہ سے یاد کرتے ہیں اور پھر بھول جاتے ہیں استاذ کے درس میں بیٹھتے ہیں بس ہر حرف سے، ہر لفظ سے سلام کرتے چلے جاتے ہیں ہر لفظ کے ساتھ سلام رخصت، علم رخصت ہو جاتا ہے۔

## رزق میں تنگی

☆..... ایک گناہ کا اثر یہ کہ انسان کے رزق حلال میں تنگی کر دی جاتی ہے، حرام تو بڑا کھلا ہوتا ہے، حلال میں تنگی ﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا﴾ ”جو ہماری یاد سے قرآن سے اعراض کرے ہم اسکی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں“ معیشت کو تنگ کرنے کا کیا مطلب کہ دیکھنے میں کاروبار بھی لاکھوں میں ہے اور قرضہ بھی لاکھوں سے اوپر ہے، پریشان ہے بینک کالون کہاں سے دوں فلاں کالون کہاں سے دوں، بندوں کو لون کہاں سے دوں، کریڈٹ کارڈوں کا لون، کہاں سے دوں، دیکھنے میں بڑا سیٹس ہوتا ہے اور جتنا بڑا سیٹس ہوتا ہے دل کے اندر اتنا گہرا زخم ہوتا ہے دکھ اپنا بتا بھی نہیں سکتا کسی کو، رزق کو تنگ کر دیتے ہیں، غریب آدمی سکون کی نیند سوتا ہوگا یہ امیر آدمی رات کو چین کی نیند نہیں سو سکتا، کہتے ہیں جی گولیاں کھائے بغیر نیند نہیں آتی اسی لئے یورپی ممالک میں مشہور ہے کہ ہر آدمی مہینہ کے پہلے اٹھارہ دن تو بلوں کے لئے کام کرتا ہے ہر مہینہ کے پہلے اٹھارہ دن اس کو بل دینے ہیں پھر جا کر جو باقی دن ہونگے اس میں وہ کماتا ہے جو کھاتا ہے اور اپنے اوپر

لگاتا ہے۔

## (۱).....واقعہ

ایک صحابی قضائے حاجت کے لئے باہر گئے تو قریب ہی ایک سوراخ تھا اسے اردو میں بل کہتے ہیں جسمیں حشرات الارض رہتے ہیں کہتے ہیں کہ بل میں میں گھس گیا، تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک چوہا آیا اور اس نے ایک اشرفی نکالی اور پھر اندر چلا گیا پھر تھوڑی دیر کے بعد اشرفی نکالی پھر چلا گیا، جتنی دیر یہ اپنی ضرورت سے فارغ ہوئے اس نے کوئی سترہ کے قریب اشرفیاں نکال کر باہر ڈالیں اور اندر چلا گیا، انہوں نے اشرفیاں اٹھائیں اور لے کر نبی ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے صحابہ کرام کی بڑی خوبصورت عادت تھی کہ جو بھی نئی چیز پیش آتی تو نبی ﷺ کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور پوچھتے تھے اب ہمارے لئے حکم کیا ہے؟ تو انہوں نے نبی ﷺ کی خدمت میں گزارش کی کہ یہ واقعہ پیش آیا میں نے پیسے اٹھائے آپ کی خدمت میں پیش ہیں اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ یہ تو رزق ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے انتظام فرما دیا، تو صحابہ کرام کی زندگیاں ایسی تھیں کہ انکلو بلوں سے رزق ملتا تھا اور ہماری زندگی ایسی ہے سارے مہینہ کی کمائی بلوں میں چلی جاتی ہے، یہ بجلی کا بل، گیس کا بل، یہ ٹیلیفون کا بل، یہ انشورنس کا بل، بل ہی جان نہیں چھوڑتے توبہ توبہ، تو رزق میں تنگی کا کیا مطلب رزق حلال میں تنگی آ جاتی ہے، کہتے ہیں جی حضرت کیا کریں ایک وقت تھامٹی کو ہاتھ لگاتے تھے سونا بن جاتی تھی، کسی نے کچھ کر دیا ہے، سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں مٹی بن جاتا ہے، ابھی کسی نے نہیں کیا آپ کے اپنے نفس نے کیا ہے، یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے چنانچہ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ایک مثال دیتے ہیں ﴿وَضَرْبَ اللَّهِ﴾ مثلاً قریۃ کانت آمنۃ مطمئنۃ یأتیہا رزق فہا رغدا من کل مکان

فكفرت بانعم الله فاذاقهم الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ﴿۱﴾ اور ایک بستی والوں کی مثال بیان کرتا ہے ان بستی والوں کے پاس امن بھی تھا اطمینان بھی تھا، (دیکھو حسن قرآن، اعجاز قرآن دولفظ استعمال کئے انکے پاس امن بھی تھا اطمینان بھی تھا امن کہتے ہیں کہ باہر کے دشمن کا ڈر نہ ہو اور اطمینان کہتے ہیں اندر کا بھی کوئی روگ نہ ہو، نہ انکو کوئی اندر کا روگ تھا نہ کوئی باہر کا خوف اور ڈر تھا، ایسی مزے کی زندگی چاروں طرف سے ان پر رزق کی بارش ہوتی تھی) انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی ناشکری کی (نتیجہ کیا نکلا) اللہ نے ان کو بھوک اور تنگ اور خوف کا لباس پہنا دیا، کام جو ایسے کرتے تھے، یہاں بھی اعجاز قرآن دیکھئے یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ انکو بھوک آئی خوف آگیا، نہیں اسکا لباس پہنا دیا اسکی وجہ کیا؟ کہ جب کھانے کو نہیں ملتا تو سارا بدن پھر پیلا پڑتا ہے ائمہ ہوتا ہے کھانے جو کچھ نہ ملا تو وہ لباس کی مانند جو پورے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے، اسی طرح جب خوف ہو تو یکدم بندہ کا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے قرآن مجید کا اعجاز دیکھو لفظ کیسا استعمال کیا کہ واقعی اس کا اثر جسم کے ایک حصہ پر نہیں سر سے لے کر پاؤں تک انسان کو محسوس ہوتا ہے، یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے [ان الرجل لیحرم الرزق بذنب یصیبه] بے شک بندہ اس رزق سے گناہوں کے سبب محروم کر دیا جاتا ہے جو اسکو ملنے والا ہوتا ہے۔

## (۲).....واقعہ

ہمارے یہاں قریب کی ایک بستی میں واقعہ پیش آیا میاں بیوی میں کچھ کھٹ پٹ ہوئی اللہ کی شان کہ اسی وقت ایک مہمان نازل ہو گیا، خیر خاوند نے اسکو بٹھایا اور بیوی کو آکر بتایا کہ مہمان آیا ہے اس نے کہا چھٹی نہ تمہارا کھانا بننا ہے نہ اسکا بننا ہے، ہوم گورمینٹ کا یہ فیصلہ تھا، خیر یہ بڑا پریشان اب مہمان کے

پاس آ کر بیٹھا اسکے ذہن میں خیال آیا کہ بھئی مہمان کو کھانا نہ کھلایا تو یہ تو بہت بدنامی ہوگی رشتہ دار ہے، قریبی ہے تو چلو میں سامنے والے ہمسایہ کو کہہ دیتا ہوں وہ سامنے والے ہمسایہ کے دروازہ کھٹکھا کر، انکو کہنے لگا جی ایک مہمان ہے اور میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، حالانکہ اسکی تونیت خراب تھی تو اسنے کہا جی اسکی طبیعت خراب ہے آپ ہمارے مہمان کا کھانا بنا دیں انہوں نے کہا جناب آپ کیا بات کر رہے ہیں، ہم دس بندوں کا کھانا بنا دیتے ہیں آپ فکر نہ کریں کھانا ابھی پہنچ جائے گا، پرانا تعلق تھا، قریب کے پڑوسی تو رشتہ داروں کی طرح گہرا تعلق رکھتے ہیں، اور شریعہ نے بھی اس قرب کے تعلق کو تسلیم کیا ہے، اسکو اطمینان ہو گیا، یہ آ کر اسکے پاس بیٹھ گیا باتیں کرنے لگا اتنے میں اسکو خیال آیا کہ مہمان کو میں ٹھنڈا پانی یا لسی وغیرہ تو پلاؤں، یہ پانی لسی وغیرہ لینے جب اندر گیا تو کیا دیکھتا ہے کہ بیوی بیٹھی زار و قطار رو رہی ہے، بڑا حیران ہوا کہ یہ شیرنی رونے والی تو نہیں تھی آج کیسے بیٹھی رو رہی ہے، جب ذرا آگے ہوا تو جناب وہ روتے ہوئی اٹھی اور کہنے لگی بس آپ مجھے معاف کر دیجئے، اس شوہر کے لئے تو یہ انوکھا دن تھا کہ بیوی معافی مانگ رہی ہے، اسنے کہا اچھا اچھا میں تجھے معاف کر دوں گا تو بتا تو صحیح ہوا کیا؟ وہ کہنے لگی بات یہ پیش آئی کہ جب میں نے تمہیں مہمان کے کھانا پکانے سے انکار کر دیا اور آپ چلے گئے تو میرے دل میں خیال آیا کہ لڑائی میری اور آپ تک ہے مہمان کا کیا قصور کھانا تو بنانا ہی ہے تو میں اٹھی کہ چلو کھانا بناتی ہوں، جب میں اپنے کچن میں داخل ہوئی حیران رہ گئی کہ ایک سفید ریش کوئی بوڑھا تھا وہ ہمارے آٹے کی بوری میں سے کچھ آٹا نکال رہا تھا میں نے دیکھا تو گھبرا گئی وہ مجھے کہتا ہے بیٹی گھبرا نہیں یہ مہمان کا حصہ تھا جو یہاں بھیجا گیا تھا اب یہ سامنے والے گھر میں جا رہا ہے، جی ہاں مہمان بعد میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسکا رزق پہلے بندے کے پاس پہنچا دیتا ہے، تو اسلئے یہ ذہن میں رکھ لیجئے، کہ گناہوں کے سبب ملنے والا رزق بندے سے واپس کر لیا جاتا ہے۔

## اللہ سے دوری

☆..... تیسرا اثر یہ کہ گناہ کرنے والے بندے کو اللہ تعالیٰ سے وحشت سی ہو جاتی ہے، وہ جو انس ہوتا ہے، پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے وہ سب ختم دل نہیں لگتا، اللہ کے ذکر میں، اللہ کے تذکرے میں، اللہ کی باتوں میں نہ اللہ والوں کے پاس لگتا ہے نہ اللہ والی محفلوں میں لگتا ہے، مسجد آنے کو دل نہیں کرتا، نماز پڑھنی ایک مصیبت لگتی ہے، مسجد میں بیٹھنا ایک مصیبت نظر آتی ہے وہی بات ہے کہ مچھلی خریدی کسی نے اٹھانے والے کو کہا کہ بھی گھر لے چلو اس نے کہا جناب راستے میں نماز کا وقت ہوا تو نماز پڑھوں گا اچھا بھی پڑھ لینا اب جب وقت ہو گیا تو وہ نماز کے لئے مسجد میں پہنچا وہ باہر کھڑا انتظار کرتا رہا جب لوگ نکلنے لگے اور وہ نہ نکلا تو کہتا ہے ارے میاں تجھے کون نہیں نکلنے دیتا اس لڑکے کو اس انداز میں بلارہا تھا، ارے میاں تجھے کون نہیں باہر نکلنے دیتا اندر سے جواب دیا جناب جو آپ کو اندر نہیں آنے دیتا وہ مجھے باہر نہیں آنے دیتا۔

ہم نے دیکھا ایک بندہ مسجد کی کرائے کی دوکان میں رہتا تھا اور پانچ نمازوں کا تارک تھا، مسجد کے دروازے کے ساتھ دوکان ہے اور اسکو نماز کی توفیق نہیں ہے ﴿وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ﴾ اللہ تعالیٰ سے وحشت ہوتی ہے اسکو تذکرہ اچھا نہیں لگتا، باتیں اچھی نہیں لگتیں، آپ اسکے ساتھ بات کرنے لگیں اسکا سینہ گھٹنے لگ جاتا ہے یہ ہمارے جماعت والے بھائی جب گشت میں جاتے ہیں ناتواں قسم کے تجربے ان کو بہت ہوتے ہیں لوگ پیچھا چھڑانے کی کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت کے ساتھ وحشت کا ہونا یہ گناہ کے اثرات میں سے ایک اثر ہے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ ”کیوں نہیں انکی بد اعمالیوں کی وجہ سے انکے دلوں پر زنگ لگا دیا جاتا ہے“ ایک شخص نے کسی عارف سے شکایت کی کہ جی مجھے

یاد رکھیے بہت وحشت سی محسوس ہوتی ہے انہوں نے کہا ﴿اذا كنت قد وحشت بالذنوب فددع اذشت واستعنه﴾ کہ اگر تجھے گناہوں کی وجہ سے وحشت سی محسوس ہوتی ہے تو گناہوں کو چھوڑ دے اسکے در پر آ جا تجھے اسکی محبت نصیب ہو جائے گی“

## انسانوں سے وحشت

☆..... ایک اثر یہ کہ اس بندے کو لوگوں سے بھی وحشت ہوتی ہے ایک انجانہ سا خوف ہوتا ہے اسکے دل میں، لوگوں سے ملنا جلنا بھی اسکو مصیبت نظر آتا ہے وہ علیحدہ ہی رہنا پسند کرتا ہے، طبیعت ایسی ہو جاتی ہے۔

## بنتے کاموں کا بگڑنا

☆..... اور ایک اثر یہ ہوتا ہے کہ اس بندے کے لئے کامیابی کے دروازے بند کر دئے جاتے ہیں کوئی کام اس کا انجام تک نہیں پہنچتا کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہتے ہیں کہ حضرت بس ہوتے ہوتے کام رہ جاتا ہے، کام نہیں چل رہا، وجہ کیا ہے؟ کہ تقویٰ کو اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ خود بندے کے وکیل بن کر اسکے کام کو سنوارتے ہیں اور جب گناہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ نگاہیں پھیر لیتے ہیں پھر بنتے کام بگڑ جایا کرتے ہیں۔

یہ خزاں کی فصل کیا ہے فقط ان کی چشم پوشی

وہ اگر نگاہ کر دیں تو ابھی بہار آئے

اسکی رحمت کی نظر ہوتی ہے تو بہار آ جاتی ہے اور رحمت کی نظر ہٹ جاتی ہے تو بس پھر خزاں ہوتی ہے، بھاگتا ہے، ایک روایت میں آتا ہے ”اے بندے ایک تیری مرضی ہے ایک میری مرضی ہے اگر تو چاہے کہ وہ پورا ہو جو تیری مرضی ہے تو میں تجھے تھکا بھی دوں گا اور تیری مرضی بھی پوری نہیں ہونے دوں گا“ تو وہی ہوتا ہے تھکتے بھی ہیں اور مرضی بھی پوری نہیں ہوتی بھاگ بھاگ کر



جوتے گھس جاتے ہیں، کام نہیں ہوتے اور تو اگر یہ چاہے کہ وہ پورا ہو جو میری مرضی ہے اے میرے بندے میں تیرے کاموں میں تیری کفایت بھی کروں گا اور تیری مرضی کو بھی پورا کروں گا، تو گناہوں کی وجہ سے انسان پر کامیابی کے دروازے بند تقویٰ سے یہ دروازے کھلتے ہیں، اسلئے قرآن مجید میں فرمایا ﴿وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ ”جو تقویٰ اختیار کرتا ہے پرہیزگاری اختیار تا ہے اللہ تعالیٰ راستہ اسکے لئے کھول دیتے ہیں اور ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جہاں سے اسکو گمان بھی نہیں ہوتا“ اسی لئے پھر کچھ کہتے ہیں کہ جی کسی نے کچھ کر دیا ہے بھی اس چکر میں پڑ گئے تو پھر کبھی نہیں نکلو گے اور عورتوں کو اگر کوئی کہدے کہ لگتا ہے کہ آپ پر کسی نے کچھ کر دیا تو آگے کی اسٹوری بنی بنائی پہلے سے تیار ہوتی ہے، ہاں میری نند نے کچھ کر دیا ہے، ہاں میری دیورانی نے کچھ کیا ہوگا، یہ حالت ہے، بھی اللہ تعالیٰ کی حفاظت ہو تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، یاد رکھنا اللہ تعالیٰ دینا چاہیں ساری دنیا اگر قتل جائے کہ نہ ملے دنیا اس کا راستہ روک نہیں سکتی، اور اگر اللہ تعالیٰ نہ دینا چاہیں تو ساری دنیا قتل جائے کہ بندے کو دیدے دنیا اسے کچھ دے نہیں سکتی، دینا اور لینا پروردگار کا کام ہے، اتنا کمزور یقین اور ایمان کسی نے کچھ کر دیا ہے، چھوٹے چھوٹے خدا بنا لیتے ہیں، پروردگار فرماتے ہیں ﴿وَنَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ﴾ ”انکے درمیان معیشت (رزق) کو ہم نے تقسیم کیا ہے“ اس تقسیم کو کوئی بندہ روک سکتا ہے؟ اتنا کمزور ایمان ہمارا قرآن پر تو اسلئے چکر میں پڑنے کی کوئی ضرورت نہیں نہ کوئی باندھ سکتا ہے نہ کوئی روک سکتا ہے بندوں سے کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں اپنے گناہوں سے ڈرنے کی ضرورت ہے اسکو ہم نے ہی باندھا ہوا ہوتا ہے اپنے گناہوں کے ذریعہ سے وہ گٹھڑی بندھی ہوئی ہوتی ہے وہ گھنڈی گناہ کی کھل جائے تو بس رحمت کے دروازے کھل جائیں گے،

ہم الزام انکو دیتے تھے قصور اپنا نکل آیا

تو یہ گناہوں کی بے برکتی ہوتی ہے گناہوں کے برے اثرات ہوتے ہیں  
بندے کے اوپر۔

## لذت قلبی سے محرومی

☆..... گناہوں کی وجہ سے بندے کو اپنے قلب کے اندر کوئی حلاوت محسوس نہیں ہوتی، گناہ کرے تو برا نہیں لگتا نیکی کرے تو اچھی نہیں لگتی، کوئی کیفیت ہی نہیں پتھر پہ جیسے کوئی اثر ہی نہیں ہوتا پھر کہتے ہیں کہ جی کیا کریں حضرت لوگ روتے ہیں ہمیں رونا ہی نہیں آتا، کیسے رونا آئے گا گناہوں نے آنکھوں کے سوتے اور آنکھوں کے چشمہ کو جو خشک کر دیا ہے، یہ چشمہ خشک ہو چکا، خوف خدا دل میں آئے گا یہ چشمہ دوبارہ ہرا بھرا ہو جائے گا، لہذا نیکی کا نور بھی بندے کے چہرے پر نظر آتا ہے اور گناہوں کی ظلمت بھی بندے کے چہرے پر نظر آتی ہے شرابی آدمی کو آپ دیکھیں آپ اسکے چہرے پر ایک خاص قسم کی تاریکی محسوس کریں گے، زانی کے چہرے پر محسوس کریں گے، جھوٹے کے چہرے پر محسوس کریں گے، ہمیں اللہ نے اگر وہ آنکھیں نہیں دیں تو یہ ہمارا قصور ہے، جو با خدا لوگ ہوتے ہیں وہ شکل دیکھ کر پہچانتے ہیں کہ یہ کس طرح کی زندگی گزار رہا ہے، تو برائی کرنے سے اور گناہ کرنے سے چہرے پر ظلمت اور بدن میں سستی ہوتی ہے، سستی سے کیا مراد؟ دین کا کام کرنے کے بارے میں بوجھل ہوتا ہے بدن اسکا نماز کے لئے بھی اٹھنا چاہے تو نہیں اٹھ پاتا، قرآن مجید میں فرمایا نماز کے بارے میں ﴿وَانْهَالِ الْكِبِيرَةَ الْاَلَا عَلِي الْخَاشَعِينَ﴾ ”سوائے خاشعین کے یہ نماز اپنے پڑھنے والوں پر بھاری ہوتی بوجھ ہوتا ہے“ انکو نماز پڑھنا ایک مصیبت نظر آتی ہے اور جسکے دل میں نور ہوتا ہے اسکو نماز کے بغیر چین نہیں آتا، تو گناہ انسان کے بدن کو بوجھل کر دیتا ہے اور اسکے دل کو سیاہ کر دیتا ہے

نیکی انسان کے چہرے پر نور بنا کر سجادی جاتی ہے اسی لئے نبی ﷺ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ والوں کی پہچان کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں فرمایا ”الذین اذا رنوا ذکر اللہ“ کہ وہ لوگ جن کو دیکھو تمہیں اللہ یاد آئے وہ لوگ اللہ کے ولی ہوتے ہیں، یہاں آپ کبھی فرق کیا کریں اللہ والوں کے چہرے کو بھی دیکھا کریں، ان کے چہرے پر آپ کو بہاری تازگی نظر آئے گی اور یہ جو پوپ اشارہ ہوتے ہیں اردو میں پاپ گناہ کو کہتے ہیں گناہوں کے اشار تو یہ بیچارے پاپ اشارہ ہوتے ہیں انکے چہرے کو دیکھیں تو بکھرے ہوئے بال اور چہرہ ایسے خچرا ہوا کہ جیسے کسی نے اور آم کو نچوڑ کر اس کا رس نکال لیا ہو تو جو باقی بچا ہوتا ہے بے چاروں کا چہرہ ہوتا ہے، ظلمت آپ خود محسوس کر سکتے ہیں انکے چہروں پر حضرت اقدس کشمیریؒ کے ہاتھ پر چند ہندوؤں نے اسلام قبول کیا دو سرے ہندوؤں نے کہا تم نے یہ کیا کیا مسلمان بن گئے تو انہوں نے حضرت کشمیریؒ کے چہرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس چہرے کو دیکھو یہ چہرہ ہمیں کسی جھوٹے انسان کا نظر نہیں آتا تو اللہ والوں کے چہرے بتاتے ہیں کہ یہ جھوٹوں کے چہرے نہیں ہیں۔

### صلاح الدین ایوبیؒ

کہتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی صلیبی جنگوں میں مشغول تھے اطلاع ملی کہ دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے کمک آ رہی ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو بڑی فکر ہوئی کہ مسلمانوں کی تعداد پہلے تھوڑی ہے اب اوپر سے اگر دشمنوں کا بحری بیڑا آ گیا تو مسلمانوں کے لئے مشکل بنے گی، بیت المقدس میں پہنچے ساری رات اللہ کے حضور مناجات میں گزاری رکوع و سجدے میں گزاری فجر ہو گئی فجر پڑھ کر نکلے گھر جانے کے لئے، تو مسجد کے دروازے پر کسی اللہ والے سے ملاقات ہوئی اسکا چہرہ پر نور تھا دیکھ کر دل میں سرور آ گیا دل نے

گواہی دی کہ یہ بھی کوئی مسیحا نظر آ رہا ہے تو صلاح الدین قریب ہوئے اور قریب ہو کر ان سے کہا کہ حضرت دعا کیجئے دشمن کا بحری بیڑا آ رہا ہے، وہ بھی کوئی باخدا بندے تھے وہ بھی مادے کے پار دیکھنا جانتے تھے بصیرت نصیب تھی انکو انہوں نے صلاح الدین کے چہرے کو دیکھا پتہ چل گیا کہ اسکی رات کیسے گزری فرمانے لگے صلاح الدین ایوبی تیرے رات کے آنسوؤں نے دشمن کے بحری بیڑے کو ڈبو دیا ہے اور واقعی تیسرے دن اطلاع ملی دشمن کا بحری بیڑا سمندر میں ڈوب چکا تھا تو اللہ والوں کے چہرے پر ایک نور ہوتا ہے۔

عبداللہ ابن سلام ؓ یہودیوں کے عالم تھے یہودیوں نے بھیجا تھا سوال پوچھنے کے لئے جن کرسوال پوچھ کر آؤ جب آکر نبی ﷺ کا چہرہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے دوسروں نے کہا جی بھیجا کس لئے تھا اور کر کیا دیا، کہنے لگے میں نے اس محبوب کا چہرہ دیکھا وہ چہرہ کسی جھوٹے کا نظر نہیں آتا تھا۔

## قلب و جسم کی کمزوری

☆..... گناہوں کا ایک اثر یہ کہ گناہ کرنے سے بندے کا بدن اور دل اندر سے کمزور ہو جاتے ہیں، دیکھنے میں آپ کو بڑے نظر آئیں گے، اندر بزدلی ہوگی، گناہوں کی وجہ سے بہادری ان سے چھین لی جائے گی اندر خوف ہوتا ہے انکے دل میں تو امور خیر میں انکی ہمت گھٹ جاتی ہے دل میں انکے رعب اور وہن آ جاتا ہے، وہن سستی کو کہتے ہیں دل مرعوب ہو جاتے ہیں۔

## طاعت سے محرومی

☆..... گناہوں کا ایک اثر یہ ہوتا ہے گناہ کرنے والا بندہ طاعت سے محروم ہو جاتا ہے یعنی آج ایک گناہ کیا ایک نیکی سے محروم ہوا، کل دوسری نیکی سے پرسوں تیسری نیکی سے، پہلے جماعت میں جاتا تھا وقت لگاتا تھا آہستہ آہستہ چلا چھوٹا پھر سہ روزہ چھوٹا پھر شب جمعہ چھوٹی اور پھر ظاہری سنت بھی

چھوٹی تب جا کر پتہ چلتا ہے کہ گناہوں کا اثر کیا نکلتا ہے، ذکر اذکار کرنے والا ہے تو سب سے پہلے شیخ سے رابطہ چھوٹا، معمولات چھوٹے، تہجد چھوٹی پھر آہستہ آہستہ ظاہر بھی سب کچھ چھوٹ جاتا ہے تو طاعات سے انسان وقت کے ساتھ ساتھ محروم ہوتا چلا جاتا ہے، ایک ایک کر کے محروم ہو جاتا ہے اور ایک حدیث پاک میں ہے کہ گناہ کرنے سے انسان کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے، جیسے حدیث پاک میں ہے کہ زنا کرنے والے بندے کی عمر کو گھٹا دیا جاتا ہے اسکے علماء نے دو معافی لکھے ہیں

(۱) کبھی تو اللہ تعالیٰ مقدار میں عمر گھٹا دیتے ہیں کہ اگر نیکی کرتا تو عمر نوے سال ہوتی اب اپنے ہاتھوں سے جوانی تباہ کی تو اب ستر سال میں ہی چلا گیا تو ظاہر میں بھی عمر گھٹا دیتے ہیں چونکہ یہ عمر اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں مگر بعض اوقات مشروط ہوتی ہے جیسے حدیث پاک میں آتا ہے صدقہ سے عمر بڑھادی جاتی ہے اور گناہوں سے عمر گھٹادی جاتی ہے۔

(۲) اور دوسرا اس کا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مقدار اگر نہ بھی گھٹائیں تو جو اسمیں فیکٹیو لائف ہے بندے کی وہ بندے کی گھٹا دیتے ہیں مثلاً چالیس سال میں ہی ہارٹ ایک ہونا شروع ہوتا ہے چالیس سال میں ہی بلڈ پریشر ہو گیا، چالیس سال میں ہی شکر ہو گئی چالیس سال میں ہی السر ہو گیا نہ کھا سکتا ہے نہ کچھ کر سکتا ہے نہ کہیں جانے کا زندگی ہی کیا زندگی دوسروں کی محتاجی پڑ گئی تو عمر تو ستر ہی سال رہی جو بھی اسکی مگر اس میں سے جو فیکٹیو عمر تھی پڑ گئی تو عمر تھی اللہ اسکو گھٹا دیتا ہے اور نیکی کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اگر ستر سال اسنے رہنا ہے یا نوے سال رہنا ہے اللہ زندگے کے پورے اسیس تک ان نعمتوں کو محفوظ رکھے گا۔

## ایک نیک بندے کی صحت

ہمارے حضرت مرشد عالم تو نوے سال عمر تھی اور انکو شوگر کی بیماری بھی تھی

ایک مرتبہ انہوں نے ہمارے سامنے افطار کیا اور افطاری کے بعد وہیں پر عشاء کی نماز ہو گئی اس کے بعد تراویح شروع ہو گئی تراویح میں قراء آئے ہوئے تھے مختلف جگہوں سے انہوں نے پڑھنا تھا تو حضرت بھی کھڑے ہو گئے پیچھے، سحری کا وقت ہو گیا سحری کا وقت ہوا تو ہم حیران کہ حضرت نے وضو ہی تازہ نہیں کیا نوے سال کی عمر شکر کا مریض اور مغرب سے لیکر سحری کا وقت ہو گیا اب ان لوگوں نے سحری کا انتظام مسجد میں ہی کیا ہوا تھا تو حضرت نے مسجد میں ہی وہیں سحری کھالی اب سحری کے بعد جوان بندے کو بھی وضو کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ذرا قریب حاضر ہوئے حضرت آپ وضو تازہ فرمائیں گے فرمانے لگے کیوں میرا وضو کوئی کچا دھاگا ہے، اللہ اکبر حیران ہو گئے حضرت نے اسی وضو کے ساتھ پھر فجر کی نماز پڑھائی اور فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اسی وضو کے ساتھ بیٹھ کر درس قرآن دیا اور اسی وضو کے ساتھ اشراق کی نماز پڑھی حیران ہیں ہم آج تک اس کرامت کو دیکھ کر کہ افطاری کے وضو سے اشراق کی نماز پڑھی اور پھر کمرے میں تشریف لا کر وضو کی تیاری فرمائی نوے سال کی عمر میں بھی انکے دانت بالکل ٹھیک تھے ایک دانت گرا ہوا نہیں تھا سارے دانت ٹھیک تھے میں ایک مرتبہ ذرا نرم سی روٹی ڈھونڈنے لگا پوچھنے لگے کیا کر رہے ہو میں نے کہا جی نرم روٹی ڈھونڈ رہا ہوں فرمایا کیوں میرے دانت نہیں ہیں؟ مجھے سخت نکال کر دو میں نے تنور کی بنی ہوئی سخت روٹی نکال کر دی حضرت نے اسکو کھایا جب خط پڑھتے تھے، نوے سال کی عمر میں تو اس وقت عینک اتار کر خط پڑھتے تھے ہم کہتے تھے حضرت لوگ پڑھنے کے لئے عینک لگاتے ہیں آپ پڑھنے کے لئے عینک اتارتے ہیں فرماتے ہیں یہ دور کی عینک ہے قریب کی عینک نہیں ہے اللہ اکبر تو نوے سال میں کوئی کوئی نے میں بیٹھ کے کھسر پسر کرتے تو حضرت سن لیا کرتے تھے سماعت ٹھیک تھی بصارت ٹھیک تھی دانت ٹھیک تھے وضو کا یہ حال تھا اور صحت ایسی تھی ہم لوگ انکے سامنے

چوزے نظر آتے تھے ایسے کبھی ہمارے کندھے پر ہاتھ رکھ دیتے تو ہم دوہرے ہوئے چلے جاتے تھے، ہمیں کہتے تھے چوزے کہیں کے اب بتاؤ یہ کیا چیز تھی۔

## مرشد عالم اور عیسائی

ایک دفعہ پوچھ لیا حضرت! یہ آپ کی سی صحت تو ہم نے اور کہیں نہیں دیکھی فرمانے لگے ہاں ایک مرتبہ ایک عیسائی تھا اس نے لوگوں کو ورغلا نا شروع کیا تو میں نے کہا کہ میں اس سے مناظرہ کرتا ہوں میں قرآن لیکر پہنچ گیا وہ پہلوان تھا اس نے شادی بھی نہیں کی ہوئی تھی تو اس نے جب ملاقات کے لئے ہاتھ میں ہاتھ لیا تو میرے ہاتھ کو ہلانے کی کوشش کی اور میں نے اس کو وہیں پر جام کر لیا تو ہاتھ ہل ہی نہ سکا جب ہاتھ ہی نہ ہل سکا تو وہ پیچھے ہٹ کر بیٹھ گیا کہنے لگا کہ جی مناظرہ تو بعد میں کریں گے یہ بتائیں کہ آپ کون سے کشتے کھاتے ہیں کہ اتنی اچھی صحت ہے، میں نے کہا دال ساگ کھاتا ہوں اس نے کہا نہیں میں پہلوان ہوں میں روزانہ اتنا دودھ پیتا ہوں اتنا مکھن استعمال کرتا ہوں اتنا گوشت کھاتا ہوں اور اس پہاڑ پر اتنی دفعہ چڑھتا اترتا ہوں اتنی ورزش کرتا ہوں پھر جا کر میری ایسی صحت ہے اور میں آپ کے ہاتھ کو ہلا ہی نہ سکا، میں نے شادی بھی نہیں کی اپنی جوانی کو بحال رکھنے کے لئے تو آپ میں یہ طاقت کیسے آئی؟

حضرت فرمانے لگے بھئی میں تو دال ساگ کھاتا ہوں اور میری تیسری شادی ہے پھر میں نے اسے بتایا کہ میرے اندر دو خوبی ہیں ایک میں نے لوہے کا لنگوٹ باندھا کبھی کوئی جوانی سے متعلقہ گناہ نہیں کیا، (لوہے کا لنگوٹ سمجھتے ہیں نا جیسے انڈر ویر کپڑے کا پہنتے ہیں تو لوہے کا انڈر ویر پہننا یعنی کوئی بھی جنسی گناہ نہ کرنا)، تو فرمانے لگے کہ میں نے اسے کہا کہ دیکھو ایک تو میں نے لوہے کا لنگوٹ باندھا اور دوسری میری تہجد کی نماز کبھی قضا نہیں ہوئی ان

دو عملوں کی وجہ سے اللہ نے مجھے یہ جسمانی صحت عطا فرمائی پھر بات لمبی ہوتی گئی تو بعد میں فرمانے لگے کہ وجہ یہ بھی تھی کہ ایک مرتبہ مجھے لیلۃ القدر نصیب ہوئی یہ راز کی بات ذرا بعد میں بتانے لگے کہ مجھے لیلۃ القدر مل گئی میں نے لیلۃ القدر میں عمر میں برکت کی دعا مانگی۔

تو اللہ تعالیٰ کبھی عمر میں برکت کی وجہ سے ٹائم اسپیس بڑھا دیتے ہیں اور کبھی عمر میں برکت کی وجہ سے جتنی زندگی ہوتی ہے وہ تو اتنی ہی رہتی ہے مگر اللہ تعالیٰ جوانی کی صحت کو آخری عمر تک بقاء عطا فرما دیتے ہیں تو گناہوں کی وجہ سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے یا عمر کا پڑیٹیو حصہ فیکٹیو حصہ کم ہو جاتا ہے دوسروں کی محتاجی ہوتی ہے آخری عمر میں آکر اور نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آخری عمر تک غیر کی محتاجی سے محفوظ فرما دیتے ہیں۔

## گناہوں کا تسلسل

☆..... ایک اثر یہ بھی ہے گناہوں کا کہ ایک گناہ کی وجہ سے دوسرے گناہ کا دروازہ کھلتا ہے، بندہ سمجھتا ہے بس میں ایک دفعہ یہ کام کر لوں پھر نہیں کروں گا وہ ایک دفعہ کام کرنا اگلے گناہ کا دروازہ کھول دیتا ہے، دوست نے کہا چلو بھئی ایک دفعہ یہ گناہ کرتے ہیں اس نے ایسی بری عورت کا تعارف کروا دیا اب گناہوں کا دروازہ ہی کھل گیا، کسی سے ناجائز تعلقات ہو گئے اب جھوٹ کا دروازہ ہی کھل گیا، باپ کے سامنے جھوٹ تو امی کے سامنے بھی جھوٹ، بھائی کے سامنے بھی جھوٹ ہر ایک کے سامنے جھوٹ ہر وقت جھوٹ اور پھر اتنے جھوٹوں کو چھپانے کے لئے مزید جھوٹ، نتیجہ کیا نکلتا ہے روایت میں آتا ہے بندہ اتنا جھوٹ بولتا ہے اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیدیتے ہیں کہ اس بندے کا کذاب (جھوٹے) لوگوں کے دفتر میں نام لکھ دیا جائے۔

## توبہ کی توفیق کا چھن جانا

☆..... گناہ کا ایک اسکا اثر یہ ہوتا ہے کہ توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے



توبہ کی توفیق چھین لی جاتی ہے آج کل کرتا رہتا ہے ہاں میں توبہ کروں گا توبہ کروں گا توبہ کی توفیق نہیں ملتی، کرنہیں پاتا تو اگر کسی بندے کو توبہ کی توفیق مل جائے تو یہ بھی اللہ کی عنایت سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے توبہ کو ماننا نہیں چاہئے اسلئے ایک بزرگ لکھتے ہیں اکمال الشیم میں کہ ”اے دوست تیرا توبہ کی امید پر گناہ کرتے رہنا اور زندگی کی امید پر توبہ کو مؤخر کرتے رہنا تیرا عقل کا چراغ گل ہونے کی دلیل ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تیری عقل کا چراغ گل ہو چکا۔“

### گناہ کو کچھ نہ سمجھنا

☆..... اور ایک گناہ کا اثر یہ ہوتا ہے کہ گناہ کی برائی کا احساس دل سے نکل جاتا ہے ایک ہوتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے اور گناہ کی برائی محسوس کرتا ہے وہ جو برائی کا احساس ہے نا جو گناہ سے نفرت ہے وہ نکال لی جاتی ہے، گناہ گناہ نظر ہی نہیں آتا جیسے جو لوگ فحش کلامی کرتے ہیں گالیاں نکالتے ہیں ماں بہن کی انکو برا ہی نہیں لگتا عجیب بات ہے کہ یہ احساس اتنا ختم ہو جاتا ہے کہ بندہ پھر اپنے گناہوں کو فخریہ انداز میں لوگوں کو بتاتا ہے، گناہ بھی کیا بتایا بھی بڑا سارٹ بن رہا ہوتا ہے، دیکھو جی میں نے اسکو بے وقوف بنایا وہ بے وقوف نہیں اس کو دھوکہ دیا اپنا دھوکہ بتا رہا ہے خدا اچھپاتا ہے اور یہ اپنے عیسوں کو کھولتا ہے، حتیٰ کے جب گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے تو کئی مرتبہ اسکی زبان سے کلمات کفر کا بھی صدور ہو جاتا ہے اور ایمان سلب ہو جاتا ہے، اسلئے ایک بزرگ فرماتے تھے کہ تم گناہ سے ڈرتے ہو میں ایمان کے سلب ہونے سے ڈرتا ہوں، تو آہستہ آہستہ بندے کا ایمان ہی سلب ہو جاتا ہے،

اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے محفوظ فرمائے اور ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

## گناہ گناہ گاروں کی میراث

☆..... ایک یہ بھی ہے کہ گناہ کرنا دشمنانِ خدا کے ساتھ مشابہت ہے جن کو اللہ نے اپنا دشمن فرمایا ہر گناہ کسی نہ کسی دشمنِ خدا کی میراث ہے مثلاً تکبر قومِ عاد کی میراث ہے، ناپ تول میں کمی کرنا قومِ شعیب کی میراث ہے، لوطی عمل قومِ لوط کی میراث ہے اور اسی پر قیاس کر لیجئے ہر نافرمانی کسی نہ کسی دشمنِ خدا کی میراث ہے اسلئے جو بندہ گناہ کر رہا ہوتا ہے وہ کسی نہ کسی دشمنِ خدا کے ساتھ مشابہت کر رہا ہوتا ہے اور ہمیں منع کیا گیا دشمنانِ خدا کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹی بھی مشابہت اختیار نہ کریں، فرمایا [من تشبه بقوم فهو منهم] جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں میں سے ہے۔

## ایک واقعہ

انڈیا کا واقعہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑے میاں جا رہے تھے ہندوؤں کا ہولی کا دن تھا انکی وفات ہو گئی تھی تو انکو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا بنا؟ کہنے لگے میری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا انہوں نے پوچھا وجہ کیا بنی؟ تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا کہ ہولی کا دن تھا اور میں پان کھاتا ہوا جا رہا تھا مجھے تھوک پھینکنے کی ضرورت تھی تو سامنے گدھا تھا ایسے ہی پتہ نہیں کیا دل میں آیا میں نے وہ تھوک پان والی گدھے پر ڈالی اور کہا اے گدھے تجھے رنگنے والا کوئی نہیں تھا پتہ نہیں میرے دل میں کیا فطور آیا کہ میں نے بھی تھوک اس گدھے پر پھینکی اور کہا کہ تجھے رنگنے والا کوئی نہیں کہنے لگے اس بات پر مجھ سے سوال کیا گیا کہ تم نے دشمنوں کے ساتھ جو یہ مشابہت اختیار کی اس وجہ سے تمہاری قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا اتنی سی بھی مشابہت پروردگار پسند نہیں کرتے اور آج تو مسلمانوں کے بچے لباس میں، طعام میں، قیام میں، رفتار میں کردار میں ہر چیز میں فرنگیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں ﴿انکم اذا مثلہم﴾ فرمایا تم ایسا کرو گے تم انہیں

میں سے ہوں گے اسکا اثر موت کے وقت ظاہر ہوتا ہے، یہ جو فرمایا گیا نا کہ وہ انہیں میں سے ہوگا، اسکا مطلب کیا ہوتا ہے کہ زندگی بھر اسکا نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے، جب مرنے لگتا ہے تب اس کو ایمان سے محروم کر دیا جاتا ہے تو ایمان سے محرومی ہوتی ہے اگر دشمنان خدا کے ساتھ مشابہت اختیار کی اس سے بہت بچنا چاہئے، جب دل ایک ہوتے ہیں تب لباس ایک ہوتے ہیں، لباس ایک ہونے سے پہلے دل ایک ہو چکے ہوتے ہیں، یہ اندر کا ایک روگ ہوتا جو پھر فرنگیوں کے لباس اچھے لگتے ہیں، اس مشابہت سے بچنا چاہئے جتنا بھی بچ سکیں۔

## اللہ کے یہاں بے عزت

☆..... گناہوں کا اثر یہ بھی ہے کہ انسان اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جاتا ہے، کتنی بڑی ہے یہ سزا ہے کہ شہنشاہ حقیقی کی نگاہوں سے بندہ گر جائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ﴿وَمَنْ يَهِنِ اللَّهُ وَمَالَهُ مِنْ مَكْرَمٍ﴾ جسے ہم ذلیل کرنے پر آتے ہیں اسے پھر عزت دینے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، اللہ رب العزت کی پکڑ بہت بڑی اور بہت بری ہوتی ہے۔

## ایک سچا واقعہ

ایک صاحب تھے گورمیٹ آفسر، رشوت کا پیسہ خوب لیتے تھے اور قدرتا انہوں نے کونھی ایسی جگہ لی جہاں مسجد بالکل ساتھ تھی، صبح کے وقت مسجد میں اذان ہوئی، وہ شرابی کبابی بندہ اسکی آنکھ کھل گئی اسکو بڑا غصہ آیا اس نے مؤذن کو اگلے دن بلا کر کہا کہ فجر میں میری نیند میں خلل ہوتا ہے اذان اسپیکر میں مت دیا کرو، اس نے آکر نمازیوں کو بتایا، نمازیوں نے کہا یہ کون نئے صاحب آگئے بھی، تمہاری نیند میں خلل آتا ہے تم جاؤ جہاں تمہارا دل چاہے کیوں مسجد کے ساتھ گھر لیا، بوڑھوں نے کہا ہم تو انتظار میں ہوتے ہیں ہماری نظر کمزور ہم گھڑیوں کے وقت دیکھ نہیں سکتے اذانیں سن کر ہم مسجد میں آتے ہیں مسلمانوں

کی آبادی ہے، تم میاں اذان دو، اس مؤذن نے اگلے دن پھر اذان دی اسکی آنکھ کھلی اسکو غصہ آیا اسی وقت مسجد میں آکر اس نے مؤذن کے دو تھپڑ لگا دئے، بس اللہ تعالیٰ کی اس پر پکڑ آگئی، ہوا یہ کہ اسکے آدھے دھڑ پر فالج ہوا، اور دونوں ہاتھ اسکے سینے کے ساتھ لگ گئے، بیکار، اب جب دفتر کے کام کا نہ رہا تو اگلوں نے چھٹی کرا کے گھر بٹھادیا، چھٹی ہوگئی علاج پر بھی پیسہ خوب لگ رہا تھا، اسکی چوں کہ افسرانہ طبیعت تھی حاکمانہ طبیعت تھی تو گھر میں بھی ڈانٹ ڈپٹ ذرا ذرا سی بات پر کرتا، کبھی نوکروں کو ڈانٹ رہا ہے کبھی بچوں کو ڈانٹ رہا ہے کبھی بیوی کو ڈانٹ رہا ہے، ایک دفعہ کی ڈانٹ تو برداشت کر لیتے ہیں، مگر روز روز کی ڈانٹ ڈپٹ تو برداشت نہیں ہوتی، بچوں نے ماں سے کہا یہ کیا مصیبت ہے ہمارے لئے یہ تو لگتا ہے کوئی تھانیدار آگیا گھر میں، بیوی نے کچھ کہا بیوی کو ڈانٹ نے لگا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ روز بیوی کو ڈانٹ پڑتی روز گندی گالیاں زبان سے نکلتیں کچھ دن تو وہ برداشت کرتی رہی کچھ دن کے بعد اس نے اپنے بچوں کو لیا کہنے لگی میں میکے جا رہی ہوں تو جانے تیرا کام جانے، وہ اسی بیمار حالت میں چھوڑ کر چلی گئی اس نے بھائی کو فون کیا کہ بیوی مجھ سے بے وفائی کر گئی، تم آؤ میری خدمت کرو، خیر بھائی آیا وہ اسے گھر لے گیا مگر طبیعت تو ہر جگہ ایک ہی ہوتی ہے، اب اسکے بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ اسکی بیوی کو کچھ کہہ دیتا، اب جب انکے گھر میں یہ ہونے لگا تو بچوں نے باپ سے کہا کہ ابو یہ کیا مصیبت آگئی ایک دن بھائی نے اسے سمجھایا کہ بھائی تم کیوں لوگوں کے ساتھ ایسی بری زبان استعمال کرتے ہو، وہ اس کو بھی ڈانٹنے لگ گیا تو زن مرید بن گیا ہے، اور یہ اور وہ، اب بچوں نے دیکھا کہ ہمارے ابو کو بھی ڈانٹ رہا ہے، تو انہوں نے پلان بنایا، جوان بچے تھے انہوں نے اگلے دن صبح اٹھا کر چار پانی سے اسکو باہر لا کر سڑک پر ڈال دیا اس دوران ہوا کیا تھا؟ کہ اس کے نچلے والے دھڑ کے اوپر فالج بھی ہوا اور دونوں ٹانگیں بھی سینے کے ساتھ لگ گئیں اب زندہ

☆..... ایک نقصان گناہوں کا یہ ہے کہ انسان کی عقل میں فساد آجاتا ہے، عقل ٹھیک نہیں رہتی بندہ صحیح فیصلہ نہیں کر پاتا، حج میٹ اسکی ٹھیک

نہیں ہوتی، جو چیز اسکے لئے نقصان دہ ہوتی ہے وہی وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے عقل میں فطور آ جاتا ہے، فطرت کے خلاف سوچتا ہے، اب تباؤ کچھ عورتوں کو پردہ برا لگتا ہے

چنانچہ ایک مرتبہ ہمارے ملک کی اسمبلی میں ایک ایسی عورت پہنچ گئی تھی، وہاں ایک عالم تھے اور ان عالم کو بہت اس نے تنگ کیا ہوا تھا ذرا سی کوئی بات ہوتی تو بس ان پر وہ تنقید کرتی تھی، انکو کہتی تھی پردہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اور وہ کیا ہے وہ بڑے عالم تھے متقی تھے پرہیزگار تھے، اس سے بڑے تنگ تھے جتنا اس سے وہ بچنے کی کوشش کرتے اتنا جان بوجھ کر خود تنگ کرتی تھی ایسا لگتا ہے دہریہ ذہن کی تھی شاید کئی مرتبہ ایسا ہوتا کہ وہ مولانا کھڑے ہوتے لوگوں سے بات کر رہے ہوتے اور یہ گزر رہی ہوتی تو جان بوجھ کر کہتی السلام علیکم مولانا، ہاتھ بڑھاتی اور وہ فخر سمجھتی تھی اسکو خیر مولانا بھی پھر منطق پڑھے ہوئے تھے تنگ آ کر ایک دن کھڑے تھے بات کر رہے تھے تو یہ کہیں سے وہاں آٹھکی تو اس نے پھر مصافحہ کے لئے ہاتھ بڑھایا السلام علیکم، مولانا کہنے لگے بیگم تو آئیے آج پھر معافتہ کرنے کو دل کرتا ہے، اب سکر بھاگی، تو عقل ٹھیک نہیں رہتی انسان فیصلے کیسے کرتا ہے، جو فطرت کے خلاف ہوتے ہیں اب بتائیے مرد کی مرد سے شادی کوئی عقل میں آنے والی بات ہے عقل کا فطور ہے۔

### مور و لعنت

☆..... ایک اثر اسکا یہ ہوتا ہے کہ انسان دوسری مخلوقات کی لعنت کا مورد بن جاتا ہے مخلوقات اس پر لعنت کرتی ہیں اسکی وجہ یہ کہ گناہوں کی وجہ سے رحمتیں اور برکتیں رکتیں ہیں بارشیں رکتی ہیں رزق میں کمی آتی ہے قحط آ جاتا ہے تو مخلوق خدا پر بھی اسکا اثر پڑتا ہے لہذا دوسری مخلوق بھی اللہ کی نافرمانی کرنے والے بندے پر لعنت کرتی ہیں کہ تمہاری نافرمانیوں کی وجہ سے ہم بھی پیاسے مر رہے ہیں اللہ۔

## لعنت کن لوگوں پر

☆..... اور ایک گناہوں کا اثر یہ کہ انسان رسول ﷺ کی لعنت کا مستحق بن جاتا ہے نبی ﷺ نے بعض گناہ کرنے والوں پر حدیث پاک میں لعنت فرمائی ہے مثلاً:

..... جو عورت غیر عورت کے بالوں کو اپنے بالوں میں ملا کر لمبا کرے، اس طرح کا فیشن کرے کہ شوپس بن جائے تو نبی ﷺ نے حدیث پاک میں ایسی عورت کے اوپر لعنت فرمائی ہے،

..... حدیث پاک میں نبی ﷺ نے سود لینے والے پر دینے والے پر لکھنے والے پر گواہ بننے والے پر ان سب کے اوپر لعنت فرمائی ہے سود کی اتنی بے برکتی ہوتی ہے کہ بتائیں سکتے ہیں نے اپنی زندگی میں کم از کم درجنوں لوگوں کو سود کی وجہ سے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے، سود سے جو جتنا بچے گا اتنا ہی وہ دنیا کے اندر خوشیاں بھری زندگی گزارے گا قرآن مجید میں ہے کہ اگر کوئی بندہ سود لینا بند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ ”اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے لئے تیار ہو جاؤ“ اب بتاؤ جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرے گا تو پھر کیا بنے گا؟ اسلئے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ اگر کسی بندے کا سود بنتا بھی ہو تو وہ اسکو لے کر کہیں لیٹرین بنی ہیں وہاں لگا دے اور اس پر اجر کا دل میں ارادہ بھی نہ کرے یہ بھی نہ سوچے کہ مجھے اجر ملے گا نہیں یہ تو مصیبت سے جان چھڑا رہا ہوں۔

..... اسی طرح بلا وجہ تصویر بنانے والے پر اللہ کے محبوب نے لعنت فرمائی یہ جو تفریحاً تصویر بناتے ہیں نایہ شریعت میں ناجائز ہے ایک ہے شناختی کارڈ کے لئے تصویر بنانا علماء نے اسکو مجبوری کہا ہے پاسپورٹ بنانا ہے کارڈ بنانا ہے ملکوں کے سفر ہیں حج عمرے کا سفر ہے تو یہ وقت کی مجبوری ہے، لیکن شادی بیاہ

کے فوٹو بنوانے یا عورت مرد کے تفریحی تصویریں بنوانا حرام ہے اور جس گھر میں تصویریں ہوں اس میں اللہ کی رحمت کا فرشتہ نہیں آتا۔

..... اسی طرح جو مشروط حلالہ کرے یعنی نکاح سے پہلے نیت ہو یا پہلے سے ہی طے ہو جائے کہ نکاح کر لیتے ہیں اتنے دنوں بعد میں طلاق دے دوں گا۔

..... اور ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جو مسلمان پرلوہے کے ساتھ اشارہ کرے حملہ کا اشارہ چاقو کا اشارہ تیر کا اشارہ بندوق کا اشارہ صرف اشارہ کرنے والے پر بھی اللہ کے محبوب نے لعنت فرمائی ہے اشارہ کرنے والے پر بھی اور اگر مسلمان کو زخم پہنچائے یا قتل کر دے اللہ اکبر جتنا ناراضگی کا اظہار اللہ رب العزت نے اس گناہ پر کیا اتنا ناراضگی کا اظہار کسی گناہ پر نہیں کیا اب دیکھئے ﴿وَمَن يَقتُلْ مُؤمِنًا مَّعْمَدًا فَجَزَاءُ ۖ هٖ جَهَنَّمُ ۚ﴾ جس نے جان بوجھ کر مؤمن کو قتل کر دیا اسکی سزا جہنم ہے اتنی بات کر دی جاتی تو بہت تھا کہ جہنم میں پہنچ گیا نہیں ﴿خَالِدًا فِيہَا﴾ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اب بھی اتنا ہی کہہ دیا جاتا تو بہت بھی تھا ﴿وَعُذِّبَ اللہُ عَلَیْہِ﴾ اس پر اللہ کا غضب ہوگا اور اتنا ہی کہہ دیا جاتا تو بھی بہت تھا نہیں ﴿وَلَعَنَہُ﴾ اور اللہ کی لعنتیں ہونگی ﴿وَوَاعَدُہُم عَذَابًا لِّیَمَّا﴾ اتنے اللہ رب العزت نے غصہ کا اظہار کسی گناہ پر نہیں فرمایا اور آج اسکو معمولی بات سمجھتے ہیں محفل میں بیٹھے ہوئے بات کرتے ہوئے جیب سے کوئی چیز نکال کر رکھ دیتے ہیں، یہ مؤن کی طرف اشارہ کرنے کے مترادف ہے۔

نبی ﷺ نے لعنت فرمائی شراب پینے والے پر پلانے والے پر نچوٹانے والے پر بیچنے والے پر خریدنے والے پر اور لاد کر ایک جگہ سے دوسری جگہ بیچانے والے پر یہ ام الخبائث ہے یہ ایک گناہ نہیں ہوتی یہ گناہوں کا دروازہ کھول دیتی ہے جو لوگ سنہرے میں نہیں ڈوبتے وہ بوتل میں ڈوب جاتے ہیں بہت بری عادت ہے اور اکثر یہ برے دوستوں سے پڑتی ہے اور ایک دفعہ ٹیسٹ کر داتے ہیں ٹیسٹ تو کرو اور اسی میں بندے کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے، اسی



لئے لیلۃ القدر میں بڑے بڑے گناہوں کی مغفرت ہو جاتی ہے، شراب پینے والا جب تک توبہ نہ کرے اللہ رب العزت اسکی مغفرت نہیں فرماتے، نشہ آور باقی چیزیں وہ بھی اسی پر قیاس کر لینی چاہئیں کیوں کہ آج کے دور میں فقط شراب کا نشہ ہی نہیں بہت سی چیزوں کا نشہ آ گیا ہے۔

..... نبی ﷺ نے چور پر لعنت فرمائی ہے اپنے والد کو برا بھلا کہنے والے پر غصہ میں باپ کو گالیاں نکالنے والے پر لعنت فرمائی ہے، بے مقصد جاندار کو مارنا ایک تو ہوتا ہے کسی مقصد کی وجہ سے شکار کیا یہ جائز ہے لیکن بے مقصد مارنا کسی جاندار کو نبی ﷺ نے لعنت فرمائی غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرنے والے پر اللہ کے محبوب نے لعنت فرمائی، وہ مرد جو عورتوں کی مشابہت کریں اور وہ عورتیں جو مردوں کی مشابہت کریں اللہ کے محبوب نے ان پر بھی لعنت فرمائی جو شخص دین میں کوئی نئی بات نکالے بدعت کوئی پیدا کرے اس کا ذریعہ بنے اللہ کے محبوب نے اس بندے پر بھی لعنت فرمائی جو شخص بیوی کے ساتھ غیر فطری عمل کرے اللہ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فرمائی جو لو طی عمل کرے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے جو جانور سے جماع کرے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے جو انسان مسلمان کو دھوکہ دے اللہ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے اور ایک بڑی اہم بات کہ جو شخص بیوی کو خاوند کے خلاف بھڑکائے یا غلام کو آقا کے خلاف بھڑکائے اللہ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فرمائی ہے اور اس میں بڑے بڑے شریف شامل ہیں ہو جاتے ہیں وہ کیسے کہ داماد پسند نہیں آیا بیٹی رہنا بھی چاہتی ہے نا تو باپ سمجھائے گا چھوڑ دو، ماں سمجھائے گی چھوڑ دو، بہن سمجھائے گی چھوڑ دو، یہ سب اسی حدیث میں شامل ہیں جب بیوی رہنا چاہتی ہے کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ اس بیوی کو اپنے خاوند سے دور کرنے کی کوشش کرے اور یہ گناہ بہت عام ہے آج کل سیلی کے حالات سننے ذرا طبیعت کے مطابق نہیں تھے اس کو مشورہ دیا تم کچھ اور سوچو

بھائی کی طبیعت بہنوئی کے ساتھ نہیں ملتی، بہن کے سامنے آ کر اسکے خاوند کی ایسی برائیاں کہیں کہ بہن کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، کوئی بندہ جو ایسی بات کرے گا جس سے دو میاں بیوی کے درمیان فاصلہ آ جائے اس پر اللہ تعالیٰ کے محبوب کی لعنت ہوتی ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے کہ اسکو گناہ ہی نہیں سمجھا جاتا، یا دررکھیں میاں بیوی کو مل کر رہنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسندیدہ ہے کہ دیکھنے میں جھوٹ کبیرہ گناہ ہے مگر اللہ رب العزت نے میاں بیوی کے ملاپ کی خاطر اپنے اس حق کو بھی معاف کر دیا فرمایا جو ناراض میاں بیوی میں صلح کروانے کے لئے اگر کوئی جھوٹ کی بات بھی کر دے گا میں پروردگار اس جھوٹ کو بھی معاف کر دوں گا، تو میاں بیوی کامل کر رہنا اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے کہ پروردگار نے اپنا حق معاف کر دیا، ہم کون ہوتے ہیں میاں بیوی کے درمیان فاصلہ کرنے والے، اسی طرح جو عورتیں قبر و پر جائیں سجدہ کریں چراغ جلائیں رسومات کریں اللہ تعالیٰ کے محبوب بنے ان عورتوں پر بھی لعنت فرمائی ہے اسی طرح جو بیوی اپنے خاوند سے ناراض ہو کر الگ سوئے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ کے فرشتے اس وقت تک لعنت کرتے رہتے ہیں جب تک وہ خاوند کے پاس نہ آ جاتی، اب آج کل کی عورتوں کو مسائل کا پتہ نہیں ہوتا یہ میاں بیوی کے معاملے کو ٹیکس کے طور پر استعمال کرتی ہیں مرد ملنا چاہتا ہے نانا کرے اسکو مجبور کر دیتی ہیں، اپنی باتیں منوا کر پھر اسکی بات مانتی ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، یہ ذرا سی گھر کی کسی بات پر منہ بنا کر علیحدہ ہو کر سو جانا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی لعنت ہوتی ہے اسی طرح جو بندہ زمین میں فساد مچائے گا اللہ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فرمائی، جو صحابہ کرام کو برا کہے اللہ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فرمائی جو رشتہ داریوں کو توڑتا پھرے معمولی معمولی بات پر میں نے بہن سے نہیں بولنا میں نے بھائی سے نہیں بولنا میں نے اب چچا سے نہیں بولنا میں نے اب پھوپھی سے نہیں بولنا ﴿وَيَقْطَعُونَ مَآمِرَ اللَّهِ بِهِ﴾ ان یو صل جن رشتہ

داریوں کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا جو انکو توڑے گا اللہ تعالیٰ کے محبوب کی اس پر لعنت ہوگی، بلکہ محبوب نے فرمایا [صل من قطعک] جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ، وہ عامل جو احکام خداوندی کو چھپائے اسکا اظہار نہ کرے اللہ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فرمائی وہ مسلمان جو مسلمانوں کے مقابلہ میں کافروں کا ساتھ دے اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اس پر بھی لعنت فرمائی اور وہ آدمی جو نیک لوگوں پر تہمت لگائے یہ بھی آج کل گناہ عام ہے ذرا سی بات پر نہت لگادی جاتی ہیں تو گناہوں کے اثرات میں یہ دیکھئے کہ اتنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کے محبوب نے لعنت فرمائی ہے تو جو بندہ انہیں سے کوئی گناہ کرے گا تو نبی ﷺ کی لعنت کا مستحق ہوگا۔

## فرشتوں کی دعاوں سے محرومی

☆..... ایک گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ فرشتوں کی دعا سے محروم ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے امت محمدیہ کے لئے ہر وقت دعائیں کرتے ہیں ﴿الذین یحملون العرش ومن حوله یسبحون بحمده ربهم ویؤمنون به ویستغفرون للذین آمنوا﴾ اور استغفار کرتے ہیں ایمان والوں کے لئے ﴿ربنا وسعت کل شئی رحمقوعلما فاغفر للذین تابوا﴾ اللہ مغفرت فرمادیجئے انکے لئے جو توبہ کرنے والے ہیں، تو گناہ کرنے والا چونکہ توبہ نہیں کرتا اسلئے یہ اس مغفرت سے باہر نکل جاتا ہے ﴿واتبعوا سیلک﴾ جو تیرے محبوب کے راستے کی پیروی کرتے ہیں۔

## پیداوار میں کمی

گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ کہ پیداوار میں کمی آجاتی ہے ﴿ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس﴾ خشکی اور تری میں جو فساد نظر آتا ہے یہ انسانوں کے ہاتھوں کی کمائی ہے چنانچہ حضرت

عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے اس وقت ایک ایسا وقت ہوگا کہ دنیا میں کوئی بھی اللہ کا نافرمان نہیں ہوگا حدیث پاک میں ہے اتنی برکتیں ہوگی اتنی برکتیں ہوگی ایک گائے کا دودھ پورے کے پورے خاندان والوں کے لئے کافی ہو جائے گا اور ایک روایت میں ہے کہ ایک انار بڑی جماعت کی بھوک مٹانے کے لئے کافی ہو جائے گا اور بعض نے کہا کہ انگور کے خوشے اتنے بڑے ہوں گے کہ اونٹ ایک خوشے کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچائے گا۔

### ایک بادشاہ کی بدنیتی

ایک بادشاہ سفر کر رہا تھا کہیں سیر کے لئے جنگل میں واپسی میں اسکو بہت پیاس لگی ہوئی تھی اسے ایک جگہ انار کا باغ نظر آیا اس نے باغ کے مالک کو بلایا اور کہا کہ بھائی مجھے پیاس لگی ہے کچھ پلاؤ اس مالک نے کہا کہ بادشاہ سلامت ہیں تو میں انکو پانی کی بجائے کیوں نہ انار کا جوس پلاؤں اس نے ایک انار توڑا اور اسے اسکو جو نچوڑا تو ایک گلاس پورا ایک انار کے رس سے بھر گیا جب اس نے لا کر بادشاہ کو پینے کے لئے دیا اور بادشاہ نے پیاتو لذیذ بھی بڑا تھا دل بھی بہت خوش ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ بھئی پھر ایک گلاس اور بھی پلا دو اور ساتھ ہی دل میں خیال آیا کہ ایسے زبردست اناروں کا باغ تو شاہی کنٹرول میں ہونا چاہئے اب وہ بندہ گیا اس نے جا کر ایک انار توڑا ایسے ہی اسکو نچوڑا تو گلاس کا تیسرا حصہ بھرا پھر دوسرا نچوڑا پھر تیسرا نچوڑا تب جا کر تین سے گلاس بھرا اور وہ لے کر آیا اب جب پیاتو ذائقہ بھی وہ نہیں تو بادشاہ نے پوچھا کہ بھئی یہ کسی اور درخت سے لائے ہو اس نے کہا جی لایا تو اسی درخت سے ہوں بالکل اسی جیسے اس نے کہا کہ نہیں کوئی فرق ہے مجھے ذائقہ میں بھی فرق لگتا ہے اور پہلے ایک انار سے گلاس بھر گیا تھا اب تین اناروں سے بھرا اس نے کہا جی درخت کے اناروں میں فرق نہیں، لگتا ہے کوئی بادشاہ سلامت کی نیت میں فرق آ گیا ہے، اسکی بے برکتی ظاہر ہوئی ہے تو بادشاہ

نے گناہ سے توبہ کی کہ واقعی میری نیت میں یہ بات آگئی تھی، کہ اس باغ کو میں اپنے لئے لے لوں میں اس نیت سے توبہ کرتا ہوں، تو اگر دیکھئے اتنی سی بدنیتی پر اتنے اثرات ہوتے ہیں تو جہاں اوپر نیچے بدنیتی ہی جما ہو جائیں پھر برکتیں کہا جائیں گی ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں بدنیت بن جائے برکتیں کہاں جائیں گی؟ گھر کے سارے کے سارے افراد اسی قماش کے ہوں بدنیت ہوں تو کیا بنے گا۔

## شرم و حیا رخصت

☆..... گناہوں کے اثرات میں سے ایک اثر یہ بھی ہے کہ انسان کے اندر سے شرم اور غیرت رخصت ہو جاتی ہے ایسے بندے کو شرم نہیں آتی چنانچہ کتنے لوگ ہیں بیٹیوں کو پاس بٹھا کر ڈرامے دیکھ رہے ہوتے ہیں، بیٹیوں کو پاس بیٹھا کر فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں ایک لڑکے نے کہا جی امی ابو کے پاس بیٹھ کر ہم فلم دیکھتے تو ہیں لیکن جب کوئی ایسا سین آنے لگتا ہے امی کہتی ہیں آنکھ بند کر لو تو بس ہم آنکھ بند کر لیتے ہیں اور اس سے جب پوچھا کہ جھوٹ مت بولو صاف بتاؤ بند کرتے ہو؟ کہتا ہے امی کو دکھانے کے لئے بند کرتے ہیں دیکھ ہم بھی رہے ہوتے ہیں، اب جہاں بیٹی بھی ہے بیٹا بھی ہے اور ماں باپ ایسی فحش فلمیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو پھر شرم و حیا کا جنازہ نہیں نکلے گا تو کیا ہوگا، اسی لئے فرنگی ملکوں میں ایک فقرہ سننے میں آتا ہے ”شرم و حیا ایک بیماری ہے“ دین اسلام نے شرم و حیا کو خوبی کہہ دیا [الحیاء شعبۂ من الایمان] حیا ایمان کا شعبہ ہے لیکن کفر نے کیا کہا؟ شرم ایک بیماری ہے ان کے یہاں جس میں زیادہ شرم ہوتی ہے اتنا وہ بندہ زیادہ بیمار ہوتا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بے شرموں کی قوم ہے، یہ کس لئے یہ ان گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔ اکبر الہ آبادی نے کہا کہ۔

خدا کے فضل سے بیوی میاں دونوں مہذب ہیں  
انہیں غیرت نہیں آتی انہیں غصہ نہیں آتا  
خاوند کو غصہ نہیں آتا بیوی کو غیرت نہیں آتی۔

## عظمت الہی کا دل سے نکلنا

☆..... ایک اثر گناہوں کا یہ بھی کہ انسان کے دل سے اللہ رب العزت کی  
عظمت نکل جاتی ہے وہ جو ایک ہیبت ہوتی ہے عظمت ہوتی ہے دل کے  
اندر گناہ کے بار بار کرنے سے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت دل سے نکل جاتی ہے  
اور یہ بہت بڑی محرومی ہے۔

## مصیبتوں کے گھیرے میں

☆..... اور ایک اثر گناہوں کا یہ بھی ہے کہ اس بندے کو پریشانیاں مصیبتیں  
اور بلائیں اپنے گھیرے میں لے لیتی ہیں وہ لنگوٹ باندھ باندھ کر نکلتا ہے اس  
پریشانی کو ختم کروں گا اُس پریشانی کو ختم کروں گا ایک ختم نہیں ہوتی دوسری  
اوپر سے، وہ ختم نہیں ہوتی تیسری اوپر سے کوئی تسبیح ٹوٹتی ہے کہ دانیں گرتے ہی  
چلے جاتے ہیں، اسلئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ﴿مَا صَابَكُمْ مِنْ  
مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ﴾ ”تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے  
ہاتھوں کی کمائی ہے“ دیکھئے ایک ہوتی ہے امتحان بن کر آئی ایک ہوتی ہے سزا کے  
طور پر آئی جو امتحان بن کر آتی ہے اس میں بندے کیلئے ذلت نہیں ہوتی، جو سزا کے  
طور پر بن کر آتی ہے اس میں بندے کیلئے ذلت ہوتی ہے، تو جب بھی آپ دیکھیں کہ  
کسی پر مصیبت آئی ذلت کے ساتھ تو یہ گناہوں کا وبال ہوتا ہے۔

## برے القاب کا مستحق

☆..... ایک گناہوں کا اثر یہ ہوتا ہے کہ وہ انسان اللہ کے یہاں برے القاب

کا مستحق ہو جاتا ہے نیکی کرنے سے۔ وہ اچھے القاب کا مستحق بنتا ہے مثلاً نیک بندے کو کہتے ہیں مومن، مطیع، نسیب، ولی، عابد، عارف، صابر، صابر، صابر، یہ سب کے سب اچھے اچھے نام نیک بندے کے لئے اور جو گناہوں میں پڑ جاتا ہے اس کے لئے برے القاب فاسق، فاجر، عاصی، مفسد، خبیث، کاذب، ذمّان، متکبر، ظالم، یہ سب الفاظ جو قرآن میں استعمال ہوئے ہیں یہ گناہگاروں کے لئے استعمال ہوئے۔

### شیطانوں کا تسلط

☆..... گناہوں کے اثرات میں سے ایک یہ ہے کہ گناہوں کی وجہ سے اس بندے پر شیاطین مسلط رہتے ہیں ہر وقت شیطانی شہوانی سوچیں دماغ میں بھری ہوئی ہیں شیطان چٹے ہوئے ہوتے ہیں اسکے ساتھ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ ایک جگہ فرمایا ﴿ومن یعش عن ذکر الرحمن نقیدلہ شیطانا فہولہ قرین﴾ جو رحمن کی آنکھ سے آنکھ چرائے ہم اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں اور شیطان اسکا ساتھی بن جاتا ہے "اب زندگی میں اگر شیطان ساھی ہے تو پھر موت کے وقت کیا حال ہوگا؟ موت کے وقت تو شیطان پورے زور لگا دیتا ہے۔

### سکون دل سے محرومی

☆..... ایک اثر گناہوں میں سے یہ ہے کہ اس بندے کے دل میں سکون نہیں ہوتا اطمینان نہیں ہوتا مال ہوتا ہے کاروبار ہوتا ہے، افسر ہوتا ہے سارا کچھ اسکے پاس ہوتا ہے مگر اسکے پاس دل کا سکون نہیں ہوتا دل کے سکون سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو محروم کر دیتے ہیں۔

### کبیرہ پر اصرار

☆..... اور ایک اثر گناہوں کا یہ بھی ہے کہ وہ بندہ اکثر اوقات کبیرہ کا بار بار

مرتب ہونے سے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے اسکے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میں یہ کرتا ہوں اب میں نماز پڑھوں گا تو کیا بننا ہے بس اللہ معاف کر دے گا بس جی اللہ معاف کر دے گا تو بہ بھی نہیں کرتا اور سمجھتا ہے کہ توبہ کئے بغیر اللہ تعالیٰ خود معاف کر دیں گے اللہ تعالیٰ کو کیا ضرورت ہے معاف کرنے کی اسی طرح جب تک ہم توبہ نہیں کریں گے توبہ ہماری ضرورت ہے اگر نہیں کریں گے تو پروردگار پھر سزا دیں گے۔

### کلمہ سے محرومی

☆..... اور ایک اثر یہ کہ گناہوں کا اصرار کرنے کی وجہ سے بار بار گناہ کرنے کی وجہ سے انسان کے لئے آخری لمحہ میں کلمہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے جتنے زیادہ گناہ کرے گا اتنا زبان زیادہ بوجھل ہو جائے گی، ایک ڈاکٹر ہیں پاکستان میں انہوں نے کتاب لکھی ہے موت کے لمحات کے بارے میں نیک آدمی ہے جماعت میں بھی انکا بہت وقت لگا، بڑے ہسپتال کے بڑے ڈاکٹر اور جس سے ہیں انہوں نے تقریباً ایک سو بندوں کے آخری لمحات کے حالات کو قلم بند کیا ہے یہ خود انکا مشاہدہ ہے اللہ اکبر وہ کہتے ہیں کہ میں نے کتنے لوگوں کو کلمے کی تلقین کی چونکہ میں پاس ہوتا تھا پڑھ ہی نہیں سکتے تھے میں پوچھتا تھا کہ تم یہ کیوں نہیں پڑھ رہے کہتے ہیں چند ایک نے مجھے بتایا کہ ہماری زبان ایسی ہو گئی ہے جیسے فالج زدہ ہم بولنا چاہتے ہیں ہم بول نہیں سکتے لکھ کر دیا کہ آپ پڑھا رہے ہو ہم پڑھنا چاہتے ہیں زبان ایسی ہو گئی کہ اس پر ہمارا کنٹرول نہیں رہا اب ہم اپنی زبان سے کلمہ پڑھنے کے قابل نہیں تو ان سو واقعات میں سے انہوں نے کہا ہے کہ چند ایسے تھے جنہوں نے کلمہ پڑھا اور باقی سارے کے سارے بغیر کلمہ پڑھے دنیا سے چلے گئے ایک دیہاتی کو کہا کہ کلمہ پڑھو کہتا ہے میری بھینس کا چارہ ڈال دیا یا نہیں ڈالا، ایک کو کہا کلمہ پڑھو



کہتا ہے آلو پیاز آلو پیاز وہ منڈی میں کام کرتا تھا، اس طرح کے واقعات کہ میں کلمہ یاد دلاتا تھا اور وہ جو دنیا میں کرتے تھے وہی انکی زبان سے نکلتا تھا، تو گناہوں کا یہ کتنا بڑا وبال ہے کہ انسان آخری وقت میں کلمہ سے محروم کر دیا جاتا ہے، تو کبیرہ گناہوں پر اصرار کرتے رہنا بالآخر ایمان کے سلب ہونے کا ذریعہ بن جاتا ہے، مستحب کی حفاظت کریں گے، سنت کی حفاظت خود ہو جائے گی، سنت کی پابندی کریں گے واجب خود بخود ادا ہو جائیں گے واجب کی پابندی کریں گے فرض خود بخود ادا ہو جائیں گے، تو جو انسان کبیرہ کو بے دھڑک کر لیتا ہو تو پھر اسکے اثرات میں سے یہ ہے کہ موت کے وقت کے اسکے لئے کلمہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے علماء نے کہ آخری وقت میں شیطان پورا زور لگا دیتا ہے۔

### نکتہ کی بات

اب میرے دوستو ذرا ایک نکتہ سمجھنا، ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ جب جیتے جاتے ہوش و حواس میں شیطان ہمیں بہکا دیتا ہے تو موت کے وقت جب ہوش بھی پورے نہیں ہوں گے، پتہ نہیں پھر اس وقت ہمارا کیا حال ہوگا اسلئے حسنِ خاتمہ کا غم بہت بڑا غم ہے، ہر وقت اسکے لئے متفکر رہے کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہو جائے ایسا نہ ہو کہ محروم کر دیئے جائیں امام احمد بن حنبلؒ اتنی عظیم شخصیت آخری وقت میں طلبہ نے تلقین کی پڑھنا شروع کیا لا الہ الا اللہ تو امام صاحب کہتے لا پھر فرمایا لا پھر کہا لا طلبہ حیران ہم کلمہ پڑھ رہے ہیں اور امام صاحب کلمہ پڑھنے کی بجائے صرف لا کہہ رہے ہیں یہ کیا بلا اللہ کی شان کہ انکی طبیعت سنبل گئی تو جب سنبل گئی تو شاگردوں نے پوچھا حضرت یہ آپ فقط لا کا لفظ کیوں کہہ رہے تھے فرمانے لگے اس وقت شیطان میرے سامنے آیا اور کہنے لگا احمد بن حنبلؒ تو ایمان بجا کر دنیا سے چلا گیا میں اس مردود کو کہہ

رہا حالاً نہیں نہیں جب تک میرے جسم سے سانس نکل نہیں جاتی مردود میں اس وقت تک تیرے مکر سے امن میں نہیں اب وہ احمد بن حنبلؒ جن کے بارے میں حضرت شیخ الحدیثؒ نے لکھا ہے کہ ان کو سومرتبہ خواب میں اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، جن کو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوا جو محدث بھی ہیں فقیہ بھی ہیں اتنے بڑے عالم ہیں کہ انہوں نے قرآن مجید کی خاطر ایسی قربانیاں دیں کہ تاریخ میں ایسی قربانی کی مثال نہیں ملتی، اتنی استقامت والے اگر موت کے وقت شیطان ان پر بھی اتنا پرزور حملہ کرتا ہے، تو میرے دوستو ہم سونہیں کہ پھر آخری وقت میں ہمارا کیا حال ہوگا؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہئے اللہ سے معافی مانگنی چاہئے،

### نیکی کا اثر

جب نیکی کریں گے اللہ کی رحمت ہوگی چنانچہ جو آدمی پابندی کے ساتھ مسواک کرے حدیث پاک میں آتا ہے کہ پابندی سے مسواک کرنے کی وجہ سے برکت ہوتی ہے کہ ملک الموت آتے ہیں اور شیطان کو مار کر اس بندے سے دور بھگا دیتے ہیں اور بندے کو کلمہ یاد دلادیتے ہیں تاکہ وہ اپنی روح قبض ہونے سے پہلے کلمہ پڑھ لے ہمارے مشائخؒ نے فرمایا کہ جو آدمی اکثر زندگی میں با وضو رہنے کی کوشش کرے، فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ تجربہ ہے اللہ رب العزت اس عمل کی برکت سے اس کو کلمہ پر موت عطا فرماتے دیتے ہیں۔

### حضرت مولانا احمد علیؒ کا قول

مولانا احمد علیؒ لاہوریؒ فرمایا کرتے تھے کہ بندہ کتنے ہی کام میں مشغول کیوں نہ ہوا اگر اذان ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کی عظمت کی وجہ سے وہ اس کام کو چھوڑ دے اور اذان کا جواب دے پھر مسنون دعا پڑھے تو اللہ رب العزت کو ندامت کی عظمت کی وجہ سے حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرا یہ مشاہدہ ہے اللہ تعالیٰ

ایسے بندے کو کلمہ پر موت عطا فرماتے ہیں تو بھائی کلمہ پر موت عطا ہو جانا [من  
 كان آخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة] جنت میں داخل ہو گیا تو ہم  
 اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہمیشہ مانگا کریں، تنہائیوں میں اللہ تعالیٰ کے حضور دامن  
 پھیلا کر، اے مالک! آخری وقت میں ہماری مدد فرما دینا شیطان کے مقابلہ  
 میں، اور اللہ ہمیں ایمان پر موت عطا فرما دینا، تو گناہوں کا وبال کلمہ سے محرومی  
 ہوتا ہے اور کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ اس وقت کبھی باپ کی شکل میں آتا ہے کبھی  
 ماں کی شکل میں کبھی دوست کی شکل میں، جس سے زیادہ تعلق ہوتا ہے اسکی شکل  
 میں آتا ہے اور آکر کہتا ہے کہ دیکھو بیٹا ہماری بات مانو ہم سے زیادہ تمہارا خیر  
 خواہ کوئی نہیں تو شک میں ڈال دیتا ہے دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے  
 بارے میں پھر بندہ ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اسلئے کبیرہ گناہوں سے  
 بچتی تو بہ کرنا یہ انتہائی ضروری ہے وگرنہ اسکے دنیا کے اگر آپ نقصان دیکھیں  
 تو انکو دیکھ کر ہی دل سے آواز نکلتی ہے کہ انسان کو چاہئے کہ سب گناہوں سے  
 بچتی تو بہ کر لے، یہ دنیا کے عذاب ہیں ﴿كذلك العذاب ولعذاب  
 الآخرة اكبر﴾ یہ تو دنیا کے مسئلے ہیں، جو بتائے گئے آگے کے مسئلے تو پھر اس  
 سے بھی بڑے ہیں تو اللہ رب العزت ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق  
 عطا فرمائے اور ہمیں اللہ تعالیٰ آخری وقت میں کلمہ پڑھ کر دنیا سے جانے کی  
 توفیق عطا فرمائے۔ آمین

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين

﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءً يُجْزَ بِهِ﴾

# گناہوں کے آخرت میں نقصانات

از افادات

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم  
(نقشبندی مجددی)

درحالت اعتکاف مسجد نور لوسا کا (زامبیا) بعد نماز عشاء ۲۰۰۳ء

## فہرست عناوین

صفحہ نمبر	عناوین	نمبر شمار
۱۳۴	قانون جزا و سزا.....	۱
۱۳۵	حضرت سعدؓ کی وفات.....	۲
۱۳۶	جیسی کرنی ویسی بھرنی.....	۳
۱۳۷	دنیا آخرت کی کھیتی.....	۴
۱۳۹	عالم رویا میں عالم بالا کی سیر.....	۵
۱۴۱	زکوٰۃ نہ دینے والا.....	۶
۱۴۲	چور کی سزا.....	۷
۱۴۲	نا انصافی کرنے والا.....	۸
۱۴۳	متکبر بندہ.....	۹
۱۴۳	عیب گو و عیب جو.....	۱۰
۱۴۳	شبہوت پرست کی سزا.....	۱۱
۱۴۴	زنا کی سزا.....	۱۲
۱۵۱	عالم مثال و عالم دنیا.....	۱۳
۱۵۲	محبوب کار و نا.....	۱۴
۱۵۳	بے پردہ عورت کی سزا.....	۱۵
۱۵۴	پردے میں کوتاہی.....	۱۶
۱۵۴	پردے کے تین درجے.....	۱۷
۱۵۶	ایک باہمت بیٹی کا.....	۱۸
۱۵۸	نافرمان عورت کی سزا.....	۱۹
۱۵۹	جھوٹے آدمی کی سزا.....	۲۰
۱۵۹	زنا کار عورت کی سزا.....	۲۱
۱۶۰	سیل فون کا ناجائز استعمال.....	۲۲
۱۶۱	نا پاک رہنے والی عورت کی سزا.....	۲۳
۱۶۱	چٹکھو عورت کی سزا.....	۲۴
۱۶۲	سنا کرنے والی عورت کی سزا.....	۲۵
۱۶۲	عجیب خواب.....	۲۶

اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

## اقتباس

اللہ تعالیٰ کی زمین یہ ویڈیو کیمرہ ہے اسکی پیٹھ پر کیا ہو رہا ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے، جس نے سجدے کئے وہ بھی محفوظ، جس نے گناہ کئے وہ بھی محفوظ اور قیامت کے دن پھر یہ اپنی خبریں نشر کرے گی، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اسلئے جب نیک آدمی دنیا سے فوت ہوتا ہے تو زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے۔

﴿حضرت پیر و الفقار احمد نقشبندی مدظلہ﴾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ.....!  
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ  
﴿مَنْ یَعْمَلْ سُوْءًا یُجْزَیْهِ﴾  
سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ  
وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ  
اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

### قانون جزا و سزا

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی

یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

انسان جیسا عمل کرتا ہے ویسا اسکے ساتھ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہوتا ہے، نیک عمل کرے گا تو اجر و ثواب کا مستحق بنے گا، گناہ کرے گا تو سزا کا مستحق بنے گا، اس کو قانون جزا و سزا کہتے ہیں، یہ احکم الحاکمین بنا ہوا ایک نظام ہے اسی لئے انسان دنیا میں جو کرتا ہے اس کا ریکارڈ تیار ہو رہا ہے، دنیا والے ویڈیو فلم بناتے ہیں اللہ رب العزت کے فرشتے اسکے نامہ اعمال میں اس کا پورا ریکارڈ لکھ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی زمین اس بندے کی ساری زندگی کے مناظر کو محفوظ کر رہی ہے، آج کل ویڈیو کیسرے بھی تو ایسے ہی ہیں چھوٹے سے ہوتے ہیں دور سے دیکھ کر منظر کو کچھ کر لیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی زمین یہ ویڈیو کیسرہ ہے اسکی پیٹھ پر کیا ہو رہا ہے وہ محفوظ ہو رہا ہے، جس نے سجدے کئے وہ بھی محفوظ، جس نے گناہ کئے وہ بھی محفوظ اور قیامت کے دن پھر یہ اپنی خبریں نشر کرے گی، اللہ تعالیٰ کے حضور اپنی رپورٹ پیش کرے گی، اسلئے

جب نیک آدمی دنیا سے فوت ہوتا ہے تو زمین کے وہ ٹکڑے روتے ہیں جہاں وہ بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا، آسمان بھی روتا ہے زمین بھی روتی ہے۔

### حضرت سعدؓ کی وفات

حضرت سعدؓ کی وفات ہوئی نبی ﷺ انکے جنازے کے پیچھے بچوں کے بل چل رہے تھے صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب ہم نے تو کبھی ایسے چلتے ہوئے نہیں دیکھا؟ فرمایا اتنے فرشتہ سعد کی نماز جنازہ میں شرکت کے لئے اترے کہ مجھے پاؤں رکھنے کی گنجائش نہیں مل رہی تھی پھر انکو دفن کرنے کے بعد نبی ﷺ نے فرمایا کہ سعد کی موت پر اللہ تعالیٰ کا عرش بھی تین دن تک روتا رہا، تو نیک لوگوں کی جدائی پر آسمان اور زمین روتے ہیں اور برا بندہ اسکے لئے زمین کہتی ہے جتنے لوگ میری پیٹھ پر چلتے تھے سب سے زیادہ عداوت مجھے تجھ سے تھی آج تو میرے قابو میں آیا ہے، دیکھ میں تیرا کیا حشر کرتی ہوں، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے نافرمان جنوں اور انسانوں کو زمین کا بوجھ کہا ﴿سنفرغ لکم ایہا الثقلان﴾ ”او میری زمین کے بوجھو، ہم اپنے آپ کو تمہارے لئے عنقریب فارغ کر رہے ہیں“ یہ ایسا ہی ہے جیسے ماں دھمکاتی ہے بچے کو کہ میں ابھی آتی ہوں اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ آ نہیں سکتی تنبیہ مقصود ہے، تو ہم اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں تمہارے لئے یہ تنبیہ مقصود ہے کہ تم کب تک من مانی کرو گے، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی، ہم تو گھرے کی مچھلی سے بھی گئے گذرے ہیں گھرے کی مچھلی کو پکڑنے میں بھی کچھ وقت لگتا ہوگا، ہمیں تو پکڑنے میں اتنا بھی وقت نہیں لگتا، اسلئے فرمایا ﴿یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السموات والارض فانفذوا لاتنفلون الا بسلطان﴾ اے انسان اور جنات کی جماعت! اگر تم زمین و آسمان کے کروں سے باہر نکل سکتے ہو تو ذرا نکل کر دکھاؤ، نکلو گے کسی دلیل سے نکلو گے، تم کہاں جا سکتے ہو،



اسلئے اچھا انسان وہی ہے جو اللہ رب العزت کی نافرمانی سے بچے نافرمانیوں کا کچھ اثر تو اسی دنیا میں ظاہر ہوتا ہے، وہ ہم نے مستقل دونوں میں سنا کہ گناہوں کی وجہ سے انسان کی زندگی میں کیا کیا مصیبتیں اور پریشانیاں آتی ہیں، آج یہ دیکھیں گے کہ ان گناہوں کا آخرت میں معاملہ کیا ہوگا؟۔

## جیسی کرنی ویسی بھرنی

ایک موٹا سا اصول یہ ہے کہ جیسا گناہ ہوگا ویسی اسکی سزا ہوگی، جیسی عبادت ویسا اسکا انعام، اسکی دلیل سنئے قرآن مجید سے کہ جو لوگ راتوں کو جاگتے ہیں تہجد پڑھتے ہیں، شب زندہ دار ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں رب کے سامنے مناجات کرتے ہیں، وہ اپنی نیند قربان کرتے ہیں انکی آنکھیں نیند کو ترستی ہیں، کام کاج کی وجہ سے تھکے ہوتے ہیں، نیند غالب ہوتی ہے اپنے آپ پر جبر کر کے زبردستی اپنے آپ کو اس وقت جگاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور نماز پڑھتے ہیں انکے لئے اللہ تعالیٰ نے جنت میں بہت انعام تیار کر رکھا ہے لیکن جہاں انعام تیار کرنے کا تذکرہ وہاں یہ نہیں کہا کہ ان لوگوں کے دلوں کے سکون کے لئے ہم نے کیا بنا رکھا ہے انکی لذت کے لئے ہم نے کیا بنا رکھا ہے بلکہ یوں فرمایا ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ کوئی یہ نہیں جانتا انکی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لئے ہم نے کیا تیار کر رکھا ہے تو آنکھوں کا تذکرہ کیا اسلئے کہ قربانی آنکھوں کی ہوتی ہے نیند بھری ہوتی ہے، تنکنا مشکل ہوتا ہے اپنے آپ کو جگاتے ہیں ورنہ تو کہہ سکتے تھے کہ دل کے سکون کے لئے وہاں بہت کچھ ہے بدن کی لذت کے لئے بھی وہاں بہت کچھ ہے، اللہ رب العزت کچھ بھی فرما سکتے تھے مگر نہیں جیسی عبادت ویسا اجر چونکہ عبادت کرنے میں آنکھیں جاگیں، اسلئے اللہ تعالیٰ نے وہ نعمتیں تیار فرمائیں کہ جن کے بارے میں فرمایا کہ انکو دیکھ کر انکی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گیں تو جیسا عمل

ویسا اجر، جیسا گناہ ویسی سزا، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بنایا ہوا نظام ہے۔

## دنیا آخرت کی کھیتی

ایک تو یہ دنیا ہے نایک قبر کی زندگی جسکو عالم برزخ کہتے ہیں اور ایک حشر کا دن جسکو عالم آخرت کہتے ہیں اب دیکھئے کہ یہ جو ٹیپ رکارڈ رہتا ہے اس میں ایک تو آواز ہوتی ہے، دوسرا ہوتا ہے آواز کا ٹیپ رکارڈ کے اندر محفوظ ہو جانا اور تیسرا ہوتا ہے کہ ٹیپ کو چالو کر کے آواز کا دوبارہ سننا، یہی مثال تینوں جہان کی بھی ہے، اس زندگی کی مثال آواز کے مانند ہے، برزخ کی مثال آواز کے ٹیپ محفوظ ہو جانے کی ہے، اور آخرت کی مثال اسکے سنائے جانے کی ہے، اللہ تعالیٰ اسی کو ریتلے کر دے گا، آج نہیں دیکھتے کہ جو کھلاڑی کھیل کھیتا ہے کیسی شارٹ لگائی اسکو ریتلے کر کے دکھاتے ہیں اسپڈ بھی کنٹرول کرتے ہیں ذرا آہستہ ریتلے کر کے دکھاتے ہیں ایکشن کا پتہ چلتا ہے تو اللہ رب العزت بھی قیامت کے دن اسکو ریتلے کر کے دکھائیں گے یہ جو کہا جائے گا ﴿اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسبیا﴾ پڑھ اپنا نامہ اعمال اس کا مطلب یہی ہے تو ذرا کر دیکھ، جیسے کسی بندے نے چوری کی ہو تو پھر اس بندے کو ویڈیو کیمرے پر دکھاتے ہیں کہ دیکھ، پھر کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہوتی وہ تسلیم کر لیتا ہے، اسی طرح انسان کے سامنے اسکی زندگی کو ریتلے کر دیا جائے گا، کسی ثبوت کی ضرورت ہی نہیں ہوگی ﴿یومئذ لا یستل عن ذنبہ انس ولا جان﴾ دیکھا قرآن کیسی سچی سچی گواہیاں دے رہا ہے ”وہ ایسا دن ہوگا کسی انسان اور جنات سے اسکے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا“ کیوں؟ ﴿یعرف المجرمون بسیمائهم﴾ وہ اپنے چہروں سے ہی پہچان لئے جائیں گے ﴿فیؤخذ بالنواصی والاقدام﴾ بالوں سے پکڑیں گے اور پاؤں میں انکے بیڑیاں ڈال دی جائیں گی، اسلئے فرمایا

[الدنيا مزدرة الآخرة] دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے  
گندم از گندم بروید جوز جو  
از مکافات عمل غافل مشو

جو گندم بوتا ہے وہ گندم کاٹتا ہے جو جو بوتا ہے وہ جو کاٹتا ہے آج جو بوئیں گے کل وہی کاٹیں گے، کبھی نہیں ہوتا کہ کیکر بوئیں اور سیب لگ جائیں ہم اگر گناہ کے آج پودے بوئیں گے تو قیامت کے دن کل نیکیوں کے پھل نہیں کاٹ سکتے اسلئے فرمایا ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾ جس نے ذرہ کے برابر بھی خیر کا عمل کیا ہوگا وہ بھی اسکو وہاں پائے گا اور جس نے ذرہ کے برابر بھی شر کا عمل کیا ہوگا وہ بھی اسکو پائے گا اور یہ بات سمجھ میں آتی ہے، دیکھیں آپ کو ایک مثال سے سمجھائیں، سائنس نے اس وقت ایسے اشار (ستارے) ڈھونڈ لئے ہیں جو زمین سے تین سو سال نوری سال کے فاصلہ پر ہیں ”نوری سال“ ایک پیمانہ ہے جیسے میٹر، میل، کلومیٹر، روشنی ایک سال کے اندر جتنا فاصلہ طے کرتی ہے اسکو ”نوری سال“ کہتے ہیں اب جب ایک سیکنڈ کے اندر لاکھوں میل کر جاتی ہے تو پھر ایک سال میں کتنا کرتی ہوگی تو ایسے ستارے ڈھونڈ لئے ہیں سائنس دانوں نے جو زمین سے تین سو سال کے فاصلہ پر ہیں مگر فرق کیا ہے فرق یہ ہے کہ اس ستارے سے جو روشنی چلی تھی اسکو زمین پر آنے میں تین سو سال لگ گئے، تین سو سال پہلے چلی تھی، آج زمین پر آئی اور آج ہی وہ نظر آنے لگے کیا مطلب؟ کہ آج اگر یہ محفل یہاں موجود ہے تو یہ لائٹ رفلیکٹ ہو کر اگر اوپر جائے تو اُس ستارے پر اسے پہنچنے میں تین سو سال لگیں گے یعنی اگر وہاں کوئی بندہ بیٹھا دیکھ رہا ہو تو تین سو سال کے بعد وہ دیکھے گا کہ مسجد نور کے اندر یہ محفل بھی ہوئی ہے، اب اسکا یہ مطلب ہوا کہ آج اگر کوئی بندہ وہاں پر بیٹھا ہو، تو آج سے تین سو سال پہلے زمین پر جو کچھ ہوا وہ اسکو آج نظر آ رہا ہوگا، تو اگر یہ تین سو سال بعد نظر آ سکتا ہے تو اسی کلوز سرکٹ کو اللہ ایسا کر دیں

گے کہ قیامت کے دن سب کی لائف (زندگی) انکے سامنے ہوگی تو اپنی زندگی کا ریپلے خود دیکھیں گے کہ نہیں دیکھیں گے، اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھیں گے کہ نہیں سکیں گے کہ یہ جھوٹ ہے۔

## عالم رویا میں عالم بالا کی سیر

نبی ﷺ کی عادت مبارکہ تھی کہ فجر کی نماز کے بعد تشریف رکھتے تو صحابہ کرام سے پوچھتے کہ بھی کسی نے خواب دیکھا تو نبی ﷺ کبھی خود بھی خواب دیکھتے تو آپ بتایا کرتے تھے انبیاء کرام کے خواب بھی سچے ہوتے ہیں ایک مرتبہ نبی ﷺ نے فرمایا کہ میں نے خواب دیکھا ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص اس کا سر پتھر۔ کچل رہا ہے پھر ایک اور شخص کو دیکھا کہ وہ بھی سیدھا لیٹا ہوا ہے اور دوسرا شخص ایک زنبور سے چاقو سے اسکے چہرے کے ایک طرف سے چیرتا ہے اور ابھی وہ ٹھیک نہیں ہوتا کہ پھر دوسری طرف سے چیرتا ہے، پھر میں نے ایک آگ کا ایک تنور دیکھا اس میں بہت سارے مرد اور عورت جل رہے تھے مگر سب کے سب ننگے تھے، اس سے آگے میں نے ایک خون کی نہر دیکھی اس میں ایک آدمی ڈبکیاں کھا رہا ہے تیر رہا ہے کنارے پر آنا چاہتا ہے جب وہ قریب آتا ہے تو ایک آدمی پتھر اسکے سر پہ دے مارتا ہے سر پر پتھر لگتے ہی وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور پھر ڈبکیاں کھاتا ہوا پھر آنے لگتا ہے پھر یہ پتھر مارتا ہے، آگے ایک جگہ بہت زیادہ آگ دیکھی میں نے دیکھا ایک شخص ہے جسکی شکل بہت ڈراؤنی ہے دیکھ کر بندے کو ڈر لگے ایسی ڈراؤنی شکل کبھی دیکھی نہیں، وہ آگ جلا رہا ہے اور آگ کے گرد گھوم رہا ہے، اسکے چہرے پر کوئی ہمدردی کا نشان نہیں اجنبیت ہے، جب اس سے آگے گئے تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا باغ ہے اس میں ایک لمبے قد کا آدمی ہے جس کے گرد بہت سارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، پھر آگے جا کر دیکھا بہت اونچے اور خوبصورت درخت کو دیکھا تو جو دو شخص مجھے دکھا رہے تھے وہ کہنے لگے اس

درخت پر چڑھ جائیے، میں جو درخت پر چڑھا تو چڑھتے چڑھتے اور پر جا کر میں نے ایک شہر آباد دیکھا ایسا شہر کہ جس کے مکان کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں سے بنی ہوئی تھیں، شہر کے دروازے پر پہنچے تو اسے کھولا گیا اندر چند آدمی ملے ایک کا بدن آدھا خوبصورت ہے اور آدھا جلا ہوا ہے، تو جو لیجا رہے تھے انہوں نے اسکو کہا کہ میاں تم غسل کر لو انہوں نے غسل کیا تو انکا جلا ہوا حصہ بھی ٹھیک ہو گیا اوپر دیکھا تو سفید بادل کی طرح ایک محل نظر نہیں آیا میں نے پوچھا یہ کیا ہے، انہوں نے کہا ”جنت عدن ہے“ اور وہ دیکھو کہ وہ تمہارا گھر ہے، میں نے اپنا گھر دیکھنا چاہا تو انہوں نے کہا کہ ابھی وقت نہیں آیا، آپ اس میں کچھ عرصہ کے بعد جائیں گے فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا بھی یہ سارے منظر میں نے کیا دیکھے؟ تو انہوں نے کہا کہ:

☆ جس بندے کو آپ نے سب سے پہلے دیکھا کہ لیٹا ہوا ہے اور اسکا سر پتھر سے کچلا جا رہا ہے یہ وہ بندہ تھا کہ صبح کو سویا رہتا تھا اور نماز کو قضا کر دیتا تھا اسلئے اسکے سر کو کچلا جاتا ہے۔

☆ دوسرے جس شخص کو آپ نے دیکھا کہ اسکے رخسار کو چیرا جا رہا ہے یہ جھوٹ بولنے والا انسان تھا اور ایک فرشتہ اسکے منہ کو چیرتا تھا اسلئے کہ یہ جھوٹ بولتا تھا ☆ تیسرے جس بندے کو دیکھا کہ وہ خون کی نہر میں ہے یہ سودکھا۔ نے والا بندہ تھا جو ڈبکیاں لے رہا ہے اور دوسرا بندہ اسکے سر پہ پتھر مار رہا تھا اسکو سزا دینے کے لئے ☆ پھر آگے آپ نے جس کو دیکھا کہ وہ آگ جلا رہا ہے تو وہ جہنم کا دار و نہ ”مالک“ تھا جو فرشتہ ہے اور جب سے وہ پیدا ہوا اور جہنم پر اسکی ڈیوٹی لگی ہے وہ کبھی ہنسنا نہیں ہے، اسلئے آپ نے اسکے چہرے کے اوپر بہت ہیبت دیکھی۔

☆ آگے جو آپ نے باغ دیکھا تو وہ جنت تھی۔

☆ لمبے قد کے آدمی کو دیکھا وہ ابرہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔

☆ بچوں کو جو دیکھا تو وہ ایمان والوں کی چھوٹی چھوٹی اولاد جو بچپن میں فوت

ہو گئے انکے گرد بیٹھے ہوئے تھے۔

☆ یہ جو شہر آپ نے دیکھا یہ جنت عدن تھا۔

☆ اور محل جو دیکھا یہ آپ کا ہے مگر آپ اس میں کچھ عرصہ کے بعد داخل ہوں گے، تو میں نے پوچھا وہ جو خوبصورت بدن والے اور آدھے جلے ہوئے وہ کون تھے تو بتایا گیا کہ یہ آپ کی امت کے گنہگار بندے ہوں گے یہ پل صراط سے گزریں گے تو انکے جسم کے کچھ حصہ کو جہنم کی آگ جلائے گی تو یہ نیر حیات ہے جب یہ اس میں غسل لیں گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے جسموں کو پھر سلامت فرمادیں گے نبی ﷺ نے گواہی زندگی کے نمونہ کو خواب میں بھی دیکھا معراج میں بھی دیکھا۔

## گناہ اور سزا میں مناسبت

### زکوٰۃ نہ دینے والا

چنانچہ نبی ﷺ نے معراج میں دیکھا کہ ایک آدمی ہوگا سونے اور چاندی کی بنی ہوئی گریزیں ہوں گی اور فرشتے انکو جہنم کی آگ کے اندر گرم کریں گے اور انکی پیشانیوں پر انکے پہلوؤں پر اور انکی پیٹھ کے اوپر داغ لگا رہے ہوں گے، یہ کون لوگ ہوں گے؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں زکوٰۃ نہیں دیا کرتے تھے، سزا میں اور گناہ میں ایک مناسبت اللہ نے رکھی ہوئی ہے چنانچہ پیشانی سے شروع کریں گے کہ زکوٰۃ ادا کرنے میں اسکی پیشانی پر شکن آتی تھی۔

### عہد توڑنے والا

پھر آپ ﷺ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو دیکھا جو کھڑا تھا دوسرا ایک بندہ آیا اس نے اسکو رکوع میں جھکایا اور اسکی گردن کے

اندر ایک گرز گاڑ دیا جس کے اوپر جھنڈا بنا ہوا تھا فرماتے ہیں میں نے اسے دیکھا بڑی تکلیف کی حالت میں تھا، پوچھا کون تھا؟ تو بتایا گیا یہ عہد توڑنے والا وعدہ خلاف، زبان سے پھر جانے والا شخص تھا، کئی لوگ کاروبار میں زبان دے کر پھر جاتے ہیں تو اسکی پیٹھ کے اندر گرز اسلئے گاڑا کہ پھر جانے والا اصل میں دوسرے کی پیٹھ میں چھرا گھونپتا ہے دوسرے کو دھوکا دیتا ہے اسلئے اس کو سزا ایسی دی جا رہی ہے۔

### چور کی سزا

ایک آدمی کو دیکھا کہ کچھ سونا چاندی کی قسم کی چیز تھی وہ جہنم کی آگ میں گرم ہوئیں اور اچھل اور اس بندے کے ساتھ آکر چپک گئیں جیسے بدن پر کوئی چیز آکر لگ جاتی ہے، پوچھا یہ کیا تھا؟ جواب دیا یہ چور تھا جو مال چراتا تھا اس مال کو جہنم میں گرم کر کے اسکے جسم کے ساتھ لگا دیا۔

چنانچہ غیبت کرنے والے بندے کی مثال جیسے کوئی مردار ہے اور اس مردار کا یہ آدمی گوشت کھا رہا ہے۔

### نا انصافی کرنے والا

قیامت کے دن ایک آدمی فالج زدہ حالت میں اٹھایا جائے گا ایک طرف کے ہاتھ اور پاؤں ناکارہ ہوں گے، وہ تو وزن برقرار نہیں رکھ سکے گا، کھڑا ہوگا گر جائے گا، پھر کھڑا ہوگا پھر گر جائے گا، پوچھا گیا کہ یہ کون؟ بتایا جائے گا کہ جو دنیا میں انصاف نہ کرنے والا تھا اس حالت میں اس کو کھڑا کیا گیا بچوں میں انصاف نہ کرنا، لوگوں میں انصاف نہ کرنا، دو بیویاں ہیں دونوں میں انصاف نہ کرنا، نا انصافی کرنے والا بندہ وہ قیامت کے دن اس حالت میں ہوگا۔

## متکبر بندہ

جو بندہ دنیا کے اندر متکبر بنتا ہوگا اونچے بول بولتا ہوگا اسکو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن چیونٹی جیسی جسامت عطا کریں گے کیوں؟ تاکہ یہ چلے اور دوسرے لوگ اپنے پاؤں کے نیچے اسکو مسل مسل کر جائیں اللہ تعالیٰ اسکو لوگوں کے پاؤں میں پامال کریں گے اسکے غرور اور تکبر کو توڑنے کے لئے اللہ تعالیٰ دکھائیں گے دیکھ ہم تیرا دماغ کیسے سیدھا کرتے ہیں، کبھی دنیا میں تکبر کرنے والے کے سر پر جوتے لگواتے ہیں واہ میرے مولیٰ تیرے لشکر بھی بڑے عجیب ہیں نمرود کی ناک میں ایک لنگڑا مچھر اندر چلا گیا تھا اب نمرود صاحب کو جو ملنے آتا تھا وہ سلوٹ مارنے کی بجائے جوتا سر میں مارتا تھا یوں اللہ تعالیٰ بندے کے تکبر کو توڑ دیتے ہیں۔

## عیب گو و عیب جو

ایک آدمی ہوگا جس کو جہنم کے اندر آگ کے بنے ہوئے ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا جائے گا یہ کون ہوگا؟ یہ وہ بندہ ہوگا جو دنیا میں دوسروں کے عیب ڈھونڈتا تھا اور لوگوں کو عیب بتایا کرتا تھا یہ دوا لگ الگ گناہ ہیں ایک کو کہتے ہیں عیب جو اور دوسرے کو کہتے ہیں عیب جو، عیب کو تلاش کرنے والا، جس نے خرد بین فٹ کی ہوئی ہوتی ہے ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اس میں کیا؟ اس میں کیا اور کچھ ایسے ہوتے ہیں بس انکے کان میں کچھ پڑ جائے وہ اسکو لوگوں تک پھیلا دیتے ہیں کسی کی عزت کا ذرا خیال نہیں رکھتے، تو یہ دوا لگ الگ گناہ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن میں دونوں گناہ ہوتے ہیں عیب جو بھی ہوتے ہیں عیب گو بھی ہوتے ہیں، اب چونکہ یہ لوگوں کے دل دکھاتے ہیں انکی رسوائی کر کے اسلئے ان کو سزا بھی ویسی دی جا رہی ہے، پہلے تو انکو آگ کے ستون کے ساتھ باندھ دیں گے ﴿نَارُ اللَّهِ الْمَوْقُودَةُ الَّتِي تَطْلَعُ عَلَى الْإِفْندِهِ﴾ پھر اللہ کی جلانی ہوئی آگ جو انکے دل کو نشانہ بنائی گی جیسا کہ آج کل



لیزر گائڈ راکٹ ہوتے ہیں ان میں پروگرام بھرا ہوا ہے اڑتے ہیں سیدھے نشانے پر جاتے ہیں یہ خدائی راکٹ ہے، ایک ایک شعلہ اٹھ گیا اور سیدھا اس بندے کے دل کو نشانہ بنائے گا کیوں؟ اسلئے کہ اس کا ہر بول دوسروں کے دل جلاتا تھا، آج ہر اٹھنے والا شعلہ اسکے دل کو تکلیف پہنچائے گا جیسا گناہ ویسا سزا میں ربط ہے۔

## شہوت پرست کی سزا

جس بندے کے دماغ میں ہر وقت ہی گندی سوچیں شیطانی شہوانی ہر وقت دماغ میں رہتی ہوں گی جہنم میں جب اسکو ڈالیں گے تو اسکے سر پر گرم پانی ڈالیں گے ﴿یصب من فوقہ دھوہم﴾ ۱ لحمیم ﴿اسکے سر پر کھولتا ہوا پانی ڈالیں گے﴾ تیرے دماغ میں بھس بھرا تھا، تیری کھوپڑی کو اب سیدھا کرتے ہیں، تو جیسا گناہ ویسی ہی اسکی سزا اب اس سے آپ خود سمجھ لیجئے کہ ہم دنیا میں جو گناہ کریں گے کچھ سزا تو اسی دنیا میں ملے گی اور بقیہ سزا پھر آخرت میں ملے گی جیسا گناہ ہوگا ویسی سزا ہوگی۔

## زنا کی سزا

ایک گناہ کی ذرا تفصیل آپ کے سامنے کھولتے ہیں اس عاجز کو کتاب لکھنے کی ضرورت پیش آئی ”حیا اور پاکدامنی“ اس کے ایک باب میں، ہمیں زنا کی سزا احادیث کی روشنی میں کیا ہوگی اسکو ڈھونڈنا پڑا ہم نے بلاشبہ سینکڑوں احادیث ڈھونڈ لیں تو قدرتا ہم نے اسکی ایک ترتیب بنائی کہ اسکی سزا دنیا میں کیا ہے آخرت میں کیا ہے؟ چونکہ جو جوانوں کا مجمع ہے اور یہ گناہ ویسے بھی عام ہیں اسلئے یہ مثال آج کی اس محفل کے لئے زیادہ موضوع ہے، تو یہ آئیگی تو اس کتاب میں مگر آپ سے موقع کی مناسبت سے ذرا اسکی تفصیل کر دینی زیادہ ضروری ہے تاکہ بات کھل جائے کہ جیسا گناہ ویسی سزا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں

﴿بئس ما قدمت لهم أنفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون﴾ ”ان پر اللہ کا غصہ ہوگا ہمیشہ عذاب میں رہیں گے“ اب ظاہر دیکھنے میں عجیب سی بات لگتی ہے کہ بھیڑنا کیا یہ تو محدود وقت کا گناہ ہے اور ہمیشہ ہمیشہ کی سزا؟ اس میں کیا مناسبت ہے؟ جی امیں مناسبت ہے، پہلی بات تو یہ کہ

دنیا میں اسکے تین نقصان ہوتے ہیں

- (۱)..... ایک نقصان یہ کہ چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے چنانچہ زانی انسان کے چہرے کے اوپر نور نہیں رہتا وحشت سی رہتی ہے۔
- (۲)..... دوسری بات انسان کے رزق میں تنگی آ جاتی ہے رزق حلال میں حرام کی بات نہیں حرام تو جہنم میں جانے کا سبب ہے رزق حلال میں تنگی آ جاتی ہے۔

(۳)..... اور تیسرا اس سے بندے کی ایکٹیو عمر گھٹ جاتی ہے، جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے، جیسے بعض نو جوان ابھی تیس سال عمر نہیں ہوتی کہتے ہیں جی کمر میں درد رہتا ہے، تیس سال کی عمر بوڑھوں کی طرح پھر رہے ہوتے ہیں آخرت کے نقصان:

(۱)..... کہ اس بندے کا حساب سخت لیا جائے گا۔

(۲)..... اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو سکے۔

(۳)..... اور وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، اب اس ہمیشہ ہمیش سے مراد یہ کہ اتنا لمبا رہے گا کہ یوں محسوس ہوگا ہمیشہ ہمیش یہاں رہنا ہے، اتنا لمبا عرصہ عذاب ہوگا، اب اس کی سزا جو حادث میں بتائی گئی ذرا وہ سن لیجئے جیسا گناہ ویسی سزا سب سے پہلی بات کہ یہ آدمی دنیا میں غیر محرم کے لئے اپنا چہرہ اچھا کرتا تھا عورت ہے تو وہ مرد کے لئے سجاتی ہے، مرد ہو تو وہ عورت کے لئے سجاتا ہے کیوں کہ یہ ایک دوسرے کے لئے چہرے کو سچا تے تھے لہذا اقامت کے دن انکو کچھ

علامتی سزائیں ملیں گی:

☆ پہلی سزا یہ ملے گی کہ یہ اللہ کے سامنے سیاہ چہروں کے ساتھ اٹھائے جائیں گے، ﴿وہم فیہا کالھون﴾ جہنم میں بھی چہرے کالے قیامت کے دن بھی کالے تو سب سے پہلا گناہ جس دن ﴿یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ﴾ ”جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے تو یہ جہنمی اس دن سیاہ چہرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے۔

☆ دوسری نشانی کہ یہ غیر محرم کے چہرے کو محبت کی نظر سے دیکھتے تھے ہوس کی نظر سے دیکھتے تھے نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ قیامت کے دن ایک تو چہرے سیاہ ہونگے اور دوسرا چہرے کے گوشت کو نوچ لیا جائے گا۔

☆ تیسرا یہ کہ دنیا میں غیر محرم کے چہرے کو دیکھ کر چہرے کھل جاتے تھے تعلق جو ایسا تھا اسکی سزا کیا ملے گی؟ کہ قیامت کے دن ان کے چہروں کو خاص طور پر جہنم کی آگ کے اندر جلایا جائے گا، حدیث پاک میں یہ مستقل بات لکھی ہے کہ جہنمی تو دیسے ہی آگ میں جلے گا مگر آگ اس بندے کے چہرے کو خصوصاً جلائے گی اور اسکو مشتعل کر دے گی۔

☆ دنیا میں غیر محرم کے ساتھ دل لگی کی باتیں کرتا تھا اسکی سزا کیا ہوگی؟ کہ یہ قیامت کے دن روتا ہوا اٹھے گا۔

☆ دنیا میں غیر محرم سے مذاق کیا کرتا تھا سزا کیا ہوگی؟ قیامت کے دن سر پٹیتا ہوا اٹھے گا دو علیحدہ علیحدہ سزائیں اسلئے کہ یہ باتیں بھی کرتا تھا مذاق بھی کرتا تھا دل لگی کی باتیں تھیں اس ہنسنے کے بدلے آج اسکو رونا پڑا۔

☆ چنانچہ غیر محرم سے ملاقات کر کے یاد کیا کہ اس کو خوشی ہوتی تھی نتیجہ کیا ہوگا کہ یہ قیامت کے دن غم زدہ حالت میں کھڑا کیا جائے گا، ادھر خوشی تھی دنیا میں ادھر خوشی کے بدلے اس کو غم دیدیا جائے گا۔

☆ دنیا میں غیر محرم کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے تھے، لہذا قیامت میں اسکے ہاتھوں میں آگ کی جھلڑیاں پہنا دی جائیں گی۔

☆ دنیا میں غیر محرم کی ملاقات کے لئے چل کر گیا تھا، قیامت کے دن آگ کی بیڑیاں ڈل دی جائیں گی۔

☆ غیر محرم کو آنکھوں سے شہوت کے ساتھ دیکھتا تھا نتیجہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن پکھلا ہوا سیسہ اسکی آنکھوں میں ڈالا جائے گا، پگھلے ہوئے سیسہ کا سرمہ اسکی آنکھوں میں ڈالا جائے گا تو دنیا میں بھی سرمہ ڈالتی تھی غیر محرم کے لئے آج بھی تیری آنکھوں میں سرمہ ڈالتے ہیں مگر وہ پکھلا ہوا سیسہ ہوگا۔

☆ غیر محرم کی طرف سب سے پہلے چہرے کو دیکھتا ہے بندہ قریب ہوتا ہے، تو چونکہ اس عمل کی ابتدا چہرے کو دیکھنے سے ہوتی ہے لہذا قیامت کے دن چہرے کے بل گھیٹ کر جہنم میں ڈالا جائے گا، دنیا میں غیر محرم کی گردن میں ہاتھ ڈالے لہذا قیامت کے دن اسکی گردن میں زنجیر آگ کی بنی ہوئی ڈال دی جائے گی، اب دیکھئے پاؤں میں بیڑیاں ہاتھوں میں جھلڑیاں، گلے میں آگ کی زنجیر ہوگی۔

☆ غیر محرم کے سامنے اپنے پوشیدہ اعضاء کو کھولا تھا نتیجہ کیا ہوگا قیامت کے دن اسکو تار کول کا گرم لباس پہنا دیا جائیگا تار کول جس سے سڑکیں بنتی ہیں یہ گرم ہو اور لگ جائے کہیں پر تو اس جگہ کو جلا کے رکھ دیتا ہے۔

☆ چنانچہ دنیا میں غیر محرم سے اس نے اپنی جنسی پیاس بجھائی اسکی سزا کیا ہوگی؟ کہ یہ قیامت کے دن پیاسی حالت میں اٹھایا جائے گا پیاس لگی ہوئی ہوگی اسکو، جنسی پیاس بجھاتا تھا آج پیاس کھڑا کیا جائے گا۔

☆ دنیا میں غیر محرم کی وجہ سے اسے پوشیدہ اعضاء میں جنسی طوفان اٹھتے تھے شہوت ابھرتی تھی قیامت کے دن اللہ رب العزت انکی شرم گاہوں کو جہنم کی آگ میں دھکائیں گے۔

☆ دنیا کے اندر زنا کے ذریعہ اس نے اپنے جسم کے اندر سے جوشہوت والا مادہ ہے اس کو نکالا تھا اس کی سزا کیا ملے گی کہ ان کی شرم گاہوں سے جہنم میں اتنی بدبودار ہوا نکلے گی کہ دوسرے جہنمی بھی تنگ آکر ان پر لعنتیں کریں گے۔

☆ دنیا میں غیر محرم کے بالوں میں انگلیاں پھیری تھیں قیامت کے دن بالوں کے ذریعہ پکڑ کے انکو جہنم میں لٹکا دیا جائے گا۔

☆ چنانچہ بعض روایات میں ہے کہ غیر محرم نے پستان پر ہاتھ لگائے ایسی فاحشہ عورت کو جہنم میں پستانوں کے بل لٹکایا جائے گا یہ حدیث پاک میں ہے غیر محرم کو کیوں اختیار دیا اس جگہ پر۔

☆ چنانچہ دنیا میں غیر محرم کے جسم کی مہک سونگھی تھی نتیجہ کیا ہوگا کہ جہنمی آدمی کے جسم سے بدبو آ رہی ہوگی۔

☆ غیر محرم کے ساتھ بے لباس ایک جگہ پر اکٹھے جمع ہوئے تھے سزا ملے گی جہنم میں آگ کے تور میں ننگے مرد اور ننگی عورتوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا۔

☆ غیر محرم کے ساتھ بند جگہوں پر ملاقات ہوتی تھی، بند کمرے میں بند مکان میں اس کی سزایہ ملے گی کہ جہنم میں ایک بند گھائی ہے جس کا نام ”اثاما“ ہے ﴿يَلْقَوْنَ اِثَامًا﴾ اللہ رب العزت اسکے اندر انکو ڈال دیں گے۔

☆ جب یہ اس عمل کے لئے جاتے تھے تو خوش ہو کر داخل ہوتے تھے اس جگہ پر اس کی سزایہ ملے گی کہ جتنے جہنمی جہنم میں جائیں گے حدیث پاک میں ہے سب سے زیادہ مایوس حالت میں زانی کو جہنم میں داخل کیا جائے گا، مایوس طاری ہوگی اس پر۔

☆ عام طور پر اس گناہ کی ابتدا بوسہ سے کی جاتی ہے حدیث پاک میں ہے اللہ تعالیٰ ان پر ایسے سانپ مسلط کریں گے جو انکو انکے ہونٹوں سے کاٹنا شروع کریں گے ہم حیران ہو گئے حدیث پاک پر ہتے ہوئے ایسا سانپ متعین کریں گے جو انکے جسم کو ہونٹوں سے کاٹنا شروع کریگا۔

☆ دنیا میں یہ لوگوں سے چھپ چھپ کر یہ عمل کیا کرتے تھے ماں باپ کو پتہ نہ چلے بیوی کو پتہ نہ چلے دنیا میں لوگوں سے چھپ چھپ کر گناہ کرتے تھے اسکی سزا ہوگی اللہ تعالیٰ زانی کو قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے کھلے عام رسوا کریں گے، بتایا جائے گا یہ زانی ہے سب لوگوں کو بتایا جائے گا یہ منادی کیوں کی جائے گی؟ دنیا میں چھپ کر کرتے تھے ہم ذرا سب کے سامنے کھول دیتے ہیں، ساری مخلوق کے سامنے بے عزت کر دیں گے۔

☆ دنیا میں لوگوں کو جہاں بول کر مطمئن کر دیتے تھے کسی کو پتہ چل پاتا تھا بھائی کو پتہ چل گیا اس نے سمجھانے کی کوشش کی جھوٹ بولا نہیں بیوی کو پتہ چل گیا اس نے کہنے کی کوشش کی کہ ہاں تمہیں ویسے ہی وہم ہو گیا، تو جھوٹ بول کر دنیا میں لوگوں کو مطمئن کرنے کی کوشش کرتا تھا اسکی سزا کیا ہوگی؟ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسکی زبان پر مہر لگا دیں گے اور اسکے اعضاء کو کہیں گے کہ تم گواہی دو پھر اسکے جسم کے اعضاء سارے کے سارے اسکے گناہ پر گواہی دیں گے اللہ تعالیٰ مخلوق کے سامنے اس کو رسوا کریں گے دیکھ تمہارا جھوٹ ہم نے کیسے کھولا تو دنیا میں تو جھوٹ سے ہم مطمئن کر لیتے ہیں لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے تو جھوٹ نہیں چل سکے گا۔

☆ دنیا کے اندر غیر محرم کے حسن و جمال کی تعریفیں کرتے تھے یہ گناہ تعریفوں کے بغیر نہیں چلتا تعریفوں سے ہی کام بنتا ہے ایسی تعریفیں کہ دوسرے کے جسم سے گندی ہوا بھی خارج ہو تو کہتے ہیں کہ مشک کی خوشبو آ رہی ہے، تو چونکہ ناجائز تعریفیں کرتے تھے اسکی سزا یہ ملے گی کہ قیامت کے دن ان کے اوپر جہنمی لوگ لعنتیں کریں گے، وہ حسن و جمال کی تعریفوں کی بجائے سارے جہنمی لعنتیں برسائیں گے۔

☆ چنانچہ یہ غیر محرم کو سلام بھیجا کرتے تھے تحفہ بھیجا کرتے تھے حدیث پاک میں آتا ہے اسکی سزا ہوگی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو لعنت کے تحفہ

آیا کریں گے اللہ تعالیٰ بھی لعنت بھیجیں گے۔

☆ اور ایک عجیب بات کہ یہ زنا ایسا جرم ہے کہ ہر ہرانگ میں اس کا مزہ انسان محسوس کرتا ہے لہذا اسکی سزایہ ہوگی کہ قیامت کے دن ایک وادی میں بچھوؤں کو جمع فرمائیں گے اس بندے کو اس میں دھکا دیدیا جائے گا وہ بچھو اسکے اوپر اس طرح چمٹیں گے جیسے شہد کے چھتے پر شہد کی کھیاں ہوتی ہیں ہر ہر بچھو جسم کے ہر ہر عضو کے اندر ڈنک مارے گا ایک ایک انگ نے مزہ پایا تھا آج ایک ایک انگ کو زہر کے ساتھ دردناک عذاب دیا جائے گا۔

☆ چنانچہ دنیا میں اس نے غیر محرم کے جسم پر اختیار پایا تھا تو زنا کا مرتکب ہوا، اسکے جسم پر اختیار پایا اسکا نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ قیامت کے دن اس غیر محرم کے شوہر کو اللہ تعالیٰ اسکی نیکیوں پر اختیار عطا فرمادیں گے، چنانچہ اسکے شوہر کو کہیں گے تو جتنا چاہتا ہے اب اسکی نیکیوں میں سے لے لے اور اس دن کوئی نیکیوں کو پیچھے نہیں رہنے دے گا، لہذا اگر کسی کی بیوی سے گناہ کیا تو اس کا خاوند اسکے پورے کے پورے نیک اعمال لے گا، اور اپنے گناہ اسکے سر کے اوپر رکھ دے گا، اس نے غیر محرم پر سواری کی نتیجہ کیا ہوگا؟ کہ اس کے شوہر کے گناہوں کا بوجھ اسکے سر کے اوپر لا دیا جائے گا۔

☆ اور ایک سزایہ کہ غیر محرم سے ہمیشہ کی دوستی کے وعدے کئے ہم ہمیشہ دوست رہیں گے ساری زندگی نبھائیں گے، چونکہ وعدے ہمیشہ کی دوستی کے نبھانے کے تھے اس نیت کی وجہ سے انکو جہنم کا ہمیشہ ہمیش کا عذاب دیا جائے گا، سمجھ میں بات آئی کہ کیوں کہا گیا کہ خالد بن فیہا ہمیشہ رکھیں گے جہنم میں یہ بھی وعدے کرتے تھے ہم ہمیشہ کے دوست ہیں ساری زندگی نبھائیں گے۔

☆ اور پھر آخری سزایہ کہ دنیا میں غیر محرم سے ہم کلامی کے مزے لیتے تھے اسکی سزایہ ملے گی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زانی کے ساتھ ہم کلامی سے انکار فرمادیں گے اللہ فرمائیں گے میں اس بندے سے بات ہی نہیں

کرنا چاہتا اس سے بڑا عذاب اور کیا ہو سکتا ہے کہ بندہ ایسا گناہ کرے کہ قیامت کے دن پروردگار اس سے بات ہی کرنا پسند نہ کریں اللہ دیکھتے جیسا گناہ تھا اسکی سزا بالکل ویسی ہی ملی۔  
اسی پر باقیوں کا بھی قیاس کر لیجئے۔

## عالم مثال و عالم دنیا

ایک تو جسم ہم دیکھتے ہیں یہ مثال کہلاتا ہے سنئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ﴿وَمِمَّنْ دَاۤءِبُ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَآئِفٍ مِّنْهُمْ يَجْعَلُونَ مِثْلَ ٱلْحِمْلِ﴾ ”زمین پر چلنے والا کوئی چوپایا نہیں اور ہوا میں اڑنے والا پروں سے کوئی ایسا پرندہ نہیں مگر یہ کہ ان میں امتیں ہیں تمہاری مثال“، یعنی انسانوں کو ان میں اپنی مثال مل سکتی ہے چوپایوں میں یا پرندوں میں تو باطنی طور پر اپنے عملوں کی وجہ سے اگر نیک عمل ہے تو یہ باطنی طور پر انسان ہے اور اگر اس کے برے عمل ہیں تو یہ کسی نہ کسی جانور کے ساتھ مثال رکھتا ہے مثلاً بہت رکھتا ہے، مثال کے طور پر جس بندے کو یا عورت کو بناؤ سنگھار کا چسکا زیادہ ہو تو عالم مثال میں مور کے ساتھ اسکی تشبیہ ہوتی ہے، بے عمل مالم جو جانتا تو ہو مانتا نہ ہو تو عالم مثال میں گدھے کی سی اسکی مثال ہوتی ہے، جیسے اس نے بوجھ لا دا ہوا ہوتا ہے ایسے ہی گدھے نے بوجھ اٹھایا ہوا ہوتا ہے، جو خود پرور ہوتا ہے اپنے کھانے کی فکر ہر وقت اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے عالم مثال میں اسکی مثال مرغی کے مانند ہوتی ہے مرغی میں بھی خود پروری ہوتی ہے، جو کینہ پرور ہوگا جس نے کہ دل میں دوسروں کے بارے میں نفرت عداوت، بغض کینہ چھپا ہوا ہوگا یہ آدمی عالم مثال میں اونٹ کی شکل میں نظر آتا ہے، جس آدمی کے اندر بے حیائی اور فحاشی ہوگی عالم مثال میں اسکی شکل سور کے مانند نظر آئے گی، چونکہ جانوروں میں سے سور ہی ایک ایسا جانور کہ جب اسکی مادہ پر وقت آتا ہے تو کتنے ہی نہر ہوتے ہیں



جو اسکے ساتھ جفتی کرتے ہیں اور اسکو پرواہ ہی نہیں ہوتی تو یہ بے حیائی کرنے والا بندہ عالم مثال میں سور کے مانند ہوتا ہے، جس انسان کے اندر حرص اور طمع بہت ہو عالم مثال کے اندر وہ کتے کے مانند نظر آئے گا، کتے میں طمع بہت ہوتی ہے اگر اتنا بڑا جانور ہو کہ پچاس کتے اسکے گوشت کو کھا سکتے ہوں مگر یہ دوسرے کو قریب بھی نہیں آنے دے گا، اکیلا کھانا چاہے گا شیر شیر کو مار تو دے گا شیر کو کھائے گا نہیں، جانور ہم جنس کو مار تو دیتا ہے کھانا نہیں، سوائے کتے کے کتا مرے ہوئے کتے کو بھی کھا لیتا ہے، ایسا حریص ہوتا ہے اور دنیا دار بھی اسی طرح اسی لئے جسمیں طمع زیادہ ہوگی یہ بندہ عالم مثال میں کتے کی شکل میں نظر آئے گا، جو بندہ دوسروں کو ایذا پہنچاتا ہو خواہ مخواہ دوسروں کا دل دکھانا، دل جلانا، یہ بندہ عالم مثال میں سانپ اور بچھو کی مانند نظر آئے گا، اور جس بندے کے اندر عیاری ہو آج جس کے لے یہ خوبصورت لفظ ہے بڑا اسمارٹ سمجھا جاتا ہے تو یہ مسٹر اسمارٹ عالم مثال میں لومڑی کی شکل میں نظر آتے ہیں، اور جو دوسروں کے عیب چننا رہتا ہو ڈھونڈتا رہتا ہو، عالم مثال میں مکھی کی مانند نظر آئے گا، آپ نے دیکھا یہ گندی مکھی ہر وقت گند ڈھونڈتی ہے، سارے خوبصورت گھر کو چھوڑ کر باقہروم میں، ساری خوبصورت اچھی جگہوں کو چھوڑ کر ٹریش کین کے اوپر بیٹھی ہوتی ہے، اتنا خوبصورت بندے کا جسم ہوتا ہے اسکو چھوڑ کے جہاں پھوڑا ہوتا ہے وہاں بیٹھتی ہے، جہاں پیپ ہوتی ہے وہاں بیٹھتی ہے، تو چونکہ یہ بھی ہر وقت گندی کی تلاش میں ہوتی ہے اور عیب جو بھی ہر وقت گندی کی تلاش میں ہوتا ہے، تو اسکی صورت مثال مکھی نظر آتی ہے۔

### محبوب کا رونا

اور اسی طرح انسان کو قیامت کے دن پھر جہنم کے اندر سزا دی جائے گی چنانچہ علامہ ذہبیؒ نے الکبائر میں ایک حدیث لکھی ہے کافی تفصیل کے ساتھ

فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدہ فاطمہ الزہراءؑ اور سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نبی ﷺ کو ملنے کے لئے حاضر ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اللہ کے محبوب زار و قطار رو رہے ہیں ریش مبارک آنسوؤں سے تر ہو چکی تو جب اس طرح سے دیکھا تو دونوں حیران ہو گئے پوچھا اے اللہ کے محبوب مایہ کیک آپ کو کیا چیز رلا رہی ہے کیوں آپ رو رہے ہیں؟ نبی ﷺ نے فرمایا فاطمہ میں جب معراج پر گیا تھا تو جہنم میں میں نے کچھ عورتوں کو عذاب ہوتے ہوئے دیکھا مجھے یاد آگئی میری امت کی عورتوں کی تو میں انکی وجہ سے رو رہا ہوں تو وہ پوچھتی ہیں اے اللہ کے محبوب آپ نے کیا دیکھا ان عورتوں کو تو نبی ﷺ نے فرمایا کہ اے فاطمہ!

### بے پردہ عورت کی سزا

میں نے پہلی عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم کے اندر اپنے بالوں کے ذریعہ سے لٹکی ہوئی ہے اسکا جسم جل رہا ہے اور اسکا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہے اب بتاؤ بھی بالوں سے اگر کسی نوجوان کو پکڑ لے نا تو اسکے بھی آنسو آ جاتے ہیں عورتوں کے بال ویسے بھی ذرا لمبے ہوتے ہیں ہم نے دیکھا کہ معصوم بچہ بھی ماں کے بال کھینچے تو تکلیف کی وجہ سے ماں کے آنسو نکل آتے ہیں تو جب کھینچنے کی تکلیف اتنی ہوتی تو اگر پورا بدن بالوں پر ہوگا اور اس پر لٹکا یا جائے گا تو پھر کیا بنے گا اور پھر جہنم کی آگ میں جلے گا آپ نے دیکھا ہوگا یہ روسٹ کیسے ہوتا ہے مشین لگی ہوتی ہے اور آگ میں گھوم رہا ہوتا ہے مجھے تو وہی منظر نظر آتا ہے اللہ تعالیٰ بھی بالوں کے بل لٹکائیں گے اور نیچے سے آگ جلا کے جسم کو روسٹ کریں گے پوچھا اے اللہ کے نبی کس لئے یہ سزا ہو رہی تھی تو نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی کہ جو اپنے بالوں کو کٹواتی تھی اور بے پردہ گھومتی تھی ننگے سر گھومتی تھی۔

## پردے میں کوتاہی

آج کل نوجوان بچیوں کو دوپٹے بوجھل نظر آتے ہیں پردہ انکو سزا محسوس ہوتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بالوں کے ذریعہ جہنم میں لٹکائے گا ذرا اپنے ہاتھوں سے اپنے بال کھینچ کر بندہ دیکھ لے کہ کیا تکلیف ہوتی ہے تو جن کو بن سنور کے نکلنے کا شوق ہوتا ہے ان کے ذہن میں شیطان ڈالتا ہے کیا ہوتا ہے ابھی تو عمر تھوڑی ہے چھوٹی سی ہے عطاء اللہ شاہ بخاریؒ نے دیکھا ایک آدمی کی جوانی عمر لڑکی مگر بے پردہ جاتی تھی انہوں نے اسکو سمجھایا کہ بھائی بچی کو تم پردہ کراؤ اس نے کہا جی چھوٹی ہے ابھی تو منہ سے دودھ کی بو آتی ہے انہوں نے کہا اچھا بھئی دودھ پھٹنے سے پہلے خیال کر لو پھٹ گیا تو کوئی اسکا خریدار نہیں بنے گا، دودھ پھٹ بھی تو جاتا ہے۔

## پردے کے تین درجے

پہلا درجہ: قرآن پاک میں بتایا گیا ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ یہ چہار دیواری کا پردہ اپنے گھروں میں بیٹھی رہے گویا شرعی ضرورت کے بغیر عورت کو گھر سے باہر نکلنے سے منع فرمایا گیا، عورت کی زندگی گھر میں ﴿وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ﴾ بیٹھی رہو اپنے گھر میں قرار پکڑو، تو عورت گھر میں رہے گی شرعی ضرورت ہوگی تو گھر سے باہر آئے گی، یہ چہار دیواری کا پردہ ہے اور اگر گھر میں بھی رہتے ہوئے غیر محرم سے کلام کرنا پڑ جائے مثلاً کوئی بندہ پوچھنے آیا، کوئی ملنے آیا، کوئی چیز دینے آیا، تو وہ ضروریات ہیں گھر کی، بچے گھر میں نہیں تو عورت کیا کرے تو اس کیلئے

دوسرا درجہ: ﴿فَاسْتَلُوا هُنَّ مِنْ وِرَاءِ حِجَابٍ﴾ حجاب کے پیچھے سے ان سے سوال کریں، اگر ضرورت ہے تو، بے ضرورت گفتگو سے تو ایسے ہی منع کر دیا ہاں اگر ضرورت ہے اور کوئی چیز مانگنی بھی ہے تو پردے کے پیچھے سے

ماتوہ ذالک اطہر لقلوبکم وقلوبہن ﴿جو کوئی بڑا نیک پاک بنے کہ ہمیں کچھ نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس وقت کے مخاطب تو صحابہ کرام تھے، اور اس آیت کی مخاطب نبی ﷺ کی بیویاں تھیں انکو فرمایا کہ یہ انکے دلوں کے لئے اور انکی پاکیزگی کے لئے بہت اچھا ہے۔

تیسرا درجہ: کہ اگر بالفرض باہر نکلنا پڑ جائے ڈاکٹر کے پاس جانا پڑا مجبوری میں، بچے کو ڈاکٹر کے پاس لیجانا پڑا یا کوئی ایسی شرعی ضرورت پیش آگئی تو ایسی صورت میں اگر عورت نکلے تو شریعت نے اسکو حکم دیا ﴿یدنین علیہن من جلابیہن﴾ تو یہ پھر اپنی چادر اپنے سینوں پر چروں پر ڈال لے ﴿ولا یبدین زینتہن﴾ اپنی زینت کو دکھاتی نہ پھرے، اب کچھ لوگ کہتے ہیں یا عورتیں کہتی ہیں جی چہرے کا کیا پردہ؟ بھی زینت اگر چہرے میں نہیں ہوتی تو کس جگہ پر ہوتی ہے آپ بتائیں؟ جو رشتہ پسند کرتے ہیں وہ چہرہ دیکھ کر پسند کرتے ہیں یا سردیکھ کر پسند کرتے ہیں؟ اگر چہرے سے فرق نہیں پڑتا تو چہرے پر اگر ہم سیاہی لگا دیں اور اور باقی تصویر بھیج دیں تو پسند کر لو گے؟ فیصلہ تو چہرے سے ہی ہوتا ہے اور جسم میں سب سے زیادہ زینت ہوتی بھی چہرے میں ہی ہے تو جب زینت کو چھپانے کا حکم تو چہرہ چھپانے کو حکم نہیں؟ کہتے ہیں جی چہرہ چھپانے سے کیا ہوتا ہے پردہ تو آنکھوں کا ہوتا ہے ہاں بھی پردہ آنکھوں پر بھی پڑ جاتا ہے، تو اسلئے شریعت نے یہ حکم دیا کہ عورت اپنی زینت کو چھپائے تاکہ ناہی غیر محرم دیکھے اور نہ اس گناہ کا راستہ ہموار ہو، آج جو مرد بدکردار ہیں انکی اس بدکرداری میں عورتوں کی بے پردگی کا بہت زیادہ دخل ہے، یہ حسن ہے دین اسلام کا کہ مرد کو کہا کہ آنکھیں نیچی رکھو، عورت کو کہا کہ اپنی زینت کو چھپاؤ، تاکہ گناہ کا موقع ہی نہ ملے، موقع سے ہی بچا لیا آنکھ دیکھتی ہے دل چاہتا ہے اور پھر شرم گاہ اسکی تصدیق کر دیتی ہے، اس میں ایک خاص بات ذہن میں رکھئے کہ کئی عورتیں جو عورتوں کے ساتھ ہیں مگر انکی عورتوں کے ساتھ ہیں وہ بھی

گھر میں آگئے اب رشتہ داری بھی بحال رکھنی پڑتی ہے تو کچھ لوگ کہتے ہیں جی ان سے کیا پردہ؟ بھئی پردہ ان سے بھی ہے، رشتہ داری بھی رکھنی ہے اور پردہ بھی رکھنا ہے، عورت اگر سمجھدار ہو تو وہ پردے میں رہ کر گھر کے کام بھی کر سکتی ہے۔

## ایک باہمت بیٹی کا

ہمارے جامعہ میں ایک مرتبہ ایک بچی پڑھنے آئی تو اس نے دوپٹہ اپنایا ہوا تھا دسوی کا امتحان شاید پاس کر کے آئی تھی اس نے گھر والوں کو بتایا کہ میں غریب گھر کی بچی ہوں، میں نے حضرت کا بیان سنا میرے دل میں بات آئی کہ میں دین کا علم پڑھوں میرے والد کی حیثیت تو اتنی بھی نہیں کہ وہ مجھے کتاب خرید کر دے سکیں، البتہ میں ان سے اجازت لے سکتی ہوں کہ میں آگے اسکول پڑھنے کی بجائے مدرسہ پڑھوں گی گھر والوں نے مجھے بتایا، ہم نے ان سے کہا کہ فوراً داخلہ دیدیں انہوں نے کہا جی وہ تو پردہ ہی نہیں کرتی ہم نے کہا انشاء اللہ جامعہ میں آئے گی تو پردہ بھی کرے گی، کیوں نہیں کرے گی؟ ہم نے اسے داخلہ بھی دیدیا اور اسے ایک دو دن ذرا سمجھایا اور ایک برقعہ اسکو تحفہ میں بھی دیدیا یہ بھی دیدیا اب ایک دو دن کے اندر بچی کی طبیعت بھی دین پر لگ گئی تھی اور اس نے باقی بچیوں کو بھی دیکھا کہ سب پردے میں آتی ہیں تو اب اس نے برقعہ میں آنا شروع کر دیا، اللہ کی شان، ایسی ذہین بچی نکلی کہ چار سال ہمارے پاس پڑھی چار سالوں میں ہر سال وہ جامعہ میں فرسٹ آتی رہی عمر میں سب سے چھوٹی ہوتی تھی اور نمبر میں سب سے بڑی ہوتی تھی، ایسی فوٹو گرافک میمری میں نے اپنی زندگی میں بہت کم لوگوں کی دیکھی ہے ایسی بلا کی ذہین تھی وہ بچی حیران کر دیا اس نے خیر وہ بڑی تقیہ نقیہ تھی اس نے دیندار ی پر ہیز گاری کی زندگی اپنائی، ذکر واذکار کرنے لگ گئی، بیعت ہوئی اسکی زندگی دین پر بہت لگ گئی، اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ اس نے جب

برقعہ کرنا شروع کر دیا تو ماں باپ کو فکر لگ گئی کہ ہماری بیٹی تو ہم نے پڑھنے بھیجی تھی مولوں بننے کے لئے تو نہیں بھیجی تھی انہوں نے جامعہ میں پیغام بھجوایا کہ جی ہم نے اپنی بچی کو پڑھنے کے لئے بھیجا تھا اسلئے تو نہیں بھیجا تھا کہ اسکو مولوی بنادیں، خیر ہم نے سن لی یہ بات، اب معاملہ چلتا رہا اب اس بچی نے الحمد للہ سب غیر محرموں سے پردہ کر لیا وہ قریبی رشتہ دار تھے یا دوسرے تھے اب اس پر اور تلملے انہیں دنوں میں اسکی ایک کزن کی شادی تھی تو اسکے والدین نے کہا کہ تم نے بھی ہمارے ساتھ جانا ہے وہ آئی چھٹی لینے کے لئے تو اہلیہ نے پوچھا اس سے بھی آپ وہاں جا رہی ہو تو پھر آپ کے لئے تو مشکل بن جائے گی وہ کہنے لگی جی میں نے دل سے پردہ کر لیا فکر مت کریں، میں شادی بھی اٹینڈ کروں گی سب کاموں میں حصہ بھی لوں گی اور بے پردگی بھی نہیں ہونے دوں گی اللہ اکبر،

پھر واپسی میں آکر اس نے بتایا کہ میں برقعہ میں گئی سات دن اس گھر میں میں برقعہ کی حالت میں رہی اتارا ہی نہیں، کہنے لگی میں نے برقعہ ہی میں رہ کر برتن بھی دھوئے کچن کے کام بھی کئے، گھر میں میرے کزن پھرتے تھے کسی کو جرات نہیں تھی مجھ سے بات کرنے کی ڈرتے تھے مجھ سے اور میں اپنے برقعہ میں اپنے کام بھی کر رہی ہوتی، کہنے لگی اس طرح میرے کزن جو میرے ساتھ ہنسی مذاق پہلے کرتے تھے انہوں نے بڑی کوشش کی کہ کسی نہ کسی طرح اسکو دیکھیں سات دن نہ دیکھ سکے، تو میری امی کو کہنے لگے کہ لگتا ہے کہ تیری بیٹی کو برقعہ میں ہی موت آئے گی، تو وہ کہنے لگی امی بھی مجھ سے خوش میں نے وہاں وقت گزارا میں نے وہاں کام کیا جب میں لڑکیوں میں ہوتی تو چہرے سے پردہ ہٹالیتی اور جب میں ادھر ادھر ہوتی تو میں اپنے چہرے پر پردہ کر کے آنکھیں کھلی ہوتیں تو میں اپنا کام کرتی اب اگر ایک بچی دل سے پردہ کو اپناتی ہے تو وہ ایسے جشن میں بھی اپنے آپ کو غیر محرم سے بچا سکتی ہے تو کیسے کوئی کہہ

سکتا ہے کہ جی پردہ کرنے سے رشتہ داریوں میں فرق پڑ جاتا ہے، نتیجہ کیا ہوا اس کے والد گرمی کے موسم میں برف بچتے تھے معمولی حیثیت کے آدمی تھے، اللہ کی شان اس شادی میں ان کا دور کا کوئی رشتہ دار آیا تھا جولا کھوں پتی تھا، اس بچی کی دینداری اسکو اتنی پسند آئی واپس جا کر اس نے ماں سے بات کی ادھر بچی کی تعلیم مکمل ہوئی اگلے دن انہوں نے رشتہ بھیج دیا، کاروں والے تھے، کوٹھیوں والے تھے، اللہ کی نعمتوں والے تھے، ماں باپ نے کہا ہماری بچی کے نصیب کھل گئے، اللہ کی شان کہ اللہ نے دین کی برکت سے اسکو بہترین گھر بھی عطا فرمادیا، جو ڈرتے تھے کہ بیٹی کا کیا بنے گا برادری میں انکی بیٹی کا سب سے پہلے رشتہ ہو گیا، کہنے لگے حیران ہوتے ہیں ہمارے رشتہ دار کہ بھی اس بچی کا اتنا اچھا رشتہ ہو کیسے گیا؟ ہم نے کہا کہ یہ دین کی برکت ہے، اللہ نے اسکے نصیب کھول دئے، تو بھی جو اندر سے دین کو اپناتا ہے، پھر اللہ رب العزت اسکے لئے دنیا کے معاملات بھی آسان فرمادیتے ہیں۔

## نافرمان عورت کی سزا

دوسری عورت نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ وہ زبان کے بل لٹکی ہوئی ہے اب بتائیے کہ زبان کھینچے تو کیا حال ہوتا ہے اور اگر پورا بدن زبان پر ہو اور زبان پر لٹکا دیا جائے پھر کیا ہو گا پوچھا گیا یہ کون عورت تھی تو فرمایا گیا کہ یہ منہ پھٹ عورت تھی، جو شوہر کے سامنے بدتمیزی کرتی تھی، جواب دیتی ہیں نے آگے سے ہٹ دھرمی کی وجہ سے بات نہیں مانتی شوہر نے کچھ کہا آگے سے کچھ کہا پھر اگر اسنے کوئی اور بات کہہ دی تو آگے سے کوئی اور بات کہہ دی چپ نہیں ہوتی اسلئے تو کہتے ہیں مرد کا ہاتھ قابو میں نہیں رہتا عورت کی زبان قابو میں نہیں رہتی بولتی رہتی ہے، کچھ نہ کچھ کہتی رہتی ہے کہتی رہتی ہیں آگے سے ٹر ٹر ہوتی رہتی ہے چپ نہیں ہوتی تو یہ شوہر کے سامنے

ٹرڑ کرنے والی اسکو زبان کے ذریعہ جہنم کے اندر لٹکا دیا جائے گا

## جھوٹے آدمی کی سزا

جو جھوٹا ہوگا آدمی ہوگا جو زبان کا غلط استعمال کرتا ہوگا ایک اور حدیث پاک میں آیا اللہ اسکی زبان کو بہت لمبا کر دیں گے جب وہ چلے گا تو زبان پیچھے ٹھسٹ رہی ہوگی اور لوگ اس پر پاؤں رکھ رکھ کر گذر رہے ہوں گے اسکو جہنم میں یہ سزا ملے گی۔

## زنا کار عورت کی سزا

بھرنی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیسری عورت کو دیکھا کہ وہ جہنم میں اپنے پستانوں کے بل لٹکی ہوئی تھی پوچھا گیا کہ یہ کون؟ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ زنا کی مرتکب ہونے والی تھی غیر محرم کو اپنے جسم کو ہاتھ لگانے کا موقع دیتی تھی اسکو پستانوں کے بل لٹکا دیا جائے گا آج کے دور میں اس گناہ کا جو سب سے بڑا ذریعہ ہے وہ سیل فون ہے یعنی ایک زمانہ تھا کہ موسیقی اسکا ذریعہ تھا پھر ایک زمانہ آگیا کہ ٹی وی اسکا ذریعہ بن گیا آج وہ زمانہ ہے کہ سیل فون اسکا ذریعہ بن گیا ہے، شریفوں کے گھر میں بچے اور بچیاں اس سیل فون کی وجہ سے ناجائز تعلق میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کیوں کہ ہم سے نوجوان مسائل پوچھتے رہتے ہیں پھنستے ہیں تو آتے ہیں، آدمی پریشان ہوتا ہے تو پیر کو بتاتا ہے یا حکیم کو بتاتا ہے، حکیم کو بتاتا ہے جسمانی علاج کے لئے اور پیر کو بتاتا ہے روحانی علاج کے لئے، ہم نے کم از کم ایک سو بچوں سے انٹرویو کئے یہ حیا اور پاکدامنی کتاب جو لکھی ہے، اسکو ہم نے حقیقت پر مبنی بنایا ہے ایک سو بچے جوان گناہوں میں ملوث رہے تھے، انکو ہم نے پوچھا کہ بتاؤ بھئی وجوہات کیا ہوتی ہیں؟ باقاعدہ انٹرویو کیا، مختلف ملکوں میں یہ بات سامنے آئی کہ اس وقت اس گناہ کا سب سے بڑا ذریعہ انسان کا سیلفون ہے S.M.S



میٹج بھیجتے ہیں خرچہ بھی کوئی نہیں اور بیڈروم میں کمبل کے اندر سے ایس ایم ایس پہنچے ہوئے ہیں ماں باپ کو کیا پتہ کہ میٹا میٹج سن رہا ہے یا بیٹی میٹج سن رہی ہے ایک دوسرے کو صبح کے وقت جگاتے ہیں وہ اسکو جگا رہا ہے وہ اسکو جگا رہی ہے اور سیل فونوں میں بجائے نیل کے اوپر سے وائبریشن آگئی یہ ایک نئی مصیبت کہ اگر کسی کے پاس ہے بھی تو بھی پتہ نہیں چلتا اسلئے اپنے گھروں میں سیل فون کا استعمال لمبیڈ رکھئے، فقط کام کی حد تک، فقط بزنس کی حد تک اور آج کل تو مدرسہ میں آنے والے چھوٹے چھوٹے بچے کے ہاتھ میں سیل فون ہے، ابھی میں ایک ملک سے آیا ہوں تو وہاں ایک عالم کہنے لگے میں نے اپنی کلاس کے بچوں کی اچانک تلاشی لی تو نو چھوٹے بچوں کی جیبوں سے سیل فون نکلے، اسلئے یہ چھپا ہوا دشمن ہے آج بہانے بڑے ہیں ابو میں اسکول میں ہوتی ہوں تو پھر بتانا پڑتا ہے میں کہاں پر ہوں، یہ سب بہانے ہوتے ہیں سب جھوٹ ہے، مقصد کوئی اور ہوتا ہے، لہذا کوئی ضرورت نہیں نئے نئے موڈل کے فون لے کر دینے کی اور ہمارے سامنے تو ایسے کیس بھی آئے کہ جو بدکردار نوجوان ہوتے ہیں وہ خود سیل فون لے کر اس بچی تک پہنچا دیتے ہیں، ماں باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ سیل فون ہے یا نہیں حالاں کہ اس کے ہاتھ میں پہنچا ہوا ہوتا ہے، بل بھی کوئی اور پے (ادا کرنا) کر رہا ہوتا ہے ہم نے کہا بھی تم نے ایسی حرکت کیوں کی کہنے لگے جی جہاں دل کی بات ہوتی ہے وہاں بل کی بات کیا ہوتی ہے؟۔

## سیل فون کا ناجائز استعمال

دو مہینے پہلے ایک ملک کا سفر کر کے میں آیا اس ملک میں ایک باپردہ بچی نے سیل فون کے ذریعہ کسی نوجوان کے ساتھ اتنا تعلق بڑھایا کہ خفیہ نکاح کر لیا تین سال تک ماں باپ کو پتہ نہیں چلا اور لڑکے لڑکی کا نکاح ہو چکا تھا۔

اور یہ پردہ دار بچی ہے اور نیکو کار گھرانے کی بچی ہے، جب یہ واقعات پیش آنے لگیں تو پھر سمجھنا چاہئے کہ یہ کس قدر خطرناک چیز ہے، اسلئے اسکو میں ہیل فون کہتا ہوں یہ فون نہیں یہ خون ہے عزتوں کا خون ہے، پکی بات ہے، اسلئے اس کا دشمن بنجائیے اور اسکو بس مقصد کے لئے استعمال کیجئے، ہمارے تجربہ میں یہ بات آئی اور علم میں یہ بات آئی کہ بندہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ بات بھی کر رہا تھا، ہم کیا روٹا روٹیں۔

### ناپاک رہنے والی عورت کی سزا

پھر نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ اسکے پیر سینے پر بندھے ہوئے تھے اور اسکے ہاتھ اسکے سر پر بندھے ہوئے تھے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی یہ کون تھی نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ وہ عورت تھی جو پاکی اور ناپاکی کا خیال نہیں رکھتی تھی اور عورتوں میں پاکی ناپاکی کا بڑا مسئلہ ہے، بچوں کو بھی انہوں نے پالنا ہوتا ہے کھانے بھی انہوں نے پالنا ہوتا ہے نادر اگر یہی پاکی اور ناپاکی کا مسئلہ نہ جانے تو پھر کیا بنے گا؟ اسلئے بچوں کو بالخصوص اس قسم کے مسائل معلمات کے ذریعہ سے سیکھنے کا موقع دینا چاہئے اسی لئے فرض غسلوں میں بھی تاخیر کر دیتی ہیں، نمازیں بھی قضا کر دیتی ہیں۔

### چغلی عورت کی سزا

نبی ﷺ نے فرمایا میں نے پانچویں عورت کو دیکھا کہ اس عورت کا چہرہ خنزیر کا تھا اور باقی جسم گدھے کا تھا یہ اللہ کے محبوب فرما رہے ہیں کہ چہرہ خنزیر کا تھا اور باقی جسم گدھے کا، تھا تو نبی ﷺ سے پوچھا گیا اے اللہ کے نبی کس وجہ سے؟ تو نبی ﷺ نے فرمایا اس وجہ سے کہ اسکے اندر غیبت کی عادت تھی اور دور درنگی تھی اسکے اندر اوپر سے کچھ اور اندر سے کچھ اور، اس لئے سنی سنائی باتوں ہی پر یقین نہیں کرنا چاہئے، یہ سنی سنائی باتیں پتہ نہیں کیا سے کیا پہنچتی

ہیں، خاص طور پر یہ جو چٹھواری ہے نایہ بہت ہی خطرناک بیماری ہے۔

## حسد کرنے والی عورت کی سزا

پھر نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے چھٹی عورت کو دیکھا کہ اسکی شکل کتے کی تھی اور آگ اسکے منہ میں داخل ہوتی تھی اور پاخانہ کے رستے سے باہر نکل جاتی تھی انگارے جارہے تھے نکل رہے تھے اور شکل اسکی کتے کی مانند کتے کی طرح بھونک رہی تھی، فرشتے اسکو گرز مار رہے تھے اور وہ کتیا کی طرح بھونک رہی تھی، پوچھا گیا کہ یہ کون تھی تو بتایا گیا یہ حسد کرنے والی اور دوسروں پر احسان جتانے والی تھی آخرت کے معاملات تبھی سنور سکتے ہیں جب دنیا میں ہم اپنی زندگی کو سنواریں گے۔

## عجیب خواب

ایک آدمی کا واقعہ لکھا ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو بڑا ناز و نعمت سے پالا کہ میری بیٹی بڑی پیاری ہے خوبصورت ہے، عقل مند ہے اور اسکو مارڈن تعلیم دلوائی، وہ بے پردہ پھرتی تھی اللہ کی شان کہ جوانی میں اس بچی کو موت آگئی باپ نے خواب دیکھا تو خواب میں اپنی اس بچی کا سر بالکل بالوں کے بغیر کھوپڑی ہے اور اسکے دونوں ہونٹ بالکل جیسے کسی نے کاٹ دئے ہوں اسکے دانت نظر آرہے تھے اور ہاتھ اور پاؤں زخمی ہیں اس حالت میں اسکو خواب میں دیکھا، اس نے کہا بیٹی کیا ہو؟ کہنے لگی ابا جان جب میں یہاں آئی تو مجھے فرشتوں نے کہا تو ننگے سر پھرتی تھی تجھے اسکی سزا ملے گی، چنانچہ میرے سر کو بڑا بنا دیا گیا، میرے ایک ایک بال کو بڑکی درخت کی طرح بنا دیا گیا اور پھر فرشتوں نے میرے سر میں سے ایک ایک بال کو اکھاڑا اتنی مجھے تکلیف ہوئی کہ میں بتا نہیں سکتی، پھر ایک فرشتہ نے کہا اچھا تیرا تو وضو بھی ٹھیک سے نہیں ہوتا تھا یہ تو کیا اپنے ہونٹوں پر لگاتی تھی، اسکو اتارنے کے لئے جب اوپر کے میرے

ہونٹ کو کھینچنا تو میرے دانتوں تک پورا گوشت اسکے ساتھ کھینچ گیا، پھر نیچے کا کھینچنا پھر وہ کہنے لگے ہاں تیرا غسل بھی نہیں ہوتا تھا کہ تیرے ناخنوں پر بھی کچھ لگا ہوا تھا تو انہوں نے میرے ناخنوں پر جو نیل پالش تھی اسکو اتارنے کے لئے جو کھینچنا تو میرے سارے ناخن ہی کھینچ گئے ابا جان اب میں اس حالت میں ہوں، آج ہم اگر اپنی بچیوں کو دین اسلام کی تعلیم نہیں دیں گے تو کل ان بیچاروں کے ساتھ پتہ نہیں آخرت میں کیا معاملہ ہوگا؟ مردوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم دلوائیں، تقویٰ پر ہیزگاری کی زندگی سکھائیں تاکہ اسی زندگی میں وہ اپنے رب کو مناسکیں اپنی آخرت کو بنا سکیں آج وقت ہے جتنا بھی بڑا کوئی گنہگار ہو اگر وہ توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اسکے زنا کا گناہ اسکے جھوٹ کا گناہ غیبت کا گناہ جو بھی گناہ ہوگا اللہ تعالیٰ سب گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔

اسلئے آج ہم اپنے ہاتھوں سے اپنی آخرت کو بنا لیں یا اپنے ہاتھوں سے بگاڑ لیں اللہ رب العزت ہمیں اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے  
وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العلمین

## مناجات

دل مغموم کو مسرور کر دے  
 دل بے نور کو پر نور کر دے  
 فروزاں دل میں شمع طور کر دے  
 یہ گوشہ نور سے پر نور کر دے  
 مرا ظاہر سنور جائے الہی  
 مرے باطن کی ظلمت دور کر دے  
 مئے وحدت پلا مخمور کر دے  
 محبت کے نشے میں چور کر دے  
 نہ دل مائل ہو میرا انکی جانب  
 جنہیں تیری عطا مغرور کر دے  
 ہے میری گھات میں خود نفس میرا  
 خدائے کو بے مقدم کر دے

﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

# خشیت الہی

از افادات

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم  
( نقشبندی مجددی )

در حالت اعتکاف مسجد نور لوساگا (زامبیا) بعد نماز عشا ۲۰۰۳ء

## فہرست عنسے اوین

صفحہ نمبر	عنسے اوین	نمبر شمار
۱۶۸	اللہ کے ڈر سے رونے والا.....	۱
۱۶۹	دنیا و جہنم کی آگ کا فرق.....	۲
۱۶۹	جہنم کی آگ سے خلاصی.....	۳
۱۷۰	افضل کون؟.....	۴
۱۷۱	سخت طبیعت فرشتہ.....	۵
۱۷۱	جس سے اکابرین ڈرتے تھے.....	۶
۱۷۲	خوف خدا کتنا ہو؟.....	۷
۱۷۳	اکابر کا خوف.....	۸
۱۷۳	جبریل بھی رونے لگے.....	۹
۱۷۴	لفظ خشیت.....	۱۰
۱۷۵	صحیح مؤمن کی پہچان.....	۱۱
۱۷۵	ڈر کی وجہ سے آئیں.....	۱۲
۱۷۵	چشم اور چشمہ.....	۱۳
۱۷۶	رونے اور ڈرنے کا حکم.....	۱۴
۱۷۷	رونے کے اقسام.....	۱۵
۱۷۸	صحابہ کا حضور کے فراق میں رونا.....	۱۶
۱۸۲	رونے میں صحابہ کی حالت.....	۱۷
۱۸۳	کون کب روتا ہے؟.....	۱۸
۱۸۴	کون کتنا رویا؟.....	۱۹
۱۸۵	اجر عظیم.....	۲۰
۱۸۵	عجیب بات.....	۲۱

## اَللّٰهُ اَللّٰهُ اَللّٰهُ اقتباس

ہمارے بڑے عجیب دے رمایا کرتے تھے کہ اے اللہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو اور کفار سے تم دشمنی رکھو، تو اے اللہ ہم نے تیری وجہ سے کفر سے اور کفار کے طریقوں سے دل میں عداوت پیدا کر لی اے اللہ ان دشمنوں کو اور ہمیں جہنم میں اکٹھا نہ فرما دینا جب ہم نے آپ کی خاطر ان سے عداوت کی ہے ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا اے اللہ آپ کیسے پسند فرمائیں گے کہ ان دشمنوں کے ساتھ ہمیں جہنم کی آگ میں اکٹھا فرمائیں۔

﴿حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدظلہ﴾



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ.....!

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿اِنَّمَا یَخْشٰی اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾

[مَنْ بَكَیْ مِنْ خَشِیَةِ اللّٰهِ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَیْهِ النَّارَ]

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللہ کے ڈر سے رونے والا

رسول اللہ ﷺ کا ارشاد گرامی ہے من بکی من خشية الله جو شخص اللہ

رب العزت کے خوف و خشیت کی وجہ سے رو پڑا حرم اللہ علیہ النار اللہ تعالیٰ

اس پر جہنم کی آگ کو حرام فرما دیتے ہیں، اس میں النار سے مراد جہنم کی آگ ہے

اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے ستر گنا زیادہ گرم

اور سخت ہے چنانچہ حدیث پاک میں فرمایا [نار کم هذا احد و سبعون جزء

من نار جهنم] یہ تمہاری آگ کا اکہتر واں حصہ ہے، تو اگر دنیا کی آگ بھی

ہمارے جسموں کو جلا دیتی ہے تو پھر جہنم کی آگ کا کیا حال ہوگا؟ اسی لئے حدیث

پاک میں آتا ہے کہ اگر جہنم کی آگ کا ایک شعلہ سورج ابھرنے کی جگہ پر رکھ دیا

جائے اور ایک انسان سورج غروب ہونے کی جگہ پر کھڑا ہو تو وہ انسان جل کر

خاک ہو جائے گا ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جہنم کے اندر روز خیموں کو جو

پسینہ آئے گا اگر اس پسینہ میں سے ایک قطرہ احد پہاڑ کے اوپر ڈالیں تو وہ بھی

## دنیا و جہنم کی آگ کا فرق

دوزخ کی آگ اور دنیا کی آگ میں کچھ فرق ہے ایک فرق تو یہ ہے کہ دنیا کی آگ ہر نیک اور بد کو جلاتی ہے، عام دستور یہی ہے چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے آگ نے انکو جلایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان انکار رہ رکھنے کی وجہ سے جل گئی تھی، عام دستور یہی ہے ہاں جب اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو نہیں بھی جلاتی جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ﴿وَقُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ﴾ مگر یہ اللہ رب العزت کی قدرت تھی عام سنت مبارکہ یہی ہے کہ آگ جلاتی ہے، نیک آدمی کو بھی جلائے گی برے کو بھی جلائے گی، لیکن دوزخ کی آگ وہ فقط گنہگاروں کو جلائے گی اور نیکوں کو وہ کچھ نقصان نہیں دے گی، دنیا کی آگ پانی سے بجھ جاتی ہے جب کہ جہنم کی آگ گنہگار مومن کی آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسوؤں سے بجھ جاتی ہے، مومن کا نور ایمان جہنم کی آگ کو ختم کر دیتا ہے، اس لئے مومن جب پلصراط سے گذریں گے، تو جہنم پکاراٹھے گی [اسرع یا مومن] اے مومن جلدی کر [فان نودک اطفأ ناری] تیرے ایمان کے نور نے تو میری آگ کو بھی بجھا ڈالا۔

## جہنم کی آگ سے خلاصی

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو آدمی مغرب کے بعد سات مرتبہ پڑھے [اللهم اجرنا من النار] تو اللہ رب العزت اس بندے کو جہنم سے خلاصی عطا فرمادیتے ہیں، تاہم جہنم کا ڈر، اللہ تعالیٰ کا ڈر، ہر وقت مومن کے دل میں ہونا چاہئے۔

## افضل کون؟

عبداللہ ابن مبارکؓ بڑے محدث گذرے ہیں ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت دو آدمی ہیں ایک مجاہد تھا جو شہید ہو گیا اور دوسرا اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا تو دونوں میں سے آپ کے نزدیک کونسا افضل ہے تو انہوں نے فرمایا اللہ رب العزت سے ڈرنے والا میرے نزدیک زیادہ فضیلت رکھتا ہے اسلئے کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا فُؤَادُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا﴾ اے ایمان والو! اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، تو جہنم کی آگ سے بچانے کا ہمیں حکم عطا فرمادیا گیا، اسلئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ﴾ اللہ تعالیٰ تمہیں ڈراتا ہے اس آگ سے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں ایک جگہ فرمایا ﴿فَأَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى﴾ میں تمہیں بھڑکتی ہوئی آگ سے ڈراتا ہوں اور قرآن مجید میں ایک جگہ ہے ﴿لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَمِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ﴾ جہنمی جہنم میں ایسے ہونگے کہ ان کے اوپر بھی آگ کی تہیں ہوں گی انکے نیچے بھی آگ کی تہیں ہوں گی، اسی لئے اسکو ﴿نَذِيرَ الْبَشَرِ﴾ کہا گیا ڈارنے والی اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ﴿إِنَّهَا لَا تَخَذِي الْكِبَرُ﴾ یہ بہت بڑی چیز ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم سے زیادہ کسی خوف ناک چیز سے بندوں کو نہیں ڈرایا اور یہ جہنم ایسی کہ جس دن سے یہ پیدا کی گئی میکائیل علیہ السلام اس دن سے کبھی بھی ہنسے نہیں ہیں۔

## سخت طبیعت فرشتہ

نبی علیہ السلامؐ معراج پر تشریف لے گئے تو اپنے سب فرشتوں کو دیکھا تو انہوں نے سلام کیا استقبال کیا اور انکے چہرے پر خوشی کے اثرات نظر آئے ایک فرشتہ ایسا تھا کہ اس نے سلام تو کیا مگر چہرے کے اوپر بالکل اجنبیت تھی تو نبی علیہ السلامؐ نے

جبرئیل علیہ السلام سے پوچھا جبرئیل! ہر فرشتہ نے سلام کیا اور میں نے اسکے چہرے پر مسکراہٹ دیکھی شگفتگی دیکھی، یہ کون ہے کہ جس کے چہرے کے اوپر اتنی اجنبیت ہے؟ ذرا مسکراہٹ نظر نہیں آئی! کہنے لگے اے اللہ کے محبوب! یہ جہنم کا داروغہ مالک نامی فرشتہ ہے اسکے چہرے پر کبھی مسکراہٹ نہیں آتی ایسا سخت طبیعت اللہ تعالیٰ نے اسکو بنایا ہے۔

### جس سے اکابرین ڈرتے تھے

ایک جگہ فرمایا ﴿هُوَ الَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابٍ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ﴾ اس لئے وہی لوگ جنت میں جائیں گے جو دنیا میں عذاب الہی سے ڈرنے والے ہونگے اور وہ جنت میں جا کر کہیں گے ایک دوسرے کو ﴿إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ﴾ ، فَمَنْ اللّٰهُ عَلَيْنَا وَفَقَا عَذَابِ السُّمُومِ ﴿ جہنم کی آگ ایسی ہے ذرا توجہ سے سنئے اور دل کے کانوں سے سنئے اس جہنم کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بھی ڈرایا ہے، ہم تصور کر سکتے ہیں اس بات کا اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو بھی ڈرایا ہے اس آگ سے، قرآن عظیم الشان سنئے اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اے محبوب ﴿وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ مَلُومًا مَّدْحُورًا﴾ اللہ اکبر، ہمارے اکابر جب اس آیت کو پڑھتے تھے نا، تو کئی تو روتے تھے اور کئی روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے، کہ اللہ رب العزت اپنے محبوب کو فرما رہے ہیں، اللہ اکبر ہم کس کھیت کی گاجر مولیٰ ہیں، ہماری کیا اوقات ہے، تو ہمیں واقعی اللہ رب العزت کے بنائی ہوئی عذاب دینے والی اس جہنم سے ڈرنا چاہئے۔

### خوف خدا اکٹھا ہو؟

نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لوگو! تمہاری مثال ایسی ہے جیسے کوئی شمع جلانے تو پٹنے اس شمع کی طرف بھاگتے ہیں تم خواہشات کی اتباع کی وجہ سے جہنم کی

طرف بھاگ رہے ہو میں تمہاری کمروں سے پکڑ پکڑ کر تمہیں پیچھے ہٹا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرشتوں کو بھی جہنم کی آگ سے ڈرایا ہے ﴿وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَهٌ مِّنْ دُونِهِ فَلْيَاكُفِّرْ بِهِ﴾ کَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ ﴿کہ فرشتوں میں سے بھی اگر کوئی کہے گا میں الہ ہوں تو ہم ان فرشتوں کو بھی دوزخ کی آگ میں ڈال دیں گے، تو یہ خوف خدا اس حد تک ہونا چاہئے کہ بندے کو گناہوں سے بچا دے، محبت الہی کی کوئی انتہا نہیں خوف خدا کی انتہا ہے خوف خدا کی انتہا یہ کہ جس سے بندہ گناہوں سے بچ جائے اتنا خوف کافی ہے، مگر محبت کی کوئی حد نہیں جتنا بندہ اللہ رب العزت کی محبت میں بڑھ سکتا ہے اتنا اسکو بڑھنے کی کوشش کرنی چاہئے، تو خوف خدا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے یہی تو اسکی رحمت سے بندہ گناہوں سے بچ سکتا ہے، مفسرین نے اس کی دلیل دی ہے کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الرحمن میں جہاں اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا وہاں ارشاد فرمایا ﴿وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّاتٌ﴾ کہ ڈرنے والے کیلئے دو جنتیں ہیں اور آگے فرمادیا ﴿فَبَآئِيَ الْآءِ رَبِّكُمْ أَتَكْذِبُونَ﴾ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت کا اتنا خوف جو بندے کو گناہوں سے بچا لے یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔

## اکابر کا خوف

ہمارے اکابر جب جہنم کے تذکرے سنتے تھے انکی حالت بدل جایا کرتی تھی چنانچہ فضیل بن عیاضؒ کے بیٹے کا نام تھا علی، انکی تو حالت یہ تھی کہ ان کے سامنے اگر کوئی سورۃ القارعہ پڑھ دیتا تھا تو وہ سورت کے درمیان ہی بے ہوش کر گر جایا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے، اے اللہ مجھے اپنی زندگی میں یہ سورت مکمل سننے کی توفیق عطا فرما دے، قاری پڑھنا شروع کرتا تھا یہ بے ہوش ہو جاتے تھے، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ لوگ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں،

اولیس قرنیؓ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ایک گلی میں سے گزرے جہاں لوہار کی بھٹی تھی، لوہار کی بھٹی پر نظر پڑی تو یہ اسی وقت بے ہوش کر گر گئے لوہار کی بھٹی کو دیکھ کر انکو جہنم کی آگ یاد آ گئی کہ اس بھٹی کی آگ میں لوہے کو گرم کریں تو لوہا پگھل جاتا ہے، جب بندے کو ڈالیں گے جہنم کی آگ میں تو بندے کا کیا حال ہوگا؟ اسلئے روایت میں آتا ہے جس بندے کو جہنم کا سب سے تھوڑا عذاب ہوگا اسکو آگ کے دو جوتے پہنائے جائیں گے اور وہ جوتے اتنے گرم ہونگے کہ اس بندے کا دماغ ہنڈیا کی طرح ابل رہا ہوگا۔

## جبرئیل بھی رونے لگے

چنانچہ ایک مرتبہ جبرئیل علیہ السلام تشریف لائے اور انہوں نے نبی ﷺ کے سامنے جہنم کا تذکرہ کیا تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس جہنم کے تذکرے کو سن کر اللہ تعالیٰ کے محبوب اتار روئے کہ جبرئیل علیہ السلام کو بھی رونا آ گیا۔

## لفظ خشیت

ایک لفظ ہے حدیث میں ”خشية الله“ جو رویا اللہ تعالیٰ کی خشیت سے امام راغب اصفہانی المفردات میں لکھتے ہیں [الخشوع الضروع] کہ یہ خشوع تضرع کا دوسرا نام ہے، گڑ گڑانے، ڈرنے کا دوسرا نام ہے، [واكثر ما يستعمل في ما يوجد على الجوارح] اور یہ استعمال ہوتا ہے اکثر جو کچھ انسان کے اعضاء پر پایا جاتا ہے، چنانچہ امام غزالیؒ نے لکھا ہے کہ جس طرح انسان آگ جلانے تو دھواں نکلتا ضروری ہے، دھوئیں سے آگ کی پہچان ہوتی ہے، درخت لگائیں تو پھل اسکی پہچان ہوتی ہے، اسی طرح جس بندے کے دل میں اللہ رب العزت کا خوف ہوا اسکے اعضاء کے دیکھنے سے ہی اسکے دل کے خوف کا اندازہ ہو جاتا ہے ایسا بندہ کبھی تو روتا ہے، کبھی تڑپتا ہے، کبھی اللہ کے خوف سے کانپتا ہے اور کبھی اللہ کی یاد میں آہیں بھرتا ہے۔

کیوں دل جلوں کے لب پہ ہمیشہ فغاں نہ ہو  
ممکن نہیں کہ آگ لگے اور دھواں نہ ہو

تو دل جلوں کی زبان پر تو پھر آہیں ہوں گی ۔

آہیں بھی نکلتی ہیں گردِ دل میں لگی ہو  
ہو آگ تو موقوف دھواں ہو نہیں سکتا

### صحیح مومن کی پہچان

چنانچہ قرآن مجید کی آیت ﴿اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ﴾ اس آیت میں امام رازیؒ فرماتے ہیں کہ ان المؤمن لا یكون مؤمنافی الحقیقة الا بخشوع القلب، کہ مومن حقیقت میں مومن ہو ہی نہیں سکتا، جب تک اسکے دل میں اللہ کا خوف نہ ہو، جب تک اسکے دل میں خشوع نہ ہو، چونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ﴿تَقْشَعْرُهُمْ جُلُوْدُ الَّذِيْنَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ﴾ امام غزالیؒ فرماتے ہیں کہ خشیت کا مطلب ہوتا ہے بعض اوقات اعضاء کے اندر سکون ہونا طمانینت کا ہونا اسکو بھی خشیت کہا گیا اور کئی مرتبہ بندہ تڑپتا ہے، کئی مرتبہ بندہ آہیں بھرتا ہے اور کئی مرتبہ بندہ رو پڑتا ہے یہ سب کی سب اس خشوع کی نشانیاں ہوتی ہیں، وہ اسکی تفصیل لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں اگر نماز میں دیکھا جائے گا تو خشوع کا مطلب طمانینت اعضاء لیا جائے گا جیسے نبی ﷺ نے ایک آدمی کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر اس بندے کے دل میں خشوع ہوتا تو اسکے اعضا کے اندر ٹھہراؤ ہوتا، تو نماز میں خشوع کہیں گے کہ اعضا کے اندر جماؤ، ٹھہراؤ ہو، ذکر کی حالت میں بندے کا خشوع کیا کہ اسکے اوپر گڑ گڑانے کی کیفیت طاری ہو، اسکے اوپر رونے کی کیفیت ہو اور وہ اللہ

تعالیٰ کے سامنے ڈرنے کا پنے لگے اس کو خشوع کہتے ہیں۔

## ڈر کی وجہ سے آہیں

ڈر کی وجہ سے بھی آہیں نکلتی ہیں، محبت کی وجہ سے بھی آہیں نکلتی ہیں اسلئے اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابرہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا، ﴿ان ابرہیم لاواہ حلیم﴾ کہ ”میرے ابرہیم بڑے حلیم تھے اور آہیں بھرنے والے تھے“ اواہ کہتے ہیں آہیں بھرنے والے کو چنانچہ روح البیان میں لکھا ہے [الواہ، الخاشع المتضرع] اواہ کہتے ہیں جس کے دل میں خشوع ہو جس کے دل میں خضوع ہو اور یہ بھی ذہن میں رکھنا کہ جب بندے کی آہ نکلتی ہے تو وہ پھر آواز سے نکلتی ہے آہ ہمیشہ زور کی ہوتی ہے چنانچہ امام بخاریؒ لکھتے ہیں ایک شاعر کا شعر

اذما کد ار حلہا بلبل ططاھا آہتہ رجل الحزین  
یعنی اونٹنی آواز نکالتی ہے جیسے بندے کی آہ ہوتی ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ غم ناک مرد کی طرح آہیں بھرتی ہے۔

خاموش رہ کے دل کا نکلتا نہیں غبار  
اے عندلیب بول دہائی خدا کی ہے  
ترپنا تملانا ہجر میں رورو کے مرجانا ☆ ہے شیوہ عاشقی میں یہ مر یضاًن محبت کا  
ایک شاعر نے کہا

فرط غم نے کیا صد چاک میرا دامن ضبط  
آسمان تک گئی آواز میرے نالوں کی  
تو جب بندہ اللہ رب العزت کی محبت میں روتا ہے تو صاف ظاہر ہے کہ پھر اسکے منہ سے آہیں نکلتی ہیں اللہ رب العزت کے ڈر میں وہ کانپ رہا ہوتا ہے۔  
چشم اور چشمہ

[عین بکت من خشية الله] وہ آنکھ جو اللہ تعالیٰ کی خشیت کی وجہ سے



روپڑی اللہ تعالیٰ اس آنکھ کو جہنم پر حرام فرمادیتے ہیں، عربی میں **عین** کا لفظ آنکھوں کیلئے بھی استعمال ہوتا ہے (چشم کے لئے) اور **عین** کا لفظ چشم کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے ﴿عیناً فیہا تسمى سلسیلاً﴾ تو چشم کے لئے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اور چشم کے لئے بھی ہوتا ہے گردنوں میں فرق ہے

☆..... جس طرح چشمہ پانی کے بغیر بے کار ہوتا ہے

ایسے ہی مؤمن کی چشم آنسو کے بغیر بیکار ہوتی ہے۔

☆..... چشمہ کے پانی سے دنیا کا باغ لگتا ہے

اور چشم کے پانی (آنسو) سے آخرت کا باغ لگ جاتا ہے۔

☆..... چشمہ کے پانی کی فصل فانی ہوتی ہے

لیکن چشم کے پانی سے جو فصل لگتی ہے وہ ہمیشہ دائمی ہوا کرتی ہے۔

☆..... چشمہ کے پانی سے ظاہر کی نجاست دور ہوتی ہے

اور چشم کے پانی سے انسان کے باطن کی غلاظت دور ہوتی ہے۔

☆..... چشمہ کے پانی سے ظاہر کا وضو انسان کر لیتا ہے

اور چشم کے پانی سے انسان کے باطن کا وضو ہو جاتا ہے۔

☆..... نیز چشمہ کا پانی میزان میں نہیں تو لا جائے گا

مگر انسان کی چشم سے نکلا ہوا پانی قیامت کے دن میزان میں بھی تو لا جائے گا،

بلکہ حدیث پاک میں ہے سند کے ساتھ بات کر رہا ہوں میزان میں ہر چیز

کا وزن ہو سکے گا، لیکن مؤمن گنہگار کے ندامت سے نکلے ہوئے آنسو اتنے

وزنی ہوں گے کہ میزان میں اس کا حساب بھی کرنا مشکل ہو جائے گا۔

رونے اور ڈرنے کا حکم

چنانچہ حدیث میں ہے: [عن عبد اللہ بن عمر قال قال النبی ﷺ

تضرعوا و ابکوا فان السموات والارض والشمس والقمر والنجوم

يكون من خشية الله" عبداللہ ابن عمرؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ ارشاد فرمایا ڈرو اور رویا کرو کہ زمین و آسمان سورج اور چاند اور ستارے سب کے سب اللہ رب المعزت کے خوف سے روتے ہیں" اسلئے فرمایا اگر تمہیں حقیقت کا پتہ چل جائے کہ تمہیں کس کس امتحان سے گزرنا ہے یعنی پل صراط کے اوپر سے گزرنا ہے ﴿فلیضحکوا قليلا وليسکوا کثیرا﴾ "تم ہنسو تھوڑا اور رو رو زیادہ" اسلئے ہمیں چاہئے کہ ہم اپنی آخرت کے معاملات سوچیں گناہوں کو سوچیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے رو رو کر معافیاں مانگیں۔

## رونے کے اقسام

علماء نے لکھا ہے کہ رونے کی مختلف اقسام ہیں، سب سے پہلی قسم ﴿۱﴾ مصیبت کے اوپر رونا کسی انسان پر کوئی مصیبت آجائے تو فطرۃ بندہ رو پڑتا ہے، جیسے طالب علم فیل ہو گیا، روئے گا، ریزلٹ نکلتا ہے تو کتنے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا، کسی کو کاروبار میں بڑا نقصان ہو جائے بے اختیار آنسو نکل پڑتے ہیں، تو مصیبت کے اوپر رونا یہ انسان کی فطرت ہے۔

﴿۲﴾ ایک ہے کسی کے فراق میں رونا، کسی کی جدائی میں رونا جیسے نبی ﷺ کے بیٹے سیدنا ابراہیمؑ فوت ہو گئے تو نبی ﷺ انکو جنت البقیع میں دفن فرما رہے تھیں اس وقت آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے، ایک صحابی نے دیکھا تو حیران ہوئے، فرمانے لگے اے اللہ کے نبی آپ بھی رو رہے ہیں نبی ﷺ نے فرمایا [العين تدمع و القلب يحزن] دل مغموں ہے آنکھ روتی ہیں [وانابفراقک یا ابراہیم لمحزونون] اے ابراہیم ہم تیری جدائی کے اندر غمگین ہیں، تو فطرتی چیز ہے ماں باپ فوت ہوں تو اولاد رونی ہے اولاد فوت ہو تو ماں باپ روتے ہیں، جس ماں کا بچہ فوت ہو جائے اسکو رولانے کے لئے مرثیہ خواں کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ دکھ اور درد کی وجہ سے غم کی وجہ سے

خود رو رہی ہوتی ہے، چنانچہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی میں حضرت یعقوب علیہ السلام بھی روئے تھے، فطری محبت ہوتی ہے، اتاروئے اتاروئے کہ ﴿وَابْيَضْتُ بَعْدَهَا مِنْ الْحُزَنِ فَهُوَ كَظِيمٌ﴾ کہ رو رو کے انکی آنکھیں سفید ہو گئی تھیں، بینائی چلی گئی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا دل تو ہونا چاہئے کہ بندہ اس غم کو برداشت کر سکے، مگر یعقوب علیہ السلام کا رونا دو وجہ سے تھا ایک رونا اس وجہ سے تھا کہ وہ سمجھتے تھے کہ میرے بیٹے کو اللہ نے جنتی حسن کا نمونہ دیا لہذا جنتی حسن جدا ہونے کی وجہ سے وہ رویا کرتے تھے، ﴿مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ﴾ اور دوسرا یعقوب علیہ السلام اس وجہ سے روتے تھے کہ بچپن میں میرا بچہ جدا ہو گیا اسکی صحیح ایمان کی تلقین بھی نہیں کر سکے معلوم نہیں وہ کس حال میں میرا بیٹا دنیا سے رخصت ہوا اس وجہ سے روتے تھے اس لئے جب خوشخبری دینے والے نے آکر بتایا کہ آپ کے بیٹے یوسف علیہ السلام زندہ ہیں تو یعقوب علیہ السلام نے پہلی بات یہ پوچھی کہ تو نے انکو کس دین پر پایا اس نے کہا کہ میں نے انکو دین اسلام پر پایا یعقوب علیہ السلام فرمانے لگے [الآن تمت نعمة ربی] کہ میرے رب کی نعمت اب مجھ پر مکمل ہو گئی کہ میرا بیٹا بھی سلامت ہے اس کا دین بھی سلامت ہے، تو فراق میں لوگ روتے ہیں،

### صحابہ کا حضور کے فراق میں رونا

صحابہ کرام نبی علیہ السلام کے فراق میں رویا کرتے تھے چنانچہ سیدنا بلالؓ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے پردہ فرمایا تو انہوں نے دل میں سوچا کہ پہلے تو یہاں محبوب کا دیدار ہوتا تھا میں مسجد نبوی میں اذان دیتا تھا اب میں اگر محبوب کا دیدار نہیں کر سکوں گا تو میں برداشت نہیں کر سکوں گا چنانچہ انہوں نے ملک شام میں ہجرت فرمائی، پھر اسکے بعد انہوں نے اذان نہیں کہی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد حضرت بلالؓ نے صرف دو مرتبہ اذان دی ایک اذان تو جب بیت

المقدس فتح ہوا حضرت عمرؓ کے زمانہ میں، اس وقت صحابہ کا دل بچل اٹھا اور صحابہ کرام نے کہا امیر المؤمنین آپ بلالؓ سے کہئے یہ اللہ کے محبوب کے مؤذن تھے آج ذرا یاد تازہ ہو جائے اور بیت المقدس میں انکی اذان ہو جائے تو بلالؓ نے پہلے تو انکار فرمایا جب امیر المؤمنین نے حکم دیا اب انکار کی گنجائش نہیں تھی تو ایک تو انہوں نے قبلہ اول میں اذان دی نبی ﷺ کی وفات کے بعد پھر ایک مرتبہ شام میں رات کو سوئے ہوئے تھے نبی ﷺ کا دیدار ہوا تو محبوب نے فرمایا کہ بلال کتنی بے وفائی ہے اتنا عرصہ گزر گیا تم ہماری ملاقات کے لئے بھی نہیں آتے بس اس خواب کے آتے ہی اٹھ بیٹھے اپنی بیوی سے کہا کہ میری اونٹنی تیار کرو اور میں اب مدینہ جا رہا ہوں چنانچہ شام سے مدینہ طیبہ کا سفر کیا اب جب مدینہ طیبہ میں آئے تو نماز کا وقت بھی تھا صحابہ کرام کی چاہت تھی کہ ہم نبی ﷺ کے زمانہ کی اذان سنیں، محبوب کی یاد تازہ ہوا انہوں نے انکار فرما دیا چنانچہ سیدنا حسنؓ اور سیدنا حسینؓ دونوں شہزادوں نے اپنی تمنا ظاہر کی کہ ہمارا جی چاہتا ہے کہ ہے کہ اپنے نانا کے دور کی اذان سنیں اب شہزادوں کی خواہش تمنا ایسی تھی کہ اسکا انکار نہیں کر سکتے تھے چنانچہ کہنے لگے اچھا میں اذان دیتا ہوں بلالؓ نے اذان دینی شروع کی اب اچانک جب مدینہ میں صحابہ نے بلال کی آواز سنی جس آواز کو وہ دور نبی میں سنا کرتے تھے تو انکے دل میں نبی ﷺ کی یاد تازہ ہو گئی صحابہ کرام تو مرغ نیم نمل کی طرح رونے لگ گئے ایک آواز بلند ہوئی حدیث پاک کا مفہوم کہ مدینہ کی عورتیں وہ بھی اپنے گھر سے چادریں سر پر کر کے مسجد نبوی کی طرف بھاگیں اور اس وقت ایک عجیب کیفیت پیدا ہوئی کہ جب عورتیں بھی رو رہی تھیں مرد بھی رو رہے تھے ایک چھوٹے بچے نے جو ماں کے کندھے پر بیٹھا تھا اس نے بلالؓ کو دیکھا تو اپنی امی سے پوچھنے لگا امی بلال تو اتنے عرصہ کے بعد واپس آ گئے تم بتاؤ کہ نبی ﷺ کب واپس آئیں گے؟۔

کہتے ہیں کہ حضرت بلالؓ جب اشہدان محمد رسول اللہ پر پہنچے فلم

بقدر علیہ فسکت مغشیا علیہ جبالنبی ﷺ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکے  
نبی ﷺ کی محبت میں بے قرار ہو کر نیچے گر گئے [وشوقا الیہم واشتد عند ذلک  
بکاء اهل المدینہ من المهاجرین والانصار] مہاجرین اور انصار کی مدینہ میں  
اتنی آوازیں بلند ہوئیں [حتی خرجت النساء من خمورھن] حتی کہ عورتیں بھی  
اپنی چادریں لے کر پردہ کر کے گھروں سے نکل کر مسجد میں اذان سننے کے لئے  
آگئیں شوقا الی النبی ﷺ اب خشک ملا کو کیا پتہ کہ یہ رونا کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو وہی  
جانتا ہے جس کے دل میں لگی ہوتی ہے کہ نبی ﷺ کی محبت میں رونا کیا چیز ہوتی  
ہے، تو ایک رونے کی قسم ہے کسی کے فراق میں رونا۔

﴿۳﴾..... تلاوت قرآن میں رونا جو قرآن مجید کے مفہوم کو سمجھنے والے قرآن  
مجید کے معانی کے جاننے والے ہیں وہ جب اللہ رب العزت کے کلام کو پڑھتے ہیں  
تو کچھ جگہوں پر جا کر پھر وہ بے اختیار رو یا کرتے ہیں چنانچہ حدیث پاک میں ہے  
توجہ سے سنئے کہ تلاوت قرآن کے وقت جو شخص رو یا اللہ رب العزت کے اسکے لئے  
جنت کو واجب فرمادیتے ہیں اسی لئے حضرت ابوبکر صدیقؓ فرماتے تھے [فان لم  
تبکو افا لیتبا کوا] جب تم عذاب کی آیتوں کو پڑھو اگر رونہ سکو تو تم رونے والی شکل ہی  
بنالیا کرو، کیا پتہ اللہ کو تمہارا بہروپ ہی پسند آجائے۔

﴿۴﴾..... ایک چوتھی قسم کا رونا ہے گناہوں کو یاد کر کے رونا چنانچہ حدیث پاک میں  
آتا ہے توجہ سے سنئے اب یہ عاجز اپنے مضمون کو سمیٹنا چاہتا ہے حدیث پاک  
میں آیا من تذکر خطایاہ جس نے اپنے گناہوں کو یاد کیا وہ بکی عیناہ اور اسکی  
آنکھیں رو پڑیں رضی منہ اللہ تو اللہ رب العزت اس بندے سے راضی ہو جاتے  
ہیں۔

﴿۵﴾..... عشق الہی میں رونا، محبت الہی میں رونا، چنانچہ حدیث پاک میں  
آتا ہے [من بکی باشتیاق المولیٰ فلہ جنة الماویٰ] جو انسان اللہ کی  
یاد میں محبت میں روتا ہے اللہ رب العزت اسکو جنت ماویٰ عطا فرمادیتے ہیں

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو لسن ترانسی کا جب خطاب ہوا تھا کہتے ہیں اس کے بعد زندگی بھر کسی نے ہنسا ہوا نہیں دیکھا تھا، سیدہ خضہ ام المؤمنین فرماتی ہیں ایک مرتبہ نبی ﷺ میرے پاس آرام فرما رہے تھے اچانک میں نے اپنے رخسار پر کوئی گرم چیز مجسوس کی جب ہاتھ لگایا تو پانی! میں اٹھ بیٹھی تو کیا دیکھا نبی ﷺ رورہے تھے اور آپ کی مبارک آنکھوں کے جو گرم گرم آنسو تھے وہ میرے رخسار پر پڑ رہے تھے، کہتی ہیں میں نے اٹھتے ہی پوچھا اے اللہ کے محبوب آپ کیوں رورہے ہیں؟ آپ نے فرمایا خضہ تم سن نہیں رہی تمہارا بھائی تہجد میں کیا پڑھ رہا ہے؟ فرماتی ہیں تب میں نے دھیان دیا عبد اللہ ابن عمر میرے بھائی ساتھ والے کمرے میں تہجد پڑھ رہے تھے اور تہجد پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچے ﴿كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴾ کہ یہ کافر لوگ اللہ تعالیٰ سے پردے میں رہ جائیں گے تو محبوب نے یہ آیت سنی تو دل اللہ کی یاد میں اتنا تڑپ اٹھا کہ کچھ لوگ ہوں گے، جن کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار نہیں ہوگا، رونے لگے، اللہ ہمیں اپنا دیدار عطا فرمادے، تو فرماتی ہیں میں نے پوچھا آقا کوئی تکلیف ہے فرمایا نہیں میں نے کہا آقا آپ جنت کی یاد میں رورہے ہیں فرمایا نہیں میں نے پوچھا جہنم کی یاد سے رورہے ہیں فرمانے لگے نہیں میں نے پوچھا اے اللہ کے محبوب آخر کیوں رورہے ہیں؟ نبی ﷺ نے فرمایا کہ خضہ انا مشتاق میں اللہ کا مشتاق ہوں اور اس وقت میرے دل میں شوق بڑھ گیا اللہ کی ملاقات کا جس نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا۔

ساری چمک دمک تو انہیں موتیوں سے ہے  
آنسو نہ ہو تو عشق میں کچھ آبرو نہیں

آنسو نہ ہو تو پھر محبت کی قیمت ہی کیا رہ جاتی ہے، اسلئے حضرت شعیب علیہ السلام رب العزت کی محبت میں روئے فقال اللہ لہ ما هذا البكاء اللہ تعالیٰ نے پوچھا اے میرے پیارے پیغمبر ﷺ یہ رونا کیا ہے؟ أشوقا الى الجنة

کیا جنت کی یاد میں رورہے ہیں؟ ام خوفا من النار؟ یا آگ کے خوف سے رورہے ہیں فقال لایارب فرمانے لگے اے رب ایسا نہیں ولكن شوق الی لقائک بلکہ میں آپ کی ملاقات کے شوق میں رورہا ہوں فاوحی اللہ الیہ اللہ نے انکی طرف وحی نازل فرمائی اے شعیب میری محبت میں رونے کی وجہ سے آپ کو قیامت کے دن میری ملاقات کی بشارت نصیب ہو۔

### رونے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کی حالت

امام غزالیؒ لکھتے ہیں کہ تلاوت قرآن مجید کے وقت بعض صحابہ تو ایسے تھے کہ جن پر جھرجھری طاری ہو جاتی تھی ومنہم من بکی بعض ایسے تھے جو قرآن پڑھتے ہوئے رو پڑنے لگتے تھے ومنہم من غشیہ علیہ اور بعض ایسے تھے جو بے ہوش ہو جاتے تھے ومنہم من مات فی غشیہ اور بعض ایسے تھے اس بے ہوشی کے عالم میں انکی روح نکل جایا کرتی تھی۔

چنانچہ نبی ﷺ ایک مرتبہ تہجد پڑھ رہے تھے اور آپ کو پیچھے پتہ نہیں تھا ایک صحابی آئے اور انہوں نے پیچھے خاموشی سے نماز شروع کر دی عمرانؓ ان صحابی کا نام تھا نبی ﷺ نے جب قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے پڑھا جہنم کے بارے میں ﴿ان لدینا انکالاً وجحیماً وطعاماً ذاعصۃ وعذاباً الیماً﴾ وہ صحابی پیچھے گرے اور ان کی روح پرواز کر گئی جہنم کی تھکڑیوں کے بارے میں بیڑیوں کے بارے میں اس آیت کے اندر تذکرہ کیا گیا ہے،

چنانچہ ایک صحابی پڑھ رہے تھے جب اس آیت پر پہنچے ﴿فلنسلن الذین ارسل الیہم ولنسلن المرسلین﴾ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، چنانچہ سیدنا صدیق اکبرؓ جب نماز پڑھاتے تھے تو وہ بھی روتے تھے اس لئے جب آخری دنوں میں امام کس کو بنایا جائے اس کے بارے میں عائشہ صدیقہؓ سے مشورہ کیا گیا تو انہوں نے اسی لئے کہا تھا کہ

آپ میرے ابو کو امامت کے لئے نہ کہیں ﴿ان ابابکر اذا قام فی مقامک لم یسمع الناس عن البکاء﴾ کہ جب میرے والد آپ کے متصلے پر کھڑے ہوں گے اتنا روئیں گے لوگ انکی تلاوت بھی نہیں سن سکیں گے، چنانچہ عبداللہ ابن شدادؓ ایک صحابی ہیں وہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں نے مسجد نبوی میں نماز پڑھی عمرؓ نے پڑھائی اور میں آخری صفوں میں تھا فرماتے ہیں [سمعت نشیج عمرؓ وانا فی آخر الصفوف یقرأ انما اشکو بشی وحزنی الی اللہ] کہ انہوں نے سورہ یوسف کی آیت پڑھی انما اشکو بشی وحزنی الی اللہ تو اس وقت پڑھتے پڑھتے اتاروئے کہ مجھے آخری صف میں کھڑے ان کے رونے کی آواز آرہی تھی۔

دوستو! کوئی ہم نے بھی کبھی ایسی نماز پڑھی کہ جس نماز میں ہم تلاوت کرتے ہوئے روئے ہوں اللہ کی یاد میں روئے ہوں، اسلئے امام شافعیؒ نے جب آیت سنی ﴿ہذا یوم لا ینطقون ولا یؤذن لهم فیعترفون﴾ تو امام شافعیؒ اس آیت کو سن کر بے ہوش ہو گئے تھے، علی بن فضیلؒ نے آیت سنی ﴿یوم یقوم الناس لرب العلمین﴾ اس آیت کو پڑھ کر وہ بھی بے ہوش ہو گئے، سیدہ عائشہ صدیقہؓ ایک مرتبہ پوری رات اس آیت کو پڑھتی رہیں ﴿وبدالہم من اللہ مال یمکنو ینحسبون﴾ اور پڑھ پڑھ کر روئی رہیں چنانچہ شبلیؒ نے ایک قاری سے نماز میں جب آیت سنی ﴿لان شئنا لنذہبن بالذی اوحینا الیک﴾ تو اس آیت کو پڑھ کر وہ بے ہوش کر تراویح کی نماز میں نیچے گر گئے تھے۔

ناز ہے گل کو زناکت پہ چمن میں اے ذوق

اس نے دیکھے ہی نہیں ناز و زناکت والے

کون کب روتا ہے؟

آج ہمیں شعر سن کر رونا آ جاتا ہے شاعروں کے اشعار سن کر رونا آ جاتا ہے



اللہ کا قرآن سن کر رونا نہیں آتا، اس کی وجہ علماء نے لکھی ہے کہ جس کے دل میں مخلوق کا تعلق زیادہ مضبوط ہوگا وہ مخلوق کے کلام کو سن کر روئے گا اور جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کا تعلق غالب ہوگا وہ قرآن کو اور محبوب کے فرمان کو سن کر روئے گا، چنانچہ قرآن مجید گواہی دے رہا ہے ﴿وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ أَنْزَلَ إِلَيْهِمْ تَفِيضٌ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنْ الْحَقِّ﴾ صحابہ کرام کے بارے میں ہے کہ جب وہ سنتے تھے جو نبی ﷺ پر نازل ہوا تو انکی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہو جایا کرتی تھیں فتح الباری میں (بخاری شریف کی شرح) لکھا ہے کہ [يستحب البكاء مع القراءة] کہ جب قراءت کی جائے قرآن پڑھا جائے تو قرآن پڑھتے ہوئے رونا مستحب ہے وطریق تحصیلہ اور اس رونے کی کیفیت کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ان يحضر قلبه الحزن کہ اپنے دل میں حزن اور خوف کو حاضر کرے اور اگر پھر بھی رونا نہ آئے فانہ من اعظم المصائب تو پھر اس سے بڑی بندے پر کوئی مصیبت نہیں ہو سکتی۔

### کون کتنا روایا؟

..... حضرت آدم علیہ السلام اللہ رب العزت کے سامنے اپنی بھول پر تین سو سال تک روتے رہے۔

..... حضرت داؤد علیہ السلام چالیس سال تک روئے ہمارے اکابرین اللہ کے خوف سے روتے تھے۔

..... بنی بصری کے بارے میں آتا ہے کہ روتے تھے آنسو زمین پر گر کر لگ جاتے تھے اتنے آنسو زمین پر گرتے تھے کہ اس جگہ پر پانی کا وجہ سے گم ہو گیا آیا کرتی تھی۔

..... سدا بصریہ اللہ کی نیک بندی ایک مرتبہ مناجات میں روتی رہیں اور اپنے آنسو زمین پر پھیلتی رہیں جب مناجات کر کے اٹھیں تو آنے والے

بندے نے آکر پوچھا کہ آپ نے اس جگہ پر وضو کیا ہے آنسوؤں کا اتنا پانی تھا کہ دیکھنے والے نے اس کو وضو کا پانی سمجھا، وہ کہنے لگیں یہ تو رونے کے آنسو ہیں وہ کہنے لگے میں نے آنسوؤں کا پانی اس سے پہلے کبھی بہتے ہوئے نہیں دیکھا تھا، اسی لئے ایک مرتبہ ان کو کھانے کے لئے بھنا ہوا مرغ پیش کیا تو رابعہ بصریہ رونے لگ گئیں اس نے کہا اما اسمیں رونے کی بات کیا ہے کہنے لگیں رونے کی بات یہ ہے کہ اس مرغ کو پہلے ذبح کر کے جان نکالی گئی پھر آگ پر بھونا گیا اگر رابعہ کو قیامت کے دن معافی نہ ملی تو اسے تو زندہ حالت میں جہنم میں بھونا جائے گا، اسلئے علماء نے لکھا ہے کہ جو انسان دنیا میں گناہوں پر شرمندہ ہوگا اللہ رب العزت اس کو قیامت کے دن شرمندہ نہ فرمائیں گے۔

اجر عظیم

جو انسان دنیا میں اللہ رب العزت کی محبت میں روئے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اپنے دیدار سے محروم نہیں فرمائیں گے اسلئے آج کی یہ بڑی رات ہے ہمیں چاہئے ایک تو ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے روئیں معلوم نہیں کیسی کیسی خطائیں کی ہیں آج جہنم سے ہمیں پناہ مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرنی ہے اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا دیجئے آج کی اس بابرکت رات میں جہنم کی آگ ہم پر حرام فرما دیجئے اور دوسرے اللہ رب العزت کی محبت میں کہ اے اللہ ہم آپ سے آپ ہی کو چاہتے ہیں یہ لیلۃ القدر ہے اسمیں آپ کی اتنی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اے پروردگار ایک رحمت سے ہمارے نصیب کا بھی فیصلہ فرما دیجئے کہ ہمیں قیامت کے دن اپنے عاشقوں میں کھڑا کر دیجئے اپنے چاہنے والوں میں کھڑا کر لیجئے آج اللہ کی محبت میں جو بندہ روئے گا وہ قیامت کے دن اللہ کے دشمنوں میں کھڑا نہیں کیا جائے گا۔

عجیب بات

ہمارے حضرات دو باتیں کیا کرتے تھے اور دونوں باتیں بڑ عجیب ہیں ایک

بات تو یہ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اے اللہ آپ نے فرمایا کہ تم مجھ سے محبت کرو اور کفار سے تم دشمنی رکھو تو اے اللہ ہم نے تیرے لئے کفر سے اور کفار کے طریقوں سے دل میں عداوت پیدا کر لی اے اللہ ان دشمنوں کو اور ہمیں جہنم میں اکٹھا نہ فرما دینا، جب ہم نے آپ کی خاطر ان سے عداوت کی ہے ان کے طریقوں کو چھوڑ دیا اور آپ کے سامنے سر جھکا دیا اے اللہ آپ کیسے پسند فرمائیں گے کہ ان دشمنوں کے ساتھ ہمیں جہنم کی آگ میں اکٹھا فرمائیں!

..... اور ہمارے بعض علماء عجیب دعا فرماتے تھے کہتے ہیں کہ میدان عرفات میں ایک بزرگ یہ دعا کر رہے تھے دعا انہوں نے یہ کہ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ کافر لوگ قسم کھا کر کہتے تھے کہ آخرت میں دوبارہ اٹھنے والا عقیدہ غلط ہے اے اللہ کافر قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا غلط ہے اور اے پروردگار ہم قسم کھا کر کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ہم زندہ ہونگے آپ کے حضور پیش ہونگے انہوں نے بھی قسم کھائی ہم نے بھی قسم کھائی دو مختلف قسمیں کھانے والوں کو جہنم میں ایک جگہ پر اکٹھا نہ فرماتا۔

تو واقعی بات ایسی ہی ہے تو ہمیں بھی اپنے رب سے معافی مانگنی چاہئے اے اللہ! ہم آپ سے اپنے گناہوں کی سچی معافی مانگتے ہیں آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لیجئے اسلئے کہ ماں اسکو بیٹے سے اتنا پیار ہوتا ہے کہ اپنے بیٹے کے بارے میں کوئی لفظ بھی وہ کسی کی زبان سے برداشت نہیں کر سکتی اور اگر اسکے بیٹے کو کوئی بددعا دیدے تو بہ تو بہ وہ شیرنی کی طرح پیچھے پڑ جائے گی، تو ہوتی کون ہے میرے بیٹے کو بددعا دینے والی ماں بیٹے کی بددعا برداشت نہیں کر سکتی تو پھر اللہ کے محبوب نے اپنی امت کے لئے بددعا کیسے برداشت کی؟ حدیث پاک میں آتا ہے جبرئیل آئے اور انہوں نے آکر بددعا دی برباد ہو جائے وہ شخص جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کروائی اللہ کے محبوب نے اس بددعا پر آمین کہہ دی، جس محبوب

کو طائف کے سفر میں پتھر مارے گئے، جن کے ٹعلین مبارک خون سے بھر گئے اس وقت فرشتے آئے اور کہنے لگے اے اللہ کے محبوب آپ ارشاد فرما میں ہم پہاڑوں کو ٹکرا کر اس قوم کو مٹا کر رکھ دیں، محبوب نے اس وقت بددعا نہ کی فرمایا اللھم اھد قومی فانھم لا یعلمون اللہ میری قوم کو ہدایت دیجئے یہ میرے مرتبہ کو پہچانتے نہیں، تو اللہ کے محبوب نے نکلہ گولوگوں کے لئے اپنے امتیوں کے لئے مومنوں کے لئے آمین کیسے کہہ دی تو اسکا شارحین نے یہ جواب لکھا کہ حقیقت میں رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ بندے کو معاف کرنے پر تلے ہوتے ہیں جہنم سے نکالنے پر تلے ہوتے ہیں جو بندہ سچے دل سے معافی مانگ کر اپنے آپ کو اس موقع پر بھی نہ بخشوئے اس نے اللہ کی رحمت کی بے قدری کی اس بے قدرے بندے کا برباد ہو جانا ہی بہتر ہے، تو آج کی اس رات میں ہم اللہ رب العزت سے معافی مانگیں اے اللہ جہنم کی آگ سے ہمیں بری فرما دیجئے، میرے دوستو ہم عام بندے کی بددعاؤں سے بھی ڈرتے ہیں، سوچئے جبریل علیہ السلام نے بددعا کی اور اللہ کے محبوب نے آمین کہی، اب اس سے ڈرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ اس سے کیسے ڈریں گے اس سے ڈرنے کا یہی طریقہ ہے کہ آج کی اس رات میں ہم اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کو بخشوا کر اٹھیں، گھروں میں اکیلے مانگیں۔ گے تو پتہ نہیں رب معاف کریں گے یا نہیں کریں گے اور اتنے لوگ جو یہاں موجود ہیں کوئی تو اللہ کا مقبول بندہ ہوگا کسی کے دل میں تو خوف خدا ہوگا، کسی کے دل میں تو اللہ کی محبت ہوگی کسی کے دل میں تو حیا اور پاکدامنی ہوگی اتنے لوگ جو ہیں سجدے کرتے کرتے جنہوں نے اپنے بال سفید کر لئے کسی کا تو کوئی سجدہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، ان لوگوں میں اس بڑی رات میں جب اللہ ہمیں اکٹھا بیٹھے کی توفیق دی تو لگتا ہے کہ پروردگار کا ارادہ خیر کا ہے وہ ہمیں بخشا چاہتا ہے، ابھی تو آج اس مسجد میں پہنچا دیا لہذا اس دعا کے موقع پر ہم آج

دل میں عہد کر لیں ہم نے اپنے رب کو رورو کے منانا ہے، ہمیں کوئی احساس نہ ہو کہ ہمارے گرد کون بیٹھا ہے کون نہیں بیٹھا، ہمیں تو اپنی پڑی ہو آج ہم اپنے مالک کو منا کر اٹھیں گے، اس وقت تک دعا ختم نہیں کریں گے جب تک پروردگار ہمیں معاف نہ کر دیں، ہمارے گناہوں کا بوجھ ہمارے سر سے دور نہ کر دیں اور ہمیں محبوب کی بد دعا سے بچاؤ نصیب نہ ہو جائے ہمیں اللہ تعالیٰ جہنم سے بری نہ فرمادیں جب اس نیت سے اور جذبہ سے دعا مانگیں گے تو آج کی رات کی برکتیں ہمیں نصیب ہوگی پروردگار ہم سب کی بخشش فرمائے اور آج کی اس عظیم رات میں اللہ تعالیٰ بخشے بخشائے سب لوگوں کو اپنے گھروں میں واپس لوٹائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

﴿وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ  
فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا﴾

## نیکی کا دنیا میں فائدہ

از افادات

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم  
(نقشبندی مجددی)

در حالت اعتکاف مسجد نور لوسا کا (زambia) بعد نماز عشاء ۲۰۰۳ء

## فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۱۹۲	اعمال سے احوال بنتے ہیں	۱
۱۹۳	روح و جسم کی غذا میں	۲
۱۹۴	سائنس دانوں کی تحقیق	۳
۱۹۵	رزق رزاق کے ذمے	۴
۱۹۵	وہیل پھل کی غذا	۵
۱۹۶	قصہ ایک پتھر کا	۶
۱۹۶	کتے کا ایک عجیب واقعہ	۷
۱۹۸	ایک دانے کا عجیب سفر	۸
۱۹۹	بھوکے نہ جوان کا واقعہ	۹
۲۰۱	رزق کا حامل	۱۰
۲۰۲	رزق کا تعلق مقدر سے ہے	۱۱
۲۰۵	رزق کے اندر برکت کیسے ہو؟	۱۲
۲۰۸	امام زین العابدین کا واقعہ	۱۳
۲۰۹	احسان کا ایک واقعہ	۱۴
۲۱۰	اعمال صالح کا مزید فائدہ	۱۵
۲۱۱	برکت کا عجیب واقعہ	۱۶
۲۱۲	نبی ﷺ کی زندگی میں برکت	۱۷
۲۱۶	برکت کا مفہوم	۱۸
۲۱۷	نبی کے دنیا میں چھ مزید فائدے	۱۹
۲۱۷	ایک واقعہ	۲۰
۲۴۰	مرادیں پوری ہونے کا واقعہ	۲۱
۲۴۲	اعمال صالح کی تاثیر	۲۲
۲۴۳	استغفار پڑھنے میں کوتاہی	۲۳
۲۴۵	ایک عجیب بات	۲۴
۲۴۶	حضرت احمد علی لاہوری کا واقعہ	۲۵
۲۴۷	حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غنا	۲۶
۲۴۹	حضرت محمد ﷺ کا خواب	۲۷
۲۴۳	عمر بن عبد العزیز کی اولاد	۲۸
۲۴۳	ہر سال حقیقہ	۲۹
۲۴۵	ایک نوجوان کا قصہ	۳۰
۲۵۱	بڑی موت سے حفاظت	۳۱

اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

## اقتباس

صدقہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں  
نبی ﷺ نے قسم اٹھا کر یہ بات حدیث پاک میں فرمائی (صدقہ  
کرنے سے رزق بڑھتا ہے) اگر اللہ کے محبوب ویسے ہی بات  
کر دیتے اس صادق و امین کی یہ بات سچی تھی مگر انہوں نے قسم  
کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے آدمی کے رزق کے اندر کمی نہیں آتی  
اللہ تعالیٰ برکت عطا فرما دیتے ہیں۔

﴿حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدظلہ﴾



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ !

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ﴿وَمَنْ ارَادَ الْاٰخِرَةَ وَسَعٰی لَهَا سَعِیْهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَاُولٰٓئِكَ كَانَ

سَعِیْهُمْ مَشْكُوْرًا﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

## اعمال سے احوال بنتے ہیں

انسان کے اعمال پر انسان کے حالات کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اگر اعمال اچھے ہوں تو اللہ تعالیٰ حالات کو اچھا کر دیتے ہیں، اعمال برے ہوں تو اللہ تعالیٰ حالات کو برا کر دیتے ہیں، اسی لئے فرمایا گیا اعمالکم غمّالکم تمہارے اعمال ہی تمہارے حاکم ہیں، جیسے عمل ہوں گے ویسے حاکم ہوں گے، آج کا انسان یہ چاہتا ہے کہ حالات پہلے ٹھیک ہوں عمل میں بعد میں ٹھیک کروں گا، یہ خدائی ترتیب کو الٹنے والی بات ہے، ایک ترتیب ہوتی ہے گھوڑا آگے ہوتا ہے اور تاں گا پیچھے ہوتا ہے، ہم اپنے اعمال کو پہلے سنواریں پروردگار ہمارے حالات کو سنوار دیں گے، اکثر سنا گیا بلکہ پوچھا کہ بھی آپ مسجد میں نہیں آتے؟ جی بس کچھ کام کاروبار ٹھیک نہیں ذرا ٹھیک ہو جائے گا، آجاؤں گا، یعنی پہلے حالات ٹھیک ہوں بعد میں میں اعمال کو ٹھیک کروں گا، ہم الٹی ترتیب چلنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہوتا، چنانچہ جو لوگ اپنے اعمال کو درست کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انکے حالات کو

کو بھی درست کر دیتا ہے، نیک اعمال کے آخرت میں تو فائدے ہو گئے ہی نیک اعمال کے دنیا میں بھی بہت فائدے ہیں اگر ہم پر یہ بات کھل جائے کہ نیک اعمال کے دنیا میں کیا فائدے ہیں تو ہم تو نیک اعمال کے پیچھے بھاگنے والے بن جائیں، صحیح بات ہے ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، یہ اللہ والے یہ بڑے دانا لوگ ہیں ایسے راستے کو انہوں نے چنا کہ جس راستے پر کامیابی ہی کامیابی ہے

یہ بازی عشق کی بازی ہے

جو چاہو لگا دو ڈرکیا

گر جیت گئے تو کیا کہنے

گر ہار گئے تو مات نہیں

کہ گراس راستے میں جیت گئے تو پھر تو بات ہی کیا ہے ہار بھی گئے تو شکست نہیں ہے، کامیابی ہی کامیابی ہے۔

## روح و جسم کی غذا میں

☆..... اعمال صالح کے دنیاوی فائدوں میں سے ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق میں اضافہ فرما دیتے ہیں، قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ﴿لَا تَكُلُوا مِمَّا فَوْقَ قُلُوبِكُمْ﴾ اور تقویٰ کو اختیار کریں ہم انکو وہ نعمتیں کھلائیں جو اوپر سے اتارتے ہیں اور وہ نعمتیں عطا کریں جو پاؤں کے نیچے زمین سے نکالتے ہیں۔

انسان دو چیزوں کا نام ہے ایک جسم اور ایک روح، جسم مٹی سے بنا جسم کی جتنی بھی ضروریات ہیں وہ مٹی سے نکلتی ہیں، پانی مٹی سے نکلتا ہے، سبزیاں پھل زمین سے نکلتے ہیں، لباس بنانے کے لئے فصلیں زمین سے نکلتی ہیں، مکان بنانے کے لئے جتنی بھی معدنیات ہیں وہ زمین سے نکلتی ہیں، تو بدن کی جتنی بھی ضروریات ہیں اللہ تعالیٰ نے انکو زمین میں رکھ دیا ہے، روح عالم امر سے آئی

ہوئی ایک چیز ہے اس روح کی غذا بھی اوپر سے آئے والے انوار و تجلیات ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے اگر تم تقویٰ اختیار کرو گے ہم تمہارے اوپر نور کی بارش برسا سکیں گے، جو تمہاری روحانی غذا بنے گی اور زمین سے تمہارے لئے وہ نعمتیں نکالیں گے جو تمہاری جسمانی غذا بن جائے گی، تم بس کرو گے ہم تمہیں اتنا عطا کریں گے۔

اب دیکھو کہ آدم علیہ السلام کے زمانہ میں تھوڑے لگ تھے بڑھتے گئے بڑھتے گئے آج کھربوں کی تعداد میں لوگ ہیں، تو زمین میں کچھ کم ہوا؟ کوئی کسان کہتا ہے کہ جی اب میری زمین نے فصل اگانی چھوڑ دی، بیج ڈالتا ہے زمین نے فصل نکال دی اور ابھی زمین کو پتہ ہی نہیں کہ کچھ نکلا بھی ہے یا نہیں واہ میرے مولیٰ آپ نے کتنی برکت زمین میں رکھ دی، اربوں انسان روزانہ ان نعمتوں کو کھا رہے ہیں اور زمین کے اندر کے خزانوں کو بھی پتہ نہیں اسلئے زمین کو بنانے میں دو دن لگے تھے اور انسان کے لئے اس میں غذائیں رکھنے میں چار دن لگے تھے وبارک فیہا فی اربعۃ ایام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ چار دنوں میں ہم نے تمہارے لئے برکتیں رکھیں۔

## سائنس دانوں کی تحقیق

چنانچہ آج سائنس دانوں نے یہ بات لکھی کہ اگرہ زمین سے سبزی لیں یا پھل لیں اور باقی زمین سے جو نکلتا ہے وہ زمین کو واپس دیدیں تو ہمیں انسان کی بنی ہوئی کھادوں کی پوری عمر ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے وہ کہتے ہیں سبزی اور پھل انسان کے لئے ہے اور باقی جو کچھ ہے وہ تو زمین ہی میں رہنا چاہئے، تو اگر وہ واپس زمین میں ڈال دیا جائے تو اس میں اتنی فرٹیلائزر ہوتی ہے کہ انسان کو آرتھروفیشنل فرٹیلائزر کی کبھی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، اللہ تعالیٰ نے دیکھوا انسان کے لئے زمین میں کیا کچھ رکھ دیا ہے۔

## رزق رزاق کے ذمے

یہ رزق کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے لیا اللہ تعالیٰ رزق پہنچا کر رہتے ہیں یہ بکی سچی بات ہے ﴿وَمَنْ دَابَّ فِي الْأَرْضِ الْأَعْلَىٰ اللَّهُ رِزْقَهَا﴾ زمین میں جو بھی کوئی جا انداز ہے اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ رزق پہنچاتے ہیں، سمندر میں مچھلیوں کو، ہوا میں پرندوں کو اور زمین پر انسان کو ہر ایک کو اس کا رزق پہنچتا ہے اچھا انسان تو پھر بھی جمع کر کے رکھتا ہے لیکن پرندے کو نہ جمع کرتے ہیں کوئی ہے پرندہ جو اپنے گھونسلے میں جمع کر کے رکھتا ہو؟ کوئی نہیں رکھتا روز اللہ تو کل نکلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ روز انکو رزق عطا فرمادیتے ہیں۔

پلے رزق نہ بندے کچھونہ درویش

جنا تکیا ر بدانا رزق ہمیش

کہ درویش اور پرندے یہ اپنے پلے رزق نہیں باندھا کرتے جن کو اللہ پر توکل ہوتا ہے انکو رزق ہمیشہ ملا کرتا ہے، روز اللہ انکو عطا فرماتے ہیں رزق کا معاملہ ایسا ہے بلوں میں چونیوں کو رزق دیتا ہے پانی کے اندر مچھلیوں کو رزق دیتا ہے۔

## وہیل مچھلی کی غذا

ہم سمجھتے تھے یہ جو بڑی بڑی وہیل مچھلیاں ہوتی ہیں، یہ بڑی بڑی مچھلیوں کو کھاتی ہوں گی اور ٹنوں کے حساب سے یہ گوشت کھاتی ہوں گی، تب انکا کام چلتا ہوگا، لیکن جب پڑھا تو پتہ چلا کہ نہیں انکی غذا پانی کے اندر چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں جو ہمیں آنکھ سے نظر بھی نہیں آتے یہ پانی اپنے اندر لیتی ہیں اور وہ چھوٹے چھوٹے ذرات فلٹر کر کے پانی نکال دیتی ہیں ذرات ٹنوں کے حساب سے انکی غذا بن جاتے ہیں ہم نے ایک مضمون پڑھا کہ جب بلو وہیل پیدا ہوتی

ہے تو اسکی زندگی میں ایسے دن آتے ہیں کہ 500 kg اسکا وزن روزانہ بڑھتا ہے اب بتائیے کہ جس کا فائو ہنڈ ریڈ روزانہ وزن بڑھ رہا ہے اسکی خوراک کتنی ہوگی اور وہ خوراک کیا؟ کہ ہمیں پانی میں نظر ہی نہیں آتی واہ میرے مولیٰ رزق کا بندوبست پروردگار نے کر دیا ہے۔

## قصہ ایک پتھر کا

ہمارے ایک دوست ڈاکٹر صاحب تھے وہ اپنی فیملی کے ساتھ پہاڑی علاقہ میں گھومنے پھرنے گئے، ایک پہاڑ پر گول خوبصورت سا پتھر تھا اس پر جب انکی نظر پڑی تو انکی بیٹی نے کہا کہ مئی وہ پتھر دیکھو جیسے ہمارے ڈرائنگ روم کا کالر ہے بالکل اس سے میچ کرتا ہے، ماں نے کہا بیٹی اٹھالو، وہ گول سا پتھر تھا چھوٹا سا انہوں نے اٹھالیا انکی بیوی نے کہا کہ ہم سفر کی یادگار کے طور پر اسکو ڈرائنگ روم میں رکھیں گے، دو سال وہ پتھر انکے ڈرائنگ روم میں رہا ایک دن انکی بیوی صفائی کر رہی تھی، خود اس نے جو پتھر کو اٹھایا تو وہ پتھر اسکے ہاتھ سے پھسلا اور فرش کے اوپر گر کے دو ٹکڑے ہو گیا، اس نے دیکھا کہ اسکے اندر ایک سوراخ ہے امیں سے ایک کیڑا نکل کر زمین پر چل رہا ہے، حیران ہوئی کہ دو سال سے یہ پتھر ہمارے گھر پر ہے، اے مالک تو کتنا بڑا ہے کہ بند پتھروں میں بھی تو کیڑوں کو غذا پہنچا دیتا ہے، لہذا یہ حقیقت ہے کہ رزق جس کا ہوا سکول کر رہتا ہے۔

## کتے کا ایک عجیب واقعہ

ایک دفعہ ہمیں سفر کرنا تھا، گرمی کا موسم تھا، میں نے گاڑی چلانے والے بندے سے کہہ دیا کہ بھی صبح ذرا جلدی نکلیں گے، تاکہ دھوپ نکلنے سے پہلے پہلے کوئی چار پانچ گھنٹے کا سفر ہے یہ مکمل کر لیں، لاہور سے خانیوال جانا تھا، اس نے کہا بہت اچھا اب اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کی صبح صبح تو سڑکیں خالی ہوتی ہیں اور سڑک بنی ہوئی بھی اچھی تھی، تو ڈرائیور سفر طے کرنے کے شوق میں ذرا

تیزی سے طے کر رہا تھا یہ عاجز پیچھے بیٹھا کسی کتاب کا مطالعہ کر رہا تھا اچانک اس ڈرائیور نے زور کی بریک لگائی، تو جیسے کوئی چیز گاڑی کے ساتھ ٹکرائی ہے ایسے فرنٹ پر ذرا ٹکرائی بھی ہمیں اسکی آوازی آئی میں نے اس سے پوچھا کہ بھی کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ حضرت بس کتا آگے آگیا تھا میں نے بچانے کی بڑی کوشش کی مگر لگتا ہے وہ نیچے آگیا، میں نے کہا کہ مجھے لگتا ہے رات کو آپ نے نیند ہی نہیں پوری کی آپکو نیند آرہی ہے میں نے آپکو پہلے بھی سمجھایا تھا کہ جب صبح سفر پر نکلنا ہو تو رات نیند پوری کر لیا کرو، اچھا ایسا کریں کہ آگے آپ کو کوئی ہوٹل ملے تو ذرا روکنا میرا، کیوڈرا یور کپ چائے پلاتا ہوں، تاکہ آپکی نیند ٹھیک ہو جائے، خیر اس نے پھر گاڑی بھگانی شروع کر دی تیس یا پینتیس میل گاڑی چلی اور پینتیس میل جانے کے بعد ایک ریسٹورینٹ تھا سڑک کے بالکل اوپر اس نے وہاں جا کر گاڑی روکی، میں نے اس سے کہا آپ چائے پیئیں، میرے دل میں خیال آیا پتہ نہیں آگے کوئی چیز لگی تھی ڈینٹ پڑ گیا ہوگا میں ذرا دیکھوں، تو اس عاجز نے نیچے اتر کر فرنٹ پر آ کر دیکھا تو حیران رہ گیا کہ آگے کے بمپر کے اوپر وہ کتا آرام سے بیٹھا ہے، یا اللہ پینتیس کلومیٹر ہم نے تیز رفتار سے سفر کیا ایک سو بیس تیس چالیس پر گاڑی تھی اور کتا یوں بیٹھا ہے، اب میں نے جو کتے کو قریب سے دیکھا اس نے بھی دیکھا اس نے محسوس کیا کہ گاڑی تو بند ہے، اب وہ آہستہ سے نیچے اتر ایک میٹر کے فاصلہ پر ہوٹل والوں نے ہڈیوں کا ڈھیر لگایا ہوا تھا اس نے آرام سے ہڈیاں کھانی شروع کر دیں، میں نے کہا اللہ بس اب بات سمجھ میں آگئی اصل میں اس کا رزق آپ نے یہاں رکھا ہوا تھا اور کتے کے اندر اتنی استطاعت نہیں تھی کہ یہ چند منٹ میں اتنا فاصلہ طے کرتا اللہ نے ہماری گاڑی کو اسکی سواری بنا دیا اصل میں ہوا یہ کہ ادھر ڈرائیور نے بریک لگائی اور ادھر اس کتے نے جمپ لگایا تو گاڑی ذرا جہاں آہستہ ہوئی وہ بمپر کے اوپر آ کر بڑا اور وہیں بیٹھ گیا پینتیس کلومیٹر

کاسفر اللہ نے کروادیا بغیر ٹکٹ کے، رزق کا معاملہ اللہ کے اختیار میں ہے وہ ہڈیاں تھیں اس کا رزق اس نے کھانا تھا اللہ تعالیٰ نے اسکو پہنچا دیا۔

## ایک دانے کا عجیب سفر

ایک صاحب ”کونڈ“ (پالستان کا ایک شہر) میں تھے انکا بیٹا تھا کوئی سات آٹھ سال کا اب یہ بچے چھوٹے جو ہوتے ہیں یہ کوئی نہ کوئی الٹی سیدھی حرکت کرتے رہتے ہیں، مشہور ہے، ب بکری، ب بندر، ب بچہ یہ تینوں کچھ نہ کچھ کرتے ہی رہتے ہیں، آرام نہیں ہے انکو، وہ بیٹھا ہوا اپنے کھار ہا تھا اور وہ بھی کیسے ہاتھ سے اٹھا کر اچھالتا اور پھر منہ سے کچ کر تا پھر اچھالتا کچ کر تا اللہ تعالیٰ کی شان کہ بے دھیانی میں جو اس نے دانہ پھینکا وہ سیدھا ناک کے اندر چلا گیا اب اس نے جلدی سے انگلی لگائی تو اور اندر پھنس گیا اب وہ ماں کے پاس آیا امی یہ ہو گیا ہے، اب ماں سمجھ دار تھی وہ کہنے لگی اس نے پہلے سے اتنا آگے پہنچا دیا اگر میں نے کوشش کی تو ایسا نہ ہو کہ یہ اور اندر چلا جائے زخم ہو جائے مگر عجیب اللہ تعالیٰ کی شان کہ اسی دن انہوں نے لاہور آنا تھا اپنے کسی عزیز کی شادی کے سلسلہ میں اور سوا گھنٹہ فلائٹ میں باقی رہ گیا تھا بس ابھی وہ ماں اس سے بات کر رہی تھی اتنے میں خاوند گھر آیا کہنے لگا مجھے دفتر سے آتے ہوئے دیر ہو گئی جلدی سے اب سامان اٹھاؤ چونکہ پندرہ منٹ ایرپورٹ پر پہنچنے میں لگیں گے اور گھنٹہ پہلے رپورٹ کرنی ہوتی ہے اور میں فلائٹ مس کرنا نہیں چاہتا اور بنگ ہے، اس کی بیوی نے کہا جی اس کے ساتھ تو یہ ہو گیا ہے، اس نے کہا اسکی شرارت کا نتیجہ ہے، اب یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ برداشت کرے، ہم وہاں لاہور پہنچ جائیں گے تو وہاں جا کر ہمارے ایک کزن ڈاکٹر ہیں سرجن ہیں ان سے یہ نکلوائیں گے، بچے کو ماں نے سمجھایا بیٹا گھنٹہ ڈیڑھ کی بات ہے تو اس کو برداشت کر لے وہاں جا کر نکلوائیں گے، یہ لاہور پہنچ گئے اس سے آگے جس

شہر پہنچنا تھا سامان رکھا اس نے بچے کو لیا اور اپنے کزن کے گھر جا پہنچا، جب وہاں پر پہنچا تو کزن با تھروم میں نہار ہا تھا اسکی بیوی نے اسکو بٹھایا، ڈرائنگ روم میں اور کہا جی بس جیسے ہی وہ واش روم سے باہر آتے ہیں ابھی آپ کے پاس آئیں گے، آپ بیٹھیں میں کچن میں چائے بناتی ہوں وہ چائے بنانے چلی گئی یہ انتظار میں بیٹھ گئے اتنے میں اس بچے کو چھینک آئی اور چھینک ایسی زور کی تھی کہ ناک میں سے وہ دانہ فرش پر گر کر، ڈاکٹر صاحب کے یہاں ایک مرغی تھی وہ قریب پھر رہی تھی اس نے دانے کو کھا لیا

اب دیکھئے وہ دانہ اس مرغی کی غذا تھی اب وہ ہزار میل سے زیادہ دور کیسے پہنچے؟ اللہ نے اسکو پہنچانے والا بنا دیا واہ، میرے مالک، یاد رکھیں اگر کسی پہاڑ کے نیچے کوئی دانہ ہو اور وہ کسی کا رزق ہے تو بندہ جب تک اس رزق کو نہیں کھالے گا تب تک اسکو موت نہیں آسکتی، اس بارے میں اپنے رب پر یقین پکا کر لیجئے کہ جو میرے مقدر میں ہے پروردگار نے مجھے پہنچانا ہے ﴿نحن قسمنا بینہم معیشتہم﴾ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رزق تو ہم نے تقسیم کیا ہے اللہ رب العزت پہنچا دیتے ہیں۔

### بھوکے نوجوان کا واقعہ

ایک مسجد کے عالم نے مسئلہ بیان کیا کہ بھئی جس کا رزق ہوا اسکو ضرور پہنچ کر رہتا ہے، ایک نوجوان ان پڑھ دیہاتی تھا اس نے کہا یا راسکو آزماتے ہیں کہ میں جب نہیں کھاتا تو مجھے رزق کیسے پہنچے گا؟ اس نے کھانے پینے سے ہڑتال کر ڈالی، ماں نے اسکے بریانی بنائی، بیٹے کھالے کہا میں نے نہیں کھانا، ماں نے بہت سمجھایا وہ ماسا ہی نہیں تھا، اللہ کی شان دو پہر کا وقت ہو گیا ماں منت سماجت کرتی رہی کرتی رہی، جب اس نے دیکھا کہ ماں مجھ پر بہت ہی زیادہ زور ڈال رہی ہے، تو وہاں سے اٹھ کر بستی کے قریب کھلی سی جگہ تھی درخت تھے



وہاں جا کر آرام کرنے لگا وہاں جا کے درختوں کے درمیان سو گیا، اب ماں بیچاری اسکے پیچھے ناشتہ لے کے چلتی رہی وہ بھی وہیں پہنچ گئی بیٹے کچھ کھالے؟ اس نے کہا امی مجھے آپ مجبور نہ کریں میں نے نہیں کھانا، خیر اسکے کاموں میں دیر ہو رہی تھی اسکا کھانا وہیں رکھ دیا اور آگنی اب اسکو بھی گرم گرم مہک آرہی تھی کھانے کی اور اس کا جی بھی چاہ رہا تھا، وہ اٹھ کر تھوڑا دور لیٹ گیا تھوڑا اور آگے کہ مجھے کھانے کی خوشبو ہی نہ آئے اللہ تعالیٰ کی شان کہ کچھ لوگ چور تھے وہ دوپہر کے وقت جب گرمی کی شدت ہوتی اور لوگ گھروں میں دیک کر بیٹھ جاتے اس وقت وہاں بیٹھ کر پلاننگ کرتے تھے، اب جب وہاں پہنچے ان میں سے جو ایک نے کھانے کی مہک سونگھی تو کہنے لگا یا رب یہ تو بڑا مزیدار کھانا ہے، وہ اٹھا کر لے آیا، انکا جو بڑا تھا وہ سمجھدار تھا، وہ کہنے لگا نہیں! مت کھانا، ہو سکتا ہے کسی نے اکمیں زہر ملایا ہو اور ہمارے لئے ہلاکت ہو، اس نے کہا کون ملا سکتا ہے کہنے لگا اچھا جس نے ملایا ہو گا وہ قریب ہی ہو گا کہیں، ذرا دیکھو اب وہ جو ادھر چلے تو یہ صاحب پڑے ہوئے مل گئے، انہوں نے انکو پکڑ لیا اور کہنے لگے اچھا مکاری کرتا ہے، چل کھا اس کھانے کو وہ کہتا کہ جی میں نہیں کھاتا، اب انکو پکا یقین ہو گیا کہ اس نے ہی کچھ ملایا ہے، وہ کہنے لگے کہ کھا کہتا ہے میں نہیں کھاتا، اب انہوں نے جوتے اتارے اور اسکے لگانے شروع کر دئے خوب جوتے مارے جب نکا کے اسکی پٹائی کی تو چوروں کے سردار نے کہا کہ زبردستی اسکے منہ میں ڈالو اب ایک نے اس کا منہ کھولا دوسرے نے زبردستی لقمہ ڈالا، تیسرے نے جوتے لگائے، جب لقمہ اندر گیا کہنے لگا مار نہیں میں تمہیں بتا دیتا ہوں، کہا بات کیا ہے؟ کہنے لگا جی اصل وجہ تو یہ تھی اس میں کوئی زہر نہیں ہے، بہر حال آپ لوگوں نے جتنا مار لیا اتنا ہی کافی ہے خدا کے واسطے اور کچھ نہ کہو خیر انہوں نے چھوڑ دیا اب یہ گھر آ گیا روٹی کھانی شروع کر دی جب اگلا جمعہ کا دن آیا تو مولانا صاحب نے پھر آگے اپنا مسئلہ چھیڑا مزید آیتیں

اور حدیثیں بتائیں یہ غور سے سنتا رہا جب جمعہ پڑھ لیا تو اٹھا اور مولانا صاحب سے آکر ملا کہتا ہے مولانا صاحب آپ مسئلہ ادھورا بیان نہ کیا کریں، انہوں نے کہا کیا مطلب؟ کہنے لگا کہ آپ نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جس کا رزق ہوتا ہے اسکو پہنچ کے رہتا ہے یہ ادھورا ہے، پورا مسئلہ یہ ہے کہ جس کا رزق ہوتا ہے اسکو پہنچ کے رہتا ہے اور اگر نہیں لیتا تو جوتے کھا کر لینا پڑتا ہے، واہ میرے مولیٰ! آپ کیسے دینے والے رزاق ہیں کیسے پہنچانے والے رزاق ہیں اللہ رب العزت نے رزق کا ذمہ لیا ہے۔

## رزق کا معاملہ

یاد رکھنا کہ جب بندہ اس رزق کو نیکی کے کام میں استعمال کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکت دیدیتے ہیں۔

اس وقت کی بات ہے جب ڈالر آٹھ روپے کا ہوتا تھا اب تو ساٹھ روپے کا ہے، ہم لوگ کراچی میں گزر رہے تھے کہ ہمیں ایک ریڈھی کے اوپر ایک آدمی دال سوئیاں بیچنے والا ملا، جو میرے ساتھی تھے وہ کہنے لگے یہاں سے کچھ لے لیتے ہیں اور جہاں جا رہے ہیں انکے پاس بیٹھ کھائیں گے طالب علمی کا زمانہ تھا ہم نے کہا بہت اچھا لے لو، اس نے کچھ دال سوئیاں لے لیں، میں نے اس آدمی سے پوچھا کہ بھئی آپ یہ دال سوئیاں بیچتے ہیں تو ایک دن میں آپ کی کتنی بک جاتی ہیں وہ مجھے کہنے لگا جی اللہ کا بڑا کرم ہے، یہ وہ وقت تھا کہ جب انجینیر کی تنخواہ ایک مہینہ کی ایک سو پچاس روپے ہوتی تھی اڑھائی سو روپے ہو گئی پھر تین سو روپے ہو گئی، ہم بڑے حیران ہوتے تھے اتنی تنخواہ انجینیر کی بڑھ گئی تین سو روپے ہو گئے، تو جب اس سے پوچھا کہنے لگا جی الحمد للہ روزانہ اس ریڈھی سے چھ ہزار روپے کی دال سوئیاں بیچتا ہوں، جب انجینیر کی تنخواہ ایک ہزار سے کم تھی مہینہ کی دال سوئیاں بیچنے والا ریڈھی کے ذریعہ سے چھ ہزار کی روز بیچا کرتا

تھا، رزق کی کنجیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔

ہماری جماعت کے ایک دوست ہیں انہوں نے ایک خط لکھا کہ حضرت جب سے میں نے نیکی اختیار کی، اللہ نے رزق میں بہت برکت دیدی ہے پھر عجیب بات تو یہ لکھتا ہے کہ میرا چائے کا کھوکھا ہے، حضرت چائے کے اس کھوکھے میں روزانہ بارہ ہزار روپیے کما کر اٹھتا ہوں بارہ ہزار آج تنخواہ نہیں ہے کسی اسکول کے نیچر کی، وہ ان پڑھ بندہ ہے اور روزانہ چائے کے کھوکھے سے بارہ ہزار روپے لے کر اٹھتا ہے۔

## رزق کا تعلق مقدر سے ہے

چنانچہ ایک آدمی ملا کہنے لگا جی شروع میں میرا رزق بہت ہی تھوڑا تھا دعائیں مانگتا تھا کوئی اللہ والے میرے گھر آئے اور انہوں نے دعا دیدی اس دعا کا نتیجہ نکلا کہ اللہ رب العزت نے میری سپاری چلا دی کہنے لگا اگر اس وقت میں دیکھنا چاہوں کہ میرے پیسے کتنے ہیں تو مجھے اپنے اکاؤنٹ معلوم کرنے میں ایک مہینہ لگ سکتا ہے، اصل میں رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ! کئی لکھے پڑھے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہیں نوکری نہیں ملتی دھکے کھاتے پھرتے ہیں، چنانچہ ہمارے بھائی جان کا ایک شاگرد تھا اس نے میٹرک کا امتحان دیا اور پھر چلا گیا کئی سالوں کے بعد آکر ان کو ملا کہا استاذ جی! السلام علیکم، وعلیکم السلام بھی کیا ہوا؟ آپ تو کئی سالوں کے بعد ملے، کہنے لگا جی بس مجھ پر اللہ کا کرم ہوا استاذ جی میں نے میٹرک کا امتحان دیا الحمد للہ میں فیل ہو گیا، وہ بڑے حیران کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہنے لگا استاذ جی مجھ پر اللہ کا فضل ہوا میں نے میٹرک کا امتحان دیا اور الحمد للہ میں فیل ہو گیا، پھر کہنے لگا جی میں یہاں سے فیصل آباد چلا گیا شرم کے مارے، رشتہ دار کیا کہیں گے، گھر والے کیا کہیں گے وہاں جا کر میں نے ایک ریڈھی لگائی اور اسکے اوپر بنیان جرائیں نیچنی شروع کر دیں روز کے سو پچاس مل جاتے

تھے، پھر میرے پاس کچھ پیسے ہو گئے ایک دوکاندار تھا اسکے دروازے پر میں نے ایک گز کی جگہ لے لی کہ بجائے سارا دن گھومنے پھرنے کے بیٹھ کر کام کروں وہ کرائے پر لے کر میں نے وہاں کچھ تولے اور چیزیں بیچنی شروع کر دیں کہنے لگا اللہ نے اس میں بھی برکت دیدی پھر آہستہ آہستہ میں نے ایک دوکان کرائے پر لے لی اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے برکت دیدی کہنے لگا کہ مجھے چار سال گزرے ہیں اور چار سال میں میں فیصل آباد میں تھوک کی کپڑے کی دو دوکانوں کا مالک بنا ہوا ہوں، یعنی ہول سیل کی کپڑے کی دو دکانیں ہیں اور مجھ پر کوئی قرض نہیں، کہنے لگا استاذ جی اگر میں میٹرک میں پاس ہو جاتا تو کہیں ملازمت پر لگ جاتا شکر ہے میں فیل ہو گیا اللہ نے مجھے اس وقت اتنا بڑا بزنس مین بنا دیا ہے، تو دوستو پروردگار نے رزق پہنچانا ہے پڑھے لکھے منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں اللہ ان پڑھوں کو رزق عطا کر دیتا ہے، بھی اس کا تعلق نہ عقل سے ہے نہ شکل سے ہے نہ خاندان سے ہے اس کا تعلق بندے کی قسمت سے ہے، مقدر سے ہے ﴿وَنَحْنُ قَسَمًا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ﴾ اس لئے جو بندہ ضرورت سے زیادہ اسامٹ بننے کی کوشش کرتا ہے اس کا بزنس پھر نیچے آتا ہے، ہم نے کتنوں کو اپنی زندگی میں ڈوبتے دیکھا، اس لئے جب ملنا ہی ہے تو انسان رزق حلال کیوں نہ کمائے۔

کئی لوگوں کو دیکھا اچھا کاروبار چل رہا ہے بڑے کاروبار کے شوق میں بینک سے لون لے لیتے ہیں ٹھیک کام تھا پر سکون زندگی تھی عزت تھی سب کچھ تھا بڑے کاروبار کے شوق میں بینک سے لون لے لیا بس ایسی بے برکتی ہوتی ہے جو پہلا ہوتا ہے وہ بھی سارا بینک کے حوالے ہو جاتا ہے اس لئے اس حرام سے انسان بہت بچے آپ یوں سمجھیں جیسے دودھ ہوا اسکے اندر کوئی پیشاب کو ملاتا ہے؟ کبھی نہیں ملاتا، ایسے ہی کوئی ذرا حلال کے پیسوں میں سود کے پیسے ملاتا ہے یہ سود کے پیسے تو پاخانہ اور پیشاب کے مانند ہیں اس لئے اہل اللہ

جب کشف کی نظر سے دیکھتے ہیں انکو سود کی یہ ساری چیزیں نجاست اور پاخانہ کی طرح نظر آتی ہیں تھوڑے پر راضی ہو جائے صبر کر لیجئے اللہ تعالیٰ اسی میں برکت دیں گے، مگر اس سود کے چکر میں مت پڑیے۔

### سود کے بارے میں وعید

قرآن مجید میں ہے جو بندہ سود کا کام کرے گا ﴿فَاذْنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ﴾ اور رسول اللہ ﷺ اللہ تعالیٰ اسکے رسول سے جنگ کے لئے تیار ہو جائے، اب جب اللہ تعالیٰ اور اسکے رسول سے جنگ کرے گا تو نتیجہ پھر کیا نکلے گا؟ اسلئے اگر پہلے ایسا کام کر چکے تو توبہ کر کے اللہ سے معافی مانگ لیں، توبہ سے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں اور آئندہ کے لئے نیت کر لیں کہ ہم نے اس مصیبت سے جان چھڑانی ہے اللہ تعالیٰ مدد فرما دیں گے، اپنی اولاد کو بھی نصیحت کر جانا کہ بیٹا کبھی سود کے چکر میں مت پھنسنا، اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں حلال چاہنے والوں کو اللہ تعالیٰ حلال ہی عطا فرما دیتے ہیں۔



## رزق کے اندر برکت کیسے ہو؟

### (۱)..... معاملات میں صداقت

اصول تو یہ کہ جو آدمی نیکی دیانت سچائی کے ساتھ اپنا کاروبار کرے ان چیزوں کی وجہ سے برکت لازمی ہوتی ہے، دلیل اس کی خدیجہ الکبریٰؓ نے نبی ﷺ کو سامان تجارت دے کر بھیجا تو نبی ﷺ نے اسکو جا کر بیچا صداقت، دیانت، امانت، فراست ان چیزوں کو استعمال کیا نتیجہ کیا نکلا؟ کہ اس مال میں منافع عام معمول سے دوگنا ہوا، جس پر خدیجہ الکبریٰؓ حیران ہوئیں کہ بھی اتنا زیادہ منافع تو ہوتا ہی نہیں تھا، علماء نے لکھا ہے کہ جب نبی ﷺ نے پرانے مال پر اپنی صفات کو استعمال کیا، مال پر اپنا تھا امانت اپنی تھی دیانت اپنی تھی صداقت اپنی تھی فراست اپنی تھی جب ان صفات کو پرانے مال پر استعمال کیا اللہ نے اس میں دوگنا منافع دیدیا اے بندے تو اپنی صفات کو اپنے مال پر استعمال کرے گا تو اللہ تجھے کتنا نفع عطا فرمائیں گے اسلئے دس میں نو حصہ رزق اللہ نے تجارت میں رکھا اور ایک حصہ رزق باقی نو کریوں میں، اور یہ تجارت انبیاء علیہم السلام کا کام ہے، اسی لئے دیانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، حالانکہ تجارت کرتا ہوگا۔

### (۲)..... استغفار

اگر انسان کو رزق کی پریشانی ہے تو اس کے لئے کثرت سے استغفار کرے چونکہ کئی دوست پریشان ہوتے ہیں برکت کے بارے میں پوچھتے ہیں تو بجائے الگ الگ بتانے کے کیوں نہ سب دوستوں کو ہی بتا دیں، سب کو فائدہ ہو جائے گا بلکہ یہ اور آگے کسی کو بتائیں گے اللہ کی مخلوق کا فائدہ ہو جائے

گا، تو رزق کی پریشانی دور کرنے کے لئے پہلا عمل انسان کثرت سے استغفار کرے، [اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ رَبِّیْ مِنْ کُلِّ ذَنْبٍ وَّاَتُوْبُ اِلَیْهِ] اگر یہ پورا پڑھے تو بہت اچھا ورنہ کم از کم اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ، اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ یہ تو ضرور ہی پڑھتا رہے، دیکھو دلیل قرآن پاک سے ﴿استغفروا ربکم انه کان غفارا﴾ نوح علیہ السلام نے کیا کہا تھا سب کے سامنے؟ استغفار کرو وہ تمہارے گناہوں کو بخشے والا ہے ﴿یرسل السماء علیکم مدرارا﴾ بارشیں برسایگا ﴿ویمدکم باموال﴾ مال سے تمہاری مدد کرے گا تو استغفار سے اللہ تعالیٰ بندے کی مال سے مدد فرمادیتے ہیں، پھر بندوں کی مدد نہیں مانگنی پڑتی، پھر بندوں کے پروردگار کی مدد اترتی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی مدد کرتے ہیں پھر انکی کشتی کو درمیان میں نہیں چھوڑتے ہیں ہمیشہ کنارے لگا دیا کرتے ہیں۔

### (۳)..... صدقہ

جتنی حیثیت ہو اللہ تعالیٰ کے راستے میں صدقہ کرے مثلاً کچھ لوگ روزانہ صدقہ کرتے ہیں یہ کہاں لکھا کہ روزانہ آپ نے ہزاروں لاکھوں کے حساب سے صدقہ کرنا ہے، آپ اگر روز کاروپہ بھی صدقہ کریں گے تو صدقہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، پانچ بھی کریں گے، تو بھی صدقہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں گے، تو مقدار کو نہ دیکھیں اپنی حیثیت کو دیکھیں اور حیثیت کے حساب سے آپ اگر اللہ کے راستہ میں کچھ نکالیں گے تو اس صدقہ سے اللہ تعالیٰ رزق میں برکت عطا فرمادیں گے، نبی ﷺ نے قسم اٹھا کر یہ بات حدیث پاک میں فرمائی (صدقہ کرنے سے رزق بڑھتا ہے) اگر اللہ کے محبوب ویسے ہی بات کر دیتے اس صادق و امین کی یہ بات سچی تھی مگر انہوں نے قسم کھا کر فرمایا کہ صدقہ کرنے سے آدمی کے رزق کے اندر کمی نہیں آتی اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمادیتے ہیں۔

## (۳)..... کمزوروں کی مدد

کمزوروں کے اوپر احسان کرنے سے رزق میں برکت ہوتی ہے کوئی معذور ہے بیوہ ہے، یتیم ہے مسکین ہے چھپ کر اسکی مدد کرنا پتہ ہی نہ چلے، صحابہ کرام کے اندر یہ بڑی صفات تھی کہ وہ ایسے کام کرتے تھے اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلنے دیتے تھے چنانچہ سیدنا عمرؓ ایک مرتبہ آئے اور انہوں نے آکر دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیقؓ نے اپنے کام والی جگہ پر ایک رجسٹر رکھا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہے کہ فلاں بندہ معذور ہے حاجت مند ہے ضرورت مند ہے اور اسکی خدمت کون کرے گا، آگے اسکا نام بھی لکھا ہوا ہے سارا رجسٹر دیکھا، ایک جگہ لکھا تھا کہ یہ بیوہ ہے بوڑھی ہے اسکے گھر میں جھاڑو دینا ہے اور پانی بھرنا ہے مگر آگے اسکے خدمت کرنے والے خانہ میں کوئی نام نہیں تھا، عمرؓ نے رجسٹر دیکھا انہوں نے نیت کر لی اچھا بھئی اسکی خدمت میں کروں گا، چنانچہ اگلے دن فجر کے بعد اسکے گھر پہنچے دروازے پر دستک دی اماں میں خدمت کے لئے آیا ہوں انہوں نے کہا جی خدمت کرنے والا تو آیا تھا وہ خدمت کر کے چلا گیا، اچھا چلو میں کل فجر سے پہلے آ جاؤں گا، اگلے دن عمرؓ تہجد پڑھنے کے بعد فجر سے پہلے ہی اسکے دروازے پر پہنچے کہ میں اسکی خدمت کروں گا، جھاڑو دوں گا اس کا پانی بھروں گا دستک دی، تو بڑھیا نے کہا کہ جی وہ تو کوئی آیا تھا پانی بھی بھر گیا جھاڑو بھی دے گیا، وہ بھی عمر ابن خطابؓ تھے کہنے لگے میں دیکھتا ہوں، اگلے دن عشاء پڑھ کر وہ راستے میں ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گئے کہنے لگے اب دیکھتا ہوں کون جاتا ہے خدمت کرنے والا، جب رات گہری ہو گئی تھی اس وقت اچانک انہوں نے دیکھا کہ کوئی آہستہ آہستہ قدموں سے اس بڑھیا کے دروازے کی طرف جا رہا ہے، عمرؓ کھڑے ہو گئے کہنے لگے من انت؟ تو کون ہے؟ جب پوچھا تو آگے جواب میں امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبرؓ کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں



حضرت عمرؓ نے پوچھا امیر المؤمنین آپ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا میں اس بڑھیا کی خدمت کے لئے جا رہا ہوں اور میں نے اپنا نام رجسٹر میں لکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا اسلئے تمہیں خانہ خالی نظر آیا ورنہ اس کا پانی تو میں رات کو آکر بھر دیتا ہوں، انہوں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین کے پاؤں میں تو جوتی بھی نہیں ہیں تو عمرؓ نے پوچھا امیر المؤمنین رات میں آپ ننگے پاؤں گلیوں میں چل رہے ہیں؟ امیر المؤمنین نے کہا ہاں میں جوتا اسلئے نہیں پہنتا تاکہ میرے جوتوں کی آواز سے کسی کی نیند میں خلل نہ آجائے میں رات کو ننگے پاؤں چل کر اس بڑھیا کا پانی بھر دیتا ہوں، اسکے گھر میں جھاڑو دیدیتا ہوں، وہ یوں چھپ کر کام کرتے تھے ہم بھی چھپ کر کرتے ہیں، لیکن نیکی نہیں گناہ، آج تو ہماری حالت یہ ہے کہ ہم دائیں ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلنے دیتے ایسے چھپ کر گناہ کرتے ہیں، صحابہ کرام دائیں ہاتھ سے صدقہ کرتے تھے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا تھا۔

### امام زین العابدینؓ کا واقعہ

امام زین العابدینؓ جب انکی وفات ہوئی تو نہلانے والے نے دیکھا کہ انکے کندھے کے اوپر ایک کالا نشان ہے اللہ نے انکو بڑا خوبصورت جسم دیا تھا بڑے نازک بدن تھے غسل دینے والا بڑا حیران ہوا بات سمجھ نہ آئی تو اس نے گھر کے لوگوں سے پوچھا یہ نشان کیسا ہے؟ کہا ہمیں بھی نہیں پتہ، بات انکی اہلیہ تک پہنچی انہوں نے بھی لاعلمی کا اظہار کیا کئی دن گزر جانے کے بعد جو بیوائیں تھیں جو نادار تھے انکے گھروں سے آواز آئی وہ کہاں گیا جو ہمیں پانی پلایا کرتا تھا، تب پتہ چلا کہ رات کے اندھیرے میں پانی کی مشک اپنے کندھے پر لے کر ضرورت مند لوگوں کے گھروں میں پانی بھرنے جاتے تھے اور زندگی میں پتہ ہی نہیں چلنے دیا کہ کون آکر بھر جاتا ہے انکے مرنے کے

بعد پتہ چلا تو جو خدمت ہے وہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے۔

## احسان کا ایک واقعہ

چنانچہ ہمارے نقشبند سلسلہ کے بزرگ حضرت خواجہ بہاؤ الدین بخاریؒ انکے بارے میں لکھا ہے کہ ایک مرتبہ جارہے تھے تو انہوں نے قبرستان میں ایک زخمی کتے کو دیکھا انکے دل میں بڑا اثر ہوا کہ یہ کتا ہے اور زخمی ہے، انکے پاس جو کچھ پیسہ تھا انہوں نے اسکی مرہم پٹی پر لگا دیا، وہ روزانہ جو کاروبار کرتے تھے یعنی مزدوری وغیرہ اس میں سے کچھ گھر والوں کو دیتے اور جو بچتا اسکی روٹی لے کر اس کتے کو ڈال آتے، جہاں وہ زخمی حالت میں پڑا ہوا تھا، چند دن اس کتے کو وہ کھانا دیتے رہے اور اسکے زخم پہ مرہم لگاتے رہے، حتیٰ کہ اس کتے کا زخم ٹھیک ہو گیا اور وہ صحت مند ہو گیا، جب وہ صحت مند ہو کر اس جگہ سے دوسری جگہ چلا گیا تو اللہ نے اسی رات ان کو معرفت کا نور عطا کیا اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کی تفصیلات عطا فرمائیں، تو یہ انکی زندگی کے حالات میں لکھا ہے کہ کتے کی خدمت کرنے پر اللہ نے انکو اپنی معرفت کا نور عطا فرمادیا تو اگر ہم کسی انسان کی خدمت کریں گے تو اس پر اللہ کی کیا کچھ رضا ملے گی۔

تو رزق میں برکت کا ایک سبب استغفار کرنا دوسرا صدقہ کرنا تیسرا کمزوروں پر احسان کرنا ہے چوتھا معاملات میں صداقت۔

## (۵)..... تقویٰ اختیار کرنا

تقویٰ اختیار کرنے پر بھی اللہ تعالیٰ بندے کے رزق میں برکت عطا کر دیتے ہیں، تقویٰ اور پرہیزگاری پر اللہ رب العزت مہربانی فرما دیتے ہیں۔

## (۶)..... ہجرت کرنا

یہ بھی رزق کے بڑھنے کا سبب ہے، حدیث پاک میں آتا ہے چنانچہ اگر ایک

بندے کا کام ایک جگہ نہیں چل رہا تو وہ اپنی جگہ بدل کر کسی اور جگہ جا کر کام شروع کر دے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ وہاں رزق کھول دیں۔

(۷)..... بار بار حج کرنا

اور ایک آخری بات جو حدیث پاک میں کہی گئی کہ بار بار حج اور عمرہ کرنا یہ بندے کا رزق بڑھنے کا ایک سبب ہے، ایک آدمی آتا تھا کہ اے اللہ کے نبی ﷺ میرے رزق میں تنگی ہے نبی ﷺ فرماتے اچھا حج کر آؤ ایک اور بات بھی بتاتے تھے لیکن وہ آپ کو نہیں بتانی اسکے لئے جوان بھی تیار ہو جائیں گے اور بوڑھے بھی تیار ہو جائیں گے، تو اگر یہ چند اعمال اپنائے جائیں تو ان اعمال سے انسان کے رزق کے اندر برکت آ جاتی ہے کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو وہ کثرت سے حج اور عمرہ کرتے ہیں یہ اچھی عادت ہے بعض لوگ کہتے ہیں جی آپ کیوں ہر سال حج کرتے ہیں کسی کو کروادیں کسی پر خرچ کر دیں، تو بھی دیکھو جیسے سیلفون سارا دن چلتا رہتا ہے، تو اسکی بیٹری ڈاؤن ہو جاتی ہے تو پھر اسکو چارج کر کے ساتھ لگنا پڑتا ہے بالکل اسی طرح ہم جب سارا سال دین کا کام کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں تو پھر بندے کی کیفیات کی بیٹری بھی ڈاؤن ہو جاتی ہے اور اس کا چارج اللہ نے اپنا گھر بنایا ہوا ہے، اس لئے جن لوگوں کو اللہ دے اگر وہ ہر سال اس نیت سے حج یا عمرہ کریں ہم وہاں جائیں گے اور بیٹری چارج کروا کر آئیں گے اور پھر دین کا کام کریں گے تو ہر سال حج اور عمرہ کرنا انکے لئے بڑکتوں کا سبب بن جائے گا۔

کپڑا میلا ہو تو پھر واشنگ مشین میں جاتا ہے یا نہیں جاتا؟ واشنگ مشین میں میلے کپڑے کو ڈالتے ہیں، ہفتہ میں ایک دفعہ میلا ہو تو ایک دفعہ ڈالتے ہیں روز میلا ہو تو روز ڈالتے ہیں اللہ تعالیٰ کی شان، بیت اللہ شریف کے گرد سات چکر لگاتے ہیں (طواف) کرتے ہیں تو لگتا ہے کہ جو آدمی اپنے میلے دلوں کے

ساتھ اللہ کے گھر جانا ہے وہ دلوں کے دھونے کی واشنگ مشین ہے اللہ سات طواف کے چکر لگوا کر دھو کر بندے کو نکال دیتا ہے لہذا اسکی دعائیں کرنی چاہئیں اللہ رب العزت سے مانگنا چاہئے اور ویسے بھی جن کو اللہ دے وہ ہر سال حج کریں کیوں؟ اسلئے کہ اب حالات ایسے ہیں کیا پتہ کونسا حج ایسا ہو جس میں اللہ کے مقبول بندے ظاہر ہو جائیں تو اس نیت سے حج کرے گا تو اور دو گنا ثواب مل جائے گا۔

### اعمال صالح کا مزید فائدہ

اعمال صالح کا ایک فائدہ کہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمادیتے ہیں صرف رزق میں نہیں ہر چیز میں برکت، صحت میں برکت، عمر میں برکت، وقت میں برکت عقل سمجھ میں برکت، اولاد میں برکت، دین میں برکت، عزت میں برکت، ہر چیز میں اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمادیتے ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا ﴿وَلَوْ اَنَّ اَهْلَ الْقُرَىٰ اٰمَنُوا وَاتَّقَوْا﴾ قرآن عظیم الشان، دیکھو اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہ بستی والے ایمان لاتے اور تقویٰ کو اختیار کرتے ﴿لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ﴾ ہم آسمان زمین پر سے برکتوں کے دروازے ان پر کھول دیتے ہیں، وقت میں برکت ہو جاتی ہے، تھوڑے وقت میں زیادہ کام سمیٹ لیتا ہے آپ نے دیکھا کچھ لوگوں کو وہ کہتے ہیں یا سارا دن بھاگتے رہتے ہیں کام سمیٹتے نہیں ہیں، ہوتے ہوتے کام رہ جاتا ہے، بنتے بنتے کام بگڑ جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہوتی ہے؟ برکت نہیں ہوتی، اور جن کو اللہ تعالیٰ مہربانی کر کے برکت دیدیتا ہے تھوڑے وقت میں اللہ تعالیٰ انکے زیادہ کاموں کو سمیٹ دیتا ہے۔

### برکت کا عجیب واقعہ

ایک بزرگ تھے وہ کتاب لکھتے تھے جب فوت ہوئے تو ان کی کتابوں کے جو

صفحے تھے جب انکی تعداد گنتی گئی تو ان کی زندگی کے اعتبار سے یومیہ میں صفحے نیکی اب میں صفحے تو ہم روز پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اس میں سے ہمارے پہلے پندرہ سے بیس سال تعلیم کے نکال دئے جائیں تو یہ بیس کی بجائے بھی چالیس بن جائیں گے تو چالیس صفحے نئی کتاب کے روز لکھ دینا اس کا مطلب ہے کئی دن ایسے بھی ہوں گے جب نہیں لکھ سکے ہوں گے صحت بھی، بیماری بھی، سردی بھی گرمی بھی، وطن میں بھی، مسافری میں بھی، سو قسم کی باتیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کبھی اگر نہیں لکھتے ہوں گے تو کسی دن میں پچاس، ساٹھ، سو، بھی لکھتے ہوں گے اللہ تیری شان ایسی اللہ نے وقت میں برکت عطا فرمائی تھوڑے وقت میں زیادہ کام کر گئے۔

## نبی ﷺ کی زندگی میں برکت

نبی ﷺ کی زندگی میں برکت دیکھئے، دس سال کا تھوڑا سا عرصہ تھا جس میں اللہ رب العزت نے اسلام کو پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمادی تھی نیکی سے حافظہ میں برکت قوت یادداشت میں برکت آجاتی ہے، آج کل اکثر نوجوانوں کو دیکھا کہتے ہیں جی میں بات بھول جاتا ہوں، عورتیں بھی اس کا شکوہ کرتی ہیں مرد بھی اس کا شکوہ کرتے ہیں، تو گناہوں کی وجہ سے یادداشت کم ہو جاتی ہے نسیان کی وجہ بات ہی ذہن سے نکل جایا کرتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے اکابر کو وہ برکت دی تھی کہ ان کی یادداشت النقش کا الحجر کی مانند بن گئی تھی، پتھر پر لکیر ہوتی ہے جیسے ایسی بن گئی تھی۔

## تقویٰ کی بنا پر ذہانت میں برکت

واقعہ..... (۱)

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو بڑھاپے کی عمر تھی اور دوڑھائی سال ہی انکو نبی ﷺ کی صحبت نصیب ہوئی تھی، خیبر کے وقت مسلمان ہوئے تھے تو اسکے بعد تھوڑی زندگی تھی، شروع شروع میں باتیں بھول جاتے تھے کہتے ہیں

میں نے نبی ﷺ سے عرض کیا کہ اللہ کے نبی ﷺ میں باتیں بھول جاتا ہوں اللہ کے محبوب نے فرمایا ابو ہریرہ چادر پھیلاؤ کہتے ہیں میں نے چادر پھیلائی اللہ کے نبی نے ایسے جیسے اس میں کوئی چیز ڈال رہے ہوں ایسے اشارہ کیا اور فرمایا اسکو لے لو میں نے ٹھٹھی باندھ کر اپنے اوپر لے لی اسکے بعد اللہ نے ایسی قوت یادداشت دی کہ میں بھولتا ہی نہیں تھا، چنانچہ صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیث کی روایت انہوں نے کی، عبدالملک بن مروان کو ایک مرتبہ شک ہوا کہ بھی اتنی حدیثیں بیان کرتے ہیں تو یہ روایت باللفظ بیان کرتے ہیں یا روایت بالمعنی کرتے ہیں روایت بالمعنی کہتے ہیں کہ مفہوم تو ٹھیک ہوا الفاظ اپنے ہوں اور اور روایت باللفظ یہ کہ مفہوم بھی وہی ہو اور الفاظ بھی وہی ہوں لہذا اس کے ذہن میں وہم پڑ گیا، اس نے کہا کہ اچھا انکا امتحان لیتے ہیں اس نے سیدنا ابو ہریرہ ؓ کو دعوت دی اب جب دعوت دی تو کھانا کھایا کھانے کے بعد اس نے ایک پردہ لگایا ہوا تھا اسکے پیچھے اس نے دو کاتب بٹھائے ہوئے تھے، انکو کہا کہ جو یہ کہیں آپ دونوں نے لکھنا ہے اور ان سے فرمائش کی کہ جی آپ ہمیں نبی ﷺ کی احادیث سنائیے، چنانچہ انہوں نے ایک سو سے زیادہ نبی ﷺ کی احادیث سنائیں وہ کاتب لکھتے رہے، محفل ختم ہو گئی ایک سال گذر گیا ایک سال کے بعد اس نے پھر ان کو دعوت دی اور ان دونوں کاتب کو بلایا اور کہا کہ تم اپنا کارڈ لیکر بیٹھنا میں ان سے کہوں گا کہ یہ وہی حدیثیں سنائیں جو پچھلے سال سنائی تھیں اور جہاں فرق ہو تم نشان لگاتے جانا ابو ہریرہ ؓ کو کچھ پتا نہیں ہے کہ یہ سب ہو رہا ہے، چنانچہ کھانا کھایا پھر حدیث سنانے کی محفل ہوئی تو وہ کہنے لگا جی جو پچھلے سال احادیث سنائی تھیں وہ حدیثیں پھر سنا دیجئے، ابو ہریرہ ؓ نے وہی حدیثیں پھر سنائیں دونوں کاتبوں نے انکو املا کے ساتھ ملایا اور انکو کہیں پر ایک حرف کا بھی فرق نظر نہ آیا، سبحان اللہ یہ قوت یادداشت تھی۔

## واقعہ..... (۲)

امام بخاریؒ جب بصرہ پہنچے تو بصرہ کے علماء نے ان کا بڑا استقبال کیا کیوں کہ اس وقت امام بخاری حافظ مشہور ہو چکے تھے آج تو حافظ کہتے ہیں قرآن پاک کے حافظ کو پہلے زمانہ میں حافظ کا لفظ حافظ حدیث کے لئے استعمال کیا جاتا تھا حافظ ابن قیم حافظ ذہبی یہ سب حافظ ابن کثیر یہ حدیث کے حافظ تھے قرآن مجید تو حفظ ہوتا ہی تھا ہر ایک کو، کسی کو کامل ہوتا تھا کسی کو ذرا کم ہوتا تھا کچھ نہ کچھ تو ہر ایک کو یاد ہوتا تھا تو یہ لفظ تو استعمال ہوتا ہی ہے حدیث کے حافظ کے لئے تو حافظ اسماعیل مشہور ہو گئے تھے، تو بصرہ کے علماء نے کہا کہ ان کا امتحان لے لیں، اب جب علماء امتحان لینے کے لئے تیاری کریں تو اللہ ہی اس میں کامیاب کرے انہوں نے ایسا استقبال کیا کہ یوں سمجھئے کہ پورے شہر کے لوگ باہر نکل کر ان کے استقبال کے لئے آئے بے مثال استقبال کیا پھر ان کو ایک جگہ بٹھایا تخت پر اور شہر کے سارے علماء وہاں اکٹھے ہو گئے اور پھر انکی خوب تعریفیں کیں حافظ الحدیث ہیں اور ایسے ہیں اور ایسے ہیں اور بڑے اچھے ہیں خوب جب انکی تعریفیں کر لیں تو پھر ان کو کہا کہ جی ہمیں بھی اس سے فائدہ دیجئے اور انہوں نے، اور انہوں نے کیا کیا دس بندے چنے ہوئے تھے اور ہر بندے کو دس حدیثیں یاد تھیں حدیثوں میں تھوڑا سا فرق کر رکھا تھا، چنانچہ ایک آدمی کھڑا ہوا کہنے لگا جی میں نے دس حدیثیں یاد کی ہیں اگر یہ اتنے بڑے حافظ الحدیث ہیں تو یہ بتائیں کہ یہ روایت ان تک پہنچی ہے؟ اب اس نے پہلی حدیث پڑھی امام بخاریؒ نے فرمایا نہیں مجھ تک نہیں پہنچی، پھر اس نے دوسری پڑھی آپ نے فرمایا نہیں مجھ تک نہیں پہنچی، پھر اس نے تیسری پڑھی فرمایا نہیں،

دس پڑھی اور دس پر نہیں فرمایا اب دیکھو کیسا پریشورڈ الا انہوں نے کہ بھی کسی پر تو ان کا دل کہے گا ہاں میں نے سنی ہے جب اتنے بڑے حافظ الحدیث ہیں،

پھر دوسرا کھڑا ہوا اسکی دس حدیثوں پر بھی نہیں فرمایا پھر تیسرا، پھر چوتھا، دس بندوں نے دس دس حدیثیں پڑھیں اور ہر بات پر انہوں نے نہیں کہا، مجمع حیران بھئی یہ بھی کیسے حافظ الحدیث ہیں ان کو کوئی حدیث پہنچی تو ہے نہیں جب وہ سب سنا چکے اس وقت امام بخاریؒ نے فرمایا کہ سنو!

پڑھنے والوں نے حدیثوں کو ایسے پڑھا پھر آپ نے جس بندے نے جو حدیث پڑھی تھی غلطی کے ساتھ پہلے وہ پڑھی پھر فرمایا اے میں یہ غلطی ہے اس کو پھر صحیح حدیث پہنچائی پھر دوسری غلط پڑھی، پھر صحیح حدیث پہنچائی، سو کی سو ترتیب کے ساتھ غلط حدیثیں جو انہوں نے پڑھی تھیں وہ بھی پڑھ کر سنائیں اور اسکے بدلے جو صحیح حدیثیں تھیں وہ بھی پڑھ کر سنائیں، علماء لکھتے ہیں کہ امام بخاریؒ کے لئے سو حدیثیں سنا دینا کوئی بڑی بات نہیں تھی بڑی بات یہ تھی جس ترتیب سے انہوں نے ایک مرتبہ حدیثیں پڑھ کر سنائیں اللہ نے ان کو ایسی یادداشت دی تھی ایک دفعہ سن کر وہ ترتیب یاد رہی اور وہ حدیثیں بھی یاد ہو گئیں ایسی ذہانت اللہ نے انکو دی تھی۔

### واقعہ..... (۳)

ایک محدث تھے ابو زرعہ انکو لاکھوں حدیثیں یاد تھیں اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ ان کا ایک شاگرد تھا اسکی شادی ہوئی اور ایک دن وہ حدیث کے درس میں آیا تو ذرا دیر ہو گئی جب واپس پہنچا تو بیوی ذرا اس دن موڑ میں تھی مزاج گرم تھا تو اس نے جھگڑنا شروع کر دیا، بیٹھے رہتے ہیں، وقت ضائع کر کے آ جاتے ہیں، ہم تو انسان ہی نہیں ہیں ہم انتظار کرتے ہیں بھوک لگی ہوتی ہے کھانا کھانا ہوتا ہے، لہذا باتیں ہوتی رہیں اس نے کہا بھئی وہاں ایسے تو نہیں وقت ضائع کرنے جاتا میں علم حاصل کرنے جاتا ہوں لیکن وہ کچھ زیادہ ہی ناز میں تھی غصہ میں آ گئی تیرے استاذ کو کچھ نہیں آتا تو وہاں جا کر کیا سیکھے گا، اب جب اس



نے یہ کہہ دیا کہ تیرے استاذ کو کچھ نہیں آتا تو وہاں جا کر کیا سیکھے گا تو نو جوان تھا اور لگتا ہے کہ اسکو بھی آج کل کا دماغ ملا ہوا تھا اس نے بھی فوراً کہہ دیا کہ اچھا اگر میرے استاذ کو ایک لاکھ حدیثیں یاد نہ ہوں تو پھر تجھے تین طلاق لو اب رات تو ذرا گرمی سردی میں گزر گئی صبح اٹھ کر بیوی کو بھی فکر کہ کہیں طلاق ہی نہ واقع ہو گئی ہو، تو بیوی نے پوچھا کہ جی وہ کیا بنا طلاق کا؟ اس نے کہا مشروط تھی تو میں حضرت سے پوچھتا ہوں اگر تو انکو لاکھ حدیثیں یاد ہوں گی تو طلاق نہیں ہوئی ورنہ ہو گئی، اب وہ پہنچا اپنے استاذ کے پاس انکو بتایا کہ حضرت! بس مجھ سے غصہ میں یہ بات ہو گئی اب بتائیں کہ میری بیوی کو طلاق واقع ہوئی یا نہیں ہوئی آپ کو ایک لاکھ حدیثیں یاد ہیں یا ایسے ہی میں نے بات کر دی تو امام ابوذرؓ مسکرائے اور فرمانے لگے جاؤ ”میاں بیوی“ کی طرح زندگی گزارو ایک لاکھ حدیثیں مجھے اس طرح یاد ہیں جس طرح لوگوں کو سورۃ فاتحہ یاد ہوتی ہے، کہتے ہیں کہ ان کو دو لاکھ حدیثیں یاد تھیں، صرف قرأت سے متعلقہ چالیس ہزار حدیثیں یاد تھیں، اللہ اکبر، تو دیکھئے پھر اللہ نے انکو کیسی ذہانت دی تھی یہ تقویٰ کی وجہ سے نیکی کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ رب العزت بندے کو پھر ایسی فوٹو گرافک میری عطا فرمادیتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے اور جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مت بھی ماردیتے ہیں، ذہانت چھین بھی لیتے ہیں۔

## برکت کا مفہوم

یہ برکت اللہ تعالیٰ گھر میں بھی دیتے ہیں کاروبار میں بھی دیتے ہیں اولاد میں بھی دیتے ہیں، اولاد میں برکت کا کیا مطلب؟ کہ اولاد آنکھوں کی ٹھنڈک بن جاتی ہے نیک بنتی ہے، محنتی بنتی ہے، اولاد کو دیکھ کر بندے کا دل خوش ہوتا ہے، کاروبار کا کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ وہ کروڑوں پتی بن جاتا ہے مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنا کام کرتا ہے اسکی ضروریات پوری ہوتی ہیں اس نے کسی کا دینا نہیں

ہوتا ہے کوئی پریشانی ہی نہیں ہوتی یہ کاروبار کی برکت ہے۔

## نیکی کے دنیا میں چھ مزید فائدے

فائدہ..... (۱)

نیک عمل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بندے کی پریشانیوں کا ازالہ فرمادیتے ہیں۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے اللہ والوں کو تو انکے اندر بے چینی نہیں ہوگی کوئی پریشانی آئے گی بھی تو انکو بے چینی نہیں کرے گی اللہ تعالیٰ کام سنوار دیا کرتے ہیں کوئی بھی مصیبت میں پھنسیں اللہ تعالیٰ اس میں سے راستہ نکال دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ﴾ اللہ تعالیٰ اسکے لئے راستہ نکال دیتے ہیں ایسی طرف سے رزق دیتے ہیں جس کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔

## ایک واقعہ

حضرت تھانویؒ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ چند بھائی تھے انکے والدین بوڑھے ہو گئے انہیں سے ایک تو بڑے شوق سے خدمت کرتا باقی بس خدمت کرتے جیسے بوجھ دور کر رہے ہوں، تو چھوٹے نے ان سے کہا کہ بھی میرے ساتھ ایک وعدہ کر لو انہوں نے کہا کہ کیا؟ اس نے کہا کہ بھی والد کی خدمت اکیلے مجھے کرنے دو اور جائداد جتنی ہے مجھے بیشک نہ دینا، آپ سب آپس میں تقسیم کر لیں، وہ بڑے خوش ہو گئے، چنانچہ انہوں نے ہاں کر لی، والدین کی خدمت کرتا رہا والدین آخر دنیا سے چلے گئے اب اسکو رزق کی کافی پریشانی رہتی تھی ایک دن اس نے خواب دیکھا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے فلاں پتھر کے نیچے تمیں دینا رہیں آپ جاؤ اور انکو لے لو اس نے پوچھا ان میں برکت ہے؟

چونکہ اسکی ماں اسکو ہمیشہ دعا دیتی تھی کہ اے اللہ اس کو برکت والا رزق عطا فرما تو اسکو بات یاد رہ گئی تھی کہ میری امی مجھے دعا دیتی تھی اس نے کہا برکت ہے اس نے کہا برکت نہیں ہے، اس نے کہا تب تو میں نہیں لیتا، آنکھ کھل گئی صبح اٹھے تو اس نے خواب بیوی کو سنا یا اور بیویاں تو ماشاء اللہ اللہ کی ولیاں ہوتی ہیں، اس نے کہا بیشک تم نہ لینا جا کر دیکھو تو پڑے ہوئے ہیں یا نہیں پڑے ہوئے ہیں، شوہر نے کہا جب میں نے لینے نہیں تو میں نے جانا بھی نہیں، خیر اگلی دفعہ اس نے پھر خواب دیکھا کسی کہنے والے نے کہا کہ اگر تم جاؤ تو تمہیں بیس دینا رہ گئے ہیں وہ تمہیں مل جائیں گے اس نے کہا برکت ہے؟ جواب ملا برکت تو نہیں ہے، اس نے کہا میں نے نہیں لینا اگلے دن بیوی کو کہا تو بیوی نے کہا دیکھو میں کہتی تھی ناکہ کل ہی لے لیتے چلو آج ہی جا کر لے آؤ میں نہ صحیح تو بیس صحیح، اس نے کہا میں نہیں جاتا برکت نہیں ہے، چنانچہ اگلے دن دس ہو گئے، حتیٰ کہ اسکو اگلے دن خواب آیا کہ بھئی اسکے نیچے ایک دینار ہے اگر چاہو تو لے لو اس نے کہا برکت ہے یا نہیں؟ کہا ہاں اس دینار میں برکت ہے یہ اٹھا اور اس نے بیوی کو بتایا کہ میں جارہا ہوں لینے کے لئے بیوی نے کہا چالیس تیس چھوڑ دے ایک لینے جارہا ہے یہ بھی کوئی عقل مندی ہے؟ خیر وہ گیا اور اس نے ایک دینار لے لیا، اب جب راستہ میں لا رہا تھا تو اسکو خیال آیا کہ بیوی تو غصہ ہو رہی تھی کہ تم نے نقصان کر لیا چلو اس کے لئے مچھلی لے چلتے ہیں بیوی کو آج دیں گے وہ پکائے گی تو خوش ہو جائے گی، اس نے راستہ سے مچھلی خریدی حضرت لکھتے ہیں کہ جب وہ مچھلی لے کر گھر آیا تو کچھ بچے ہوئے پیسے بھی دے دئے بیوی کو اور مچھلی بھی دیدی کہ بھئی پکاؤ اور کھاؤ، اس کی بیوی نے جب مچھلی کو کانا تو اس کے اندر ایک قیمتی ہیرا موجود تھا جب اس ہیرے کو لے جا کر اس نے بازاری میں بیچا اس کی پوری زندگی کے خرچے کے پیسے اسکو وہاں سے مل گئے، حضرت فرماتے ہیں اس کو برکت کہتے ہیں، ہمیشہ کے لئے مسئلہ ہی سمیٹ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ روز روز کی حج حج سے

جان چھڑا دیتے ہیں

## فائدہ..... (۲)

اللہ تعالیٰ بندے کی مرادیں پوری کر دیتے ہیں اگر اسکی کوئی نیک تمنا ہوتی ہے اللہ تعالیٰ حالات بنا دیتے ہیں وہ بات پوری ہو جاتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ﴿وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکے کاموں میں آسانیاں کر دیتے ہیں، تو جب رب آسانیاں کرے تو پھر کام ہی کہاں مشکل رہتا ہے، نیک اعمال سے جو دنیا کے فائدے ہیں جب یہ کھل جائیں گے تو ممکن ہے کہ پھر ہمارا نفس نیک اعمال کرنے پر اور زیادہ راغب ہو جائے تو مقصد تو نیکی کی طرف آنا ہے رب کریم ہمیں اپنے نیک بندوں میں شامل فرمائے۔

## فائدہ..... (۳)

اس کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ دل کی نیک تمناؤں کو پورا کر دیتے ہیں، حدیث پاک میں ہے کہ کچھ اللہ کے نیک بندے ایسے ہوتے ہیں بکھرے بالوں والے اگر کسی دروازے پر چلے جائیں تو وہ دروازے والے خالی بھیج دیں مگر اللہ تعالیٰ کے یہاں انکا اتنا مقام ہوتا ہے [لو اقسام علی اللہ لابرہ] اگر وہ قسم اٹھا کر بات کر دیں تو اللہ ان کی قسم کو ضرور پورا کر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ انکی مرادیں پوری کر دیتے ہیں خود بخود حالات ہی انکے سازگار کر دیتے ہیں ان کو دنیا کے جھمیلوں میں پریشانیوں میں الجھایا نہیں کرتے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ گھوڑے ہوتے ہیں جو دوڑنے کے لئے پالے جاتے ہیں لوگ انکے ذریعہ انعامات جیتتے ہیں انکی بڑی رقم ہوتی، لاکھوں روپے میں ایک ایک گھوڑا ملتا ہے، باقاعدہ ان کا نسب نامہ ہوتا ہے، کوئی بھی بندہ اسکو گدھا گاڑی کی جگہ استعمال نہیں کرتا کسی کو اگر کہیں تو وہ ہنس پڑے گا، کہے گا یہ دنیا میں

رکارڈ قائم کرنے والا گھوڑا میں اسے گدھے گاڑی میں کیسے استعمال کروں جس طرح ہم لوگ دوڑنے والے گھوڑوں کو ریس جیتنے والے گھوڑوں کو گدھے گاڑی میں استعمال نہیں کرتے اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی اپنے نیک بندوں کو دنیا کی آگدھا گاڑی میں الجھایا نہیں کرتے، وہ فرماتے ہیں یہ میرے دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں یہ نبی ﷺ کی وراثت کا حق ادا کرنے والے لوگ ہیں میں انکو دنیا کے معاملہ میں کیسے الجھاؤں تو اللہ تعالیٰ انکے کام سنوار دیتا ہے انکی مرادیں اللہ تعالیٰ پوری فرمادیتے ہیں۔

### مرادیں پوری ہونے کا واقعہ

چنانچہ ایک مرتبہ چار حضرات طواف کر کے بیت اللہ شریف کے قریب بیٹھے تھے، ایک کا نام تھا مصعب بن زبیرؓ بن زبیرؓ کے بیٹے اسماء بنت ابی بکر کے بیٹے اور دوسرے تھے عروہ بن زبیر اور تیسرا تھا عبدالملک بن مروان اور چوتھے تھے عبداللہ ابن عمرؓ اب یہ آپس میں بیٹھے تھے تو ان میں سے کسی نے کہا کہ ابی اپنی تمنا میں بیان کرو کس کی کیا تمنا ہے؟

تو مصعب بن زبیر نے کہا کہ میرے دل کی تمنا ہے کہ میں عراق کا گورنر بنوں اور میرے نکاح میں دو بیویاں ہوں، ایک سکینہ بنت حسین اور دوسری عائشہ بنت طلحہ، سکینہ بنت حسین کو تو سب جانتے ہی ہیں، سکینہ حسینؓ کی بیٹی عائشہ بنت طلحہ یہ حضرت عائشہ صدیقہؓ کی بھانجی تھیں، نام ان کا بھی عائشہ اور یہ سیدہ عائشہ صدیقہؓ کی زیر تربیت رہی تھیں، ان سے انہوں نے حدیث کا اور تفسیر کا علم سیکھا تھا ان سے حدیثیں روایت کی ہیں محدثین نے، یہ اتنی پاک باز خاتون تھیں اللہ نے انکو معرفت کا نور عطا کیا تھا ان جیسی دانا عقل مند پاک باز اور دیندار عورت انکے زمانہ میں کوئی دوسری نہیں تھی اور اللہ رب العزت نے ان کو ظاہری حسن و جمال میں بھی عائشہ صدیقہؓ کی کو پی بنایا تھا یہ بالکل اپنی خالہ پر گئی تھیں، تو اس لحاظ سے یہ وہ رشتہ

تھا کہ جس کے لئے اس دور کے نوجوان تمنا کیا کرتے تھے، اور سیکھنے حسین کی صاحبزادی تھی ان کے ویسے فضائل بہت بیان ہیں وہ جگر گوشہ نبی کی بیٹی تھی سادات میں سے تھیں انکی اپنی ایک تقویٰ کی زندگی تھی، فضیلت کی زندگی تھی، تو انہوں نے یہ دو تمنائیں ظاہر کیں کہ اللہ کرے یہ دو رشتے میرے نکاح میں ہوں اور میں عراق کا گورزن ہوں۔

عروہ بن زبیر سے پوچھا کہ جی آپ کی تمنا ظاہر کریں؟ وہ کہنے لگے بس میرا دل چاہتا ہے کہ میں علم فقہ میں خوب محنت کروں اللہ میرے سینہ کو سمجھ سے بھر دے چونکہ نبی ﷺ نے فرمایا [مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْ فِي الدِّينِ] اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے اسکو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے۔

عبدالملک بن مردان سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں بادشاہ بننا چاہتا ہوں۔  
عبداللہ ابن عمرؓ سے جب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں جنت میں اپنے رب کا دیدار چاہتا ہوں۔

اللہ تعالیٰ کی شان دیکھئے کہ چاروں رشتہ داروں کی چاروں تمنائیں اللہ رب العزت نے ہو بہو پوری فرمادیں جیسے نیت کی تھی سب کو ویسا مل گیا قبولیت کا وقت تھا تو یہ قدرت کی طرف سے ہوتا ہے، جو انسان مراد مانگتا ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں ہم اپنے بچوں کی چھوٹی چھوٹی تمنائیں پوری کر کے خوش ہوتے ہیں پروردگار اپنے نیک بندوں کی ایسی مرادیں پوری کر کے خوش ہو جاتے ہیں ﴿مَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا﴾ قرآن مجید کی آیت ہے جو انسان تقویٰ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسکے کاموں میں آسانیاں پیدا کر دیتا ہے اسلئے جب بھی معاملہ الجھ رہا ہو ہمیشہ بندہ سمجھے کہ تقویٰ میں کی آگئی ہے۔

پریشانیوں کا حل کس میں؟

چنانچہ درود شریف ایسا عمل ہے آپ کبھی پھنس جائیں کسی جگہ میں مثلاً کسی

دفتر میں، کسی دوست کے سامنے، کسی بھی جگہ پھنس جائیں، آپ چند دفعہ درود شریف پڑھئے دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت اس پریشانی میں سے نکلنے کا آپ کو راستہ دکھادیں گے۔

## اعمال صالحہ کی تاثیر

جو انسان متقی ہو استغفار کثرت سے کرے نبی ﷺ پر درود شریف کثرت سے پڑھے پروردگار عالم دنیا کی پریشانیوں سے محفوظ فرمادیتے ہیں پریشانیاں آتی ہیں گذر جاتی ہیں، بے چینی کا باعث نہیں بنتیں، بلکہ اللہ تعالیٰ پر خلوص زندگی عطا فرمادیتے ہیں ﴿مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ انْشَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ جو کوئی بھی نیک عمل کرے مرد ہو یا عورت اور وہ ایمان والا ہو ﴿فَلَنَحْنِیْہِ حَیْوۃً طَیْبَۃً﴾ اور ہم ضرور بالضرور اس کو پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اب یہ پروردگار کا وعدہ ہے قرآن مجید میں کہ مرد ہو یا عورت ہو اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، خوشگوار زندگی دیں گے پرسکون زندگی عطا فرمائیں گے، تو جب اللہ تعالیٰ وعدہ فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں نیک اعمال کرنے سے یقیناً ایسی زندگی نصیب ہوگی تیسری چیز ہے کہ اللہ رب العزت قحط سے بچاتے ہیں بارشیں عطا فرماتے ہیں پھل عطا فرماتے ہیں روزی میں برکت عطا فرمادیتے ہیں تو بندے کو قحط سالی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔

## ہر ضرورت کا علاج

حضرت حسن رحمہ اللہ تشریف فرما تھے ایک آدمی آیا کہنے لگا حضرت بڑا کنہگار ہوں بڑا خطا کار ہوں چاہتا ہوں کہ میرے گناہ معاف ہو جائیں مجھے طریقہ بتائیں؟ فرمانے لگے استغفار کر لو تھوڑی دیر گزری ایک آدمی آیا حضرت اس سیزن میں تو بالکل بارش ہوئی ہی نہیں اب تو مویشی بھی پانی کو ترستے ہیں دعا فرمائیے کوئی عمل بتائیے، فرمایا استغفار کر لو، ایک آدمی آیا حضرت بڑا غریب

ہوں قرضوں نے جکڑ رکھا ہے ادائیگی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی کوئی مجھے اسکا طریقہ بتائیے استغفار پڑھے جاو، پھر ایک آدمی آیا حضرت بڑی دل کی تمنا ہے کہ کئی سال ہو گئے شادی کو اللہ تعالیٰ مجھے نیک بیٹا عطا فرمائے انہوں نے کہا جاو استغفار کرو ایک آدمی آیا کہ حضرت میرا باغ تو ہے مگر یہ دعا کرو کہ اس سال اس میں پھل زیادہ لگیں، فرمایا استغفار کرو، ایک آدمی آیا کہ حضرت میری زمین ہے مگر اس میں پانی نہیں ہے تو میں کچھ کنواں وغیرہ کھودنا چاہتا ہوں دعا کریں کہ اس میں سے اللہ تعالیٰ پانی نکال دے، فرمایا استغفار کرو۔

اب ایک آدمی قریب ہی جو خدمت گزار تھا اس نے کہا کہ حضرت یہ ایک عجیب چیز آپ کے ہاتھ میں آئی ہے کہ جو پوچھنے آتا ہے استغفار کرو استغفار کرو تو انہوں نے فرمایا کہ دیکھو بھئی یہ جو استغفار کا عمل ہے نایہ میں نے اپنی طرف سے نہیں بتایا یہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بتایا ہے سچے پروردگار نے اپنے سچے کلام میں فرمایا ﴿فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ﴾ تم استغفار کرو اپنے رب کے سامنے ﴿اِنَّهٗ كَانَ غَفَّارًا﴾ وہ گناہوں کو بخشنے والا ہے ﴿يُرْسِلُ السَّمَاءَ عَلَیْكُمْ مَدْرَارًا﴾ بارشوں کو برسانے والا، قُطْ دور کرنے والا، ﴿وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ﴾ اور مال سے تمہاری مدد کرے گا، فقر دور ہو جائیگا ﴿وَبَنِينَ﴾ اور تمہیں بیٹے عطا کرے گا، ﴿وَيَجْعَلْ لَّكُمْ جَنَّاتٍ﴾ تمہارے باغوں میں اچھے پھل لگائے گا ﴿وَيَجْعَلْ لَّكُمْ أَنْهَارًا﴾ اور اللہ تعالیٰ تمہیں چشمہ اور نہر عطا فرمائے گا، تو یہ قرآن مجید کی آیت ہے اکیس بتلایا گیا ہے کہ استغفار کی کثرت سے اللہ تعالیٰ یہ سب نعمتیں عطا فرمادیتے ہیں، اسلئے قیامت کے دن سب سے زیادہ وہ آدمی خوش ہوگا جس نے اپنے اوپر استغفار کو لازم کیا ہوگا اور قیامت کے دن اسکے نامہ اعمال میں استغفار بہت زیادہ ہوگا ہم چلتے پھرتے بھی استغفار کر سکتے ہیں کئی مرتبہ گاڑی چلاتے ہوئے بھی استغفار کر سکتے ہیں، بیٹھے ہوئے بھی استغفار اللہ پڑھ سکتے ہیں مگر دیکھا یہ گیا کہ مشکل سے سودفعہ پڑھنے کی سعادت بھی قسمت والے



## استغفار پڑھنے میں کوتاہی

عموماً استغفار نہیں پڑھا جاتا حالانکہ اس استغفار میں ہماری پریشانیوں کا حل موجود ہے نبی ﷺ نے فرمایا: **لِزْمِ الْاِسْتِغْفَارِ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ هَمٍّ مَّخْرُجًا** اللہ تعالیٰ ہر پریشانی میں اسکے لئے آسانی کر دیں گے و **مَنْ كَلَّ ضَيْقٍ مَّخْرُجًا** اور اللہ تعالیٰ ہر تنگی میں سے نکلنے کا راستہ کھول دیں گے و **يَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ** ایسی طرف سے رزق دیں گے جس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔

(۴)..... فائدہ

نیک اعمال سے اللہ تعالیٰ بلائیں ٹال دیتے ہیں چنانچہ حضرت اقدس تھانویؒ نے یہ بات لکھی ہے کہ انہوں نے نبی ﷺ کی شان میں ایک کتاب لکھی ”نشر الطیب“ نام کی، ان دنوں اس علاقہ میں طاعون پھیلا ہوا تھا ”تھانہ بھون“ اور اسکے قریب ”کاندھلہ“ وغیرہ میں حضرت فرماتے ہیں کہ میرا یہ تجربہ ہے جس دن میں اس کی لکھائی کا کام کرتا تھا مجھے کہیں سے کسی بندے کے مرنے کی اطلاع نہیں آتی تھی اور اگر کسی دن میں کوئی کام نہ کر پاتا بند ہو جاتا تو اسی دن کسی نہ کسی کی مرنے کی خبر آ جاتی، محبوب کی شان میں کتاب لکھی جا رہی ہے اس کی برکتیں اتنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ علاقہ سے بلا کو دور فرما دیتے ہیں۔

ہم نے اپنے حضرت مرشد عالمؒ کے بارے میں دیکھا، کوئی مدرسہ بند ہوتا تھا وہ وہاں سے گزرتے ہوئے دعا کر کے چلے جاتے تھے، یا تھوڑی دیر بیٹھ جاتے تھے، یا ایک وقت کا کھانا کھا لیتے تھے یا ایک رات گزار لیتے تھے بند مدرسوں کو اللہ تعالیٰ چلا دیتے تھے، درجنوں کے حساب سے ایسے واقعات ہم نے دیکھے کسی وجہ سے کوئی پریشانی ہے مدرسے والے بلا کر لے جاتے تھے ایک رات ٹھہراتے تھے حضرت کی تہجد کی دعائیں ایسی ہوتی تھیں اللہ اس مدرسہ کے

معاملے کو سیدھا کر دیتے تھے، بلائیں کہ لا، اللہ تعالیٰ مال دیتے۔ تھے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت ہوتی تھی۔

چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ ہمارے ذمہ میں ہے مدد اپنے رسولوں کی ﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا﴾ اور ایمان والوں کی ﴿فَإِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ اس دنیا کی زندگی میں ﴿وَنُزِمَ يَقُومُ الْإِشْهَادُ﴾ اور اس دن جب گواہیاں دی جائیں گی۔

﴿إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا﴾ ہمارے اوپر لازم ہے اگر اس کا ترجمہ ہم اپنی زبان میں کریں محاورے کا، تو یوں بنے گا کہ ہمارے اوپر اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی مدد کرنا فرض ہے، یاد رکھئے اللہ تعالیٰ پر کچھ فرض نہیں ہے، مفہوم ایسے بنتا ہے، یوں کہنا چاہتے ہیں ہمارے اوپر لازم ہے اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مدد جب اترتی ہے تو میرے دوست وہ ذہن میں رکھ لینا جس پلڑے میں اللہ تعالیٰ کی مدد کا وزن آجاتا ہے پھر وہ پلڑا ہا ساری دنیا سے بھاری ہو جاتا ہے۔

## (۵)..... فائدہ

اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعہ سے بندے کی مدد فرما دیتے ہیں، ماں کی دعائیں ہوتی ہیں، صدقہ دیا ہوتا ہے، فرشتوں کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مدد کر دیتے ہیں آپ نے دیکھا کئی دفعہ اتنا برا ایکسیڈنٹ ہوتے ہوتے بچ جاتا ہے ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے بچا لیا قدرت کے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں بندے کو بچا لیتے ہیں

فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو  
اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی

## ایک عجیب بات

مفسرین نے لکھا ہے کہ بدر میں جو فرشتے اترے اللہ تعالیٰ نے انکو واپس آسمانوں پر نہیں بلایا، وہ دنیا میں ہی ہیں یہ خدائی بحری بیڑا اٹھائی بیڑا اب واپس نہیں

جائے گا یہ ادھر ہی ہے ایمان والو جہاں تم اپنے عملوں کو ٹھیک کر لو گے اپنے اندر تقویٰ پیدا کر لو گے، تمہیں ضرورت ہوگی، ہم انکو اس جگہ سے تمہاری جگہ بھیج دیں گے، تو دنیا میں پھر اللہ رب العزت عزتیں عطا فرماتے ہیں۔

چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو بلا تے ہیں فرماتے ہیں جبریل میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں تو تو حضرت جبریل علیہ السلام ایک اعلان کرتے ہیں آسمان پر جو سارے فرشتے سنتے ہیں کہ اے فرشتو اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت کرتے ہیں تو آسمان کے سب فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں پھر جبریل علیہ السلام زمین پر آتے ہیں اور زمین پر آکر اعلان کرتے ہیں حدیث پاک میں ہے [ثم یوضع لہ القبول فی الارض] جبریل علیہ السلام کے اعلان کے بعد اللہ تعالیٰ زمین میں انکے لئے قبولیت رکھ دیتے ہیں، عزتیں ملتی ہیں۔

## دونوں کی حکومت الگ الگ

ایک مرتبہ ہارون رشید کی بیوی کھڑکی میں نیچے دیکھ رہی تھی، اور مسجد میں نیچے امام ابو یوسفؒ درس دے رہے تھے ان کو جو چھدیک آئی تو انہوں نے الحمد للہ کہا جس پر پورے مجمع نے یوحکم اللہ کہا اس یوحکم اللہ کہنے کی اتنی آواز پیدا ہوئی کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہوا، ہارون رشید دوسرے کمرے میں تھا اچانک گھبرا کر آیا پوچھنے لگا کیا ہوا؟ وہ کہنے لگی کہ ہارون رشید ایک بندہ اللہ کا اس نے چھینک پر الحمد للہ کہا اتنے لوگوں نے جواب دیا کہ تم دوسرے کمرے سے اٹھ کر آ گئے، درحقیقت دلوں کے بادشاہ تو یہ لوگ ہیں تم تو جسموں کے بادشاہ ہو یہ دلوں کے بادشاہ ہیں تو یوں اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرما دیتے ہیں۔

## حضرت احمد علی لاہوریؒ کا واقعہ

حضرت مولانا احمد لاہوریؒ سکھ گھرانے سے تھے اسلام قبول کر لیا دارالعلوم

دیوبند میں پڑھنے آگئے یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے سر بڑے سمجھ دار آدمی تھے انہوں نے احمد علی کو اس وقت پہچانا جبکہ احمد علی احمد علی نہیں تھا، حضرت مولانا احمد علی لاہوریؒ یہ ولایت کبریٰ کے مقام کے لوگوں میں سے تھے مستجاب الدعوات بزرگوں میں سے تھے ان کا درس قرآن بہت مقبول تھا، بہت مانی ہوئی غیر متنازع شخصیت تھی اپنی شادی کا واقعہ سناتے ہیں ذرا شوق و توجہ سے سنیں فرماتے ہیں کہ میرے سر کو بیوی نے اطلاع دی کہ میری بیٹی کی عمر پوری ہو گئی کوئی مناسب رشتہ ہو تو اس کا فرض نبھائیں، تو میرے سر پنجاب کے مدارس میں اپنی بیٹی کے لئے مناسب بچہ ڈھونڈنے کے لئے نکلے مدارس میں راؤنڈ کرتے کرتے بالآخر دارالعلوم میں پہنچے شیخ الہندؒ کے خصوصی دوست تھے ان سے ملاقات ہوئی تو دورہ حدیث کے طلباء پر نظر ڈالی فوراً انکی نظر میرے اوپر ٹک گئی انہوں نے شیخ الہندؒ سے پوچھا کہ یہ بچہ شادی شدہ ہے؟ انہوں نے کہا نہیں اسے کون لڑکی دے گا یہ سکھ گھرانے کا لڑکا ہے اور یہاں کئی دفعہ بیٹھا ہوتا ہے پڑھنے کے لئے تو اسکی ماں جو سکھ ہے وہ آتی ہے اسے گالیاں نکال کر چلی جاتی ہے، چپ رہتا ہے بے چارہ اس درویش کو کون بیٹی دے گا؟ انہوں نے کہا کہ اچھا آپ ان سے پوچھیں اگر یہ تیار ہوں تو میں اپنی بیٹی کے ساتھ نکاح کر دوں گا؟ فرمایا پوچھ لیتے ہیں، شیخ الہندؒ نے پوچھا تو کہنے لگے کہ حضرت میں بے یار و مددگار سائبندہ ہوں اگر کوئی مجھے اپنا بیٹا بنائے اور اپنی بیٹی کا رشتہ دے تو میں تو اس سنت پر عمل کروں گا، اور اس سے زیادہ خوش نصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ انہوں نے بتا دیا، چنانچہ سر نے کہا کہا کہ کل عصر کے بعد ہم ان کا نکاح پڑھ دیں گے، فرمانے لگے کہ میں کمرے میں آ گیا اب میں نے اپنے دوستوں کو بتا دیا کہ بھی کل میرا نکاح ہونا ہے لہذا یہ خبر جنگل کی آگ کی طرح سب لڑکوں میں پھیل گئی، اب لڑکے آنے شروع ہو گئے، جناب کوئی کچھ کہہ رہا ہے کوئی کچھ کہہ رہا ہے، ایک نے کہا بھی بات یہ ہے کہ یہ جو تم نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ تو بہت میلے کپیلے پرانے ہیں تم کسی

سے ادھار لے کر دوسرے پہن لو، میں نے کہہ دیا بھائی بات یہ ہے کہ میں نے کبھی کسی سے ادھار نہیں مانگا جو ہیں میرے اپنے ہیں میں کسی سے لے کر نہیں پہنتا، ساتھی نے کہا اچھا اگر آپ کسی سے ادھار نہیں مانگ سکتے تو مت مانگئے ایسا کریں کہ کل ان کپڑوں کو آپ دھو کر صاف کر کے پھر پہن لینا، مجمع میں کم از کم صاف کپڑوں میں تو بیٹھو گے، فرمانے لگے میری بدبختی آگئی کہ میں نے ہاں ہاں بھر لی، اگلے دن سبق ختم ہوا تو میں نے دھوتی سی باندھی اور کپڑے اتارے اور ان کو دھو ڈالا، اللہ کی شان سردیوں کا موسم اوپر سے بادل آ گئے اب ظہر کا وقت بھی قریب آ گیا میرے کپڑے گیلے میں مسجد کے پیچھے جا کر کپڑوں کو لہرا رہا ہوں اور اللہ سے دعا مانگ رہا ہوں اللہ میرے کپڑے خشک کر دے وہ تونہ ہونے تھے نہ ہوئے اور ظہر کی اذان ہو گئی، اب مجھے مجبوراً گیلے کپڑے پہن کر سردی کے موسم میں مجمع میں بیٹھنا پڑا اب سب کہیں کہ جی دولہا کون ہے؟ اب سب کی نظر مجھ پر پڑے اور پتہ چلے گیلے کپڑے سردی میں پہن کے بیٹھا ہے فرمانے لگے میرے سر کو اللہ نے وہ سونے کا دل دیا تھا انہوں نے دیکھا کہ کل یہی کپڑے تھے اور میلے تھے آج یہی ہیں اور گیلے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اس بچے کے پاس دوسرا جوڑا بھی نہیں ہے، ان کے دل پر اس بات کا کوئی اثر ہی نہ ہوا وہ تو میری پیشانی کے نور کو دیکھ رہے تھے۔

مرد حقانی کی پیشانی کا نور

کب چھپا رہتا ہے پیش ذی شعور

تو کہنے لگے انہوں نے میرا نکاح پڑھ دیا جب میں فارغ ہو گیا دورہ حدیث سے اور رخصتی ہو گئی تو جب میں بیوی کو لے آیا تو ابتدائی ایک دو مہینہ میرے پاس رہی ان میں بھی اسے فاقہ کرنا پڑا کیوں کہ میرے پاس تو کچھ ہوتا نہیں تھا جو ملتا ہم دونوں کھا لیتے ورنہ فاقہ سے دن گزارتے۔

مہینہ کے بعد وہ اپنے میکے گئی جیسے بچیاں جاتی ہیں شادی کے بعد، تو فرماتے

ہیں کہ جب وہ اپنے گھر گئی تو اسکی ماں نے پوچھا بیٹی تو نے اپنے گھر کو کیسا پایا؟ فرمانے لگے اتنی تقیہ نقیہ پاکباز وہ بچی تھی اپنی ماں سے کہنے لگی کہ امی میں تو سنتی تھی کہ مر کر جنت میں جائیں گے اور میں تو جیتے جاگتے جنت میں پہنچ گئی ہوں، اللہ اکبر کبیرا، اتنی صابرہ شاکرہ تھی کہنے لگے بس پھر اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں برکتیں دینی شروع کر دیں، جب خاوند ایسا ہوا اور بیوی ایسی ہو تو پھر برکتیں کیوں نہ ہوں گی، چنانچہ حضرت فرمانے لگے ایک وہ وقت تھا کہ جب کھانے کو نہیں ملتا تھا اور ایک آج احمد علی پر وہ وقت ہے کہ میرے کھانے کے لئے طائف سے پھل آتے ہیں اور پھر انہوں نے فرمایا کہ سرودھا کے علاقہ کے بڑے بڑے لوگ جو سرگودھا کے کلیار ہیں انکی بیویاں آج میرے گھر میں آ کر برکت کے لئے جھاڑو دے کر جاتی ہیں، اتنے بڑے لین لارڈوں کی بیویاں برکت کے لئے میرے گھر میں آ کر جھاڑو دے رہی ہیں، آج اللہ کا مجھ پر اتنا کرم ہے،

تو کتنی عجیب بات ہے کہ کچھ گھرانے کا بچہ جس کا کوئی اپنا نہیں تھا اللہ تعالیٰ نے اسکو دنیا میں ایسی عزتیں عطا فرمادیں چنانچہ مشہور واقعہ ہے کہ اپنی وفات کے بعد وہ علماء میں سے کسی بڑے عالم کو خواب میں نظر آئے اس نے پوچھا حضرت آگے کیا بنا تو حضرت کثیر البکاء تھے (کثرت سے روتے تھے) خوف خدا ہر وقت دل پر رہتا تھا فرمانے لگے اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی ہوئی تو پروردگار نے فرمایا احمد علی تو اتاروتا کیوں تھا؟ کہنے لگے جب مجھ سے پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ نبی ﷺ کا فرمان ہے [من نوتش الحساب فقد عذب] جس سے حساب کتاب میں پوچھ شروع ہوگئی وہ نہیں بچے گا، تو میں ڈر گیا اور جب میں ڈرا تو پروردگار نے فرمایا احمد علی اب بھی ڈر رہے ہو آج تمہارے ڈرنے کا نہیں خوش ہونے کا دن ہے، ہم نے تمہیں معاف کر دیا اور جس قبرستان میں تمہیں دفن کیا وہاں کے سب گنہگاروں کو بھی ہم نے معاف کر دیا، چنانچہ قبر کی مٹی سے خوش ہوا کرتی تھی، غلاموں، انسانوں، جانکی قبر کی مٹی اٹھا کر گھر لے جانا

شروع کر دیا تھا، تو علماء متوجہ ہوئے پھر انہوں نے مل کر مستقل دعا مانگی اے اللہ بس جو چیز ظاہر ہو رہی ہے اس ظہور کو ختم کر دے ورنہ لوگ مٹی ہی نہیں چھوڑیں گے، اللہ تعالیٰ نے اتنے صلحا کی دعا کو قبول کر لیا تب جا کر انکی قبر سے خوشبو آنی بند ہو گئی، اللہ تعالیٰ عزتیں عطا فرمادیتے ہیں، جس کا اپنا کوئی نہیں ہوتا ساری دنیا پھر اسی کی بن جاتی ہے جس کو کھانے کے لئے روٹی نہیں ملتی اسکو کھانے کے لئے پھر طائف سے پھل آیا کرتے ہیں ماشاء اللہ میرے دوستو آج کے زمانہ میں تو یہ آسان ہے جب بحری جہاز آتے جاتے تھے اس زمانہ میں یہ طائف سے پھل آنا کوئی آسان کام نہیں تھا، تو اللہ رب العزت دنیا میں عزتیں عطا فرماتے ہیں

(۶)..... فائدہ

فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں مراتب بلند فرمادیتے ہیں چنانچہ ارشاد فرمایا ﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ اللہ تعالیٰ (اس حکم کی اطاعت سے) تم میں ایمان والوں کے اور (ایمان والوں میں) جسکو علم (دیں) عطا ہوا ہے انکے درجے بلند کر دے گا۔

امام ابو یوسفؒ غریب گھر کے بچے تھے یتیم ہو گئے ماں نے بھیجا بیٹا جاو اور جا کر دھوبی کے پاس کپڑے دھونے کا کام سیکھ لو کچھ کپڑے دھویا کرو گے تو ہمارا گذران چل پڑے گا، یہ گھر سے چلے دھوبی کا فن سیکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی شان، امام اعظم ابو حنیفہؒ کا درس ہو رہا تھا درس میں بیٹھ گئے درس کچھ اچھا لگا لوگ اٹھ کر چلے گئے یہ تھوڑی دیر بیٹھ کے سوچتے رہے امام ابو حنیفہؒ کی نظر پڑ گئی وہ بڑے مردم شناس تھے، انہوں نے بلایا بچہ کیا نام ہے؟ کیا کرتے ہو؟ سارا کچھ بتا دیا انہوں نے چہرے سے پہچان لیا کہ اسکے اندر بلا کی ذہانت ہے، فرمانے لگے کہ جتنا تجھے دھوبی دے گا اتنا میں تجھے دے دیا کروں گا تو روز آ کر یہاں میرے پاس درس پڑھا کر یہ راضی ہو گئے کچھ انکا اپنا بھی جی چاہ رہا تھا قرآن اور حدیث

پڑھنے کو اور اوپر سے جواں کا مسئلہ تھا وہ بھی حل ہو گیا چنانچہ امام صاحب حساب سے انکو کچھ دیدیتے یہ آگے والدہ کو دیدیتے اس طرح پڑھتے رہے حتیٰ کہ پڑھتے پڑھتے یہ امام ابو یوسف بن گئے، بہت سی حدیث کے حافظ تھے انکو کثیر الحدیث عالم کہا گیا ہے، بڑے ذہین تھے اللہ تعالیٰ کی شان اب جب امام ابو یوسف بن گئے تو ایک دن والدہ کو پتہ چلا کہ میرا بیٹا تو مسئلے مسائل بتاتا ہے یہ دھوبی کا کام تو نہیں کرتا اس نے کہا بیٹے میں نے تم سے کہا تھا کوئی فن سیکھنا انہوں نے امام اعظم کو بتایا، انہوں نے فرمایا بھی اپنی امی سے کہنا کہ وہ آئیں اور میرے ساتھ بات کر لیں، پردے میں یہ اپنی والدہ کو لیکر آئے انہوں نے انکی بات سنی کہ جی میں نے تو اس بچے کو کہا تھا کہ دھوبی کا کام سیکھے ہنر سیکھے اور یہ تو مسئلے مسائل میں لگا رہتا ہے امام صاحب نے سمجھایا کہ دیکھیں جو آپ کی ضرورت ہے وہ تو اللہ پورا کر ہی رہے ہیں، آپ کو گھر بیٹھے خرچ مل رہا ہے، فاقہ نہیں آتا، آپ اس بیٹے کو اگر دین کے لئے استعمال کریں گے تو یہ آپ کے لئے آخرت کا صدقہ جاریہ بنے گا، اور پھر آخر پر فرمایا کہ میں نے اس بچے کو وہ فن سکھایا ہے جس کی وجہ سے یہ پستے کا بنا ہوا حلو کھایا کرے گا، ماں سمجھی کہ شاید استاذ صاحب نے میری مذاق کی ہے، چپ ہو گئی اللہ تعالیٰ کی شان کہ کچھ عرصہ کے بعد وقت کے بادشاہ نے یہ کہا کہ حکومت کو چیف جسٹس کی ضرورت ہے اس نے امام اعظم کو بنانے کی کوشش کی امام اعظم بنتے نہیں تھے چونکہ وہ تدوین فقہ میں لگے ہوئے تھے انہوں نے صاف انکار کر دیا اس نے کہا اچھا جی کوئی اور بندہ دیدو تو انہوں نے امام ابو یوسف کو دیدیا چنانچہ یہ پوری اسلامی دنیا کے اکیلے چیف جسٹس تھے باقی جتنے قاضی تھے اسلامی دنیا کے سب انکے نیچے تھے، تو اب آپ سوچئے کہ سپریم کورٹ کا جو چیف جسٹس بنے اسکی ویلیو کیا ہوتی ہے، اللہ نے ان کو وہ مقام دیا جب یہ اس منصب پر تعینات ہوئے تو دوسرے تیسرے دن ہارون رشید ان کو ملنے کے لئے آیا تو ہارون رشید نے کچھ بات چیت کے بعد انکے سامنے ایک



برتن بڑھایا انہوں نے پوچھا اس میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ حضرت جو اس منصب پر آتا ہے تو اسکے پرٹوکول میں سے ہے کہ اسکو دماغی کام بہت کرنا پڑتا ہے، لہذا یہ چیز اسکو ہر دوسرے چوتھے دن کھلائی جاتی ہے، ڈاکٹروں کے اطباء کے مشورے کی وجہ سے دماغی کام کرنے والے کی یہ ضرورت ہے اور یہ ہمیں بھی کبھی کبھی ملتی ہے تو امام ابو یوسف نے پوچھا یہ ہے کیا کہنے لگاتی یہ پستے کا بنا، واحد! ہے آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن مل جایا کرے گا امام ابو یوسف کہتے ہیں میں حیران ہو گیا۔

فلند ر ہر چہ گوید دیدہ گوید

امام اعظم ابو حنیفہ کی فراست پر کہ انہوں نے جو بات کہی تھی اللہ نے اس بات کو سچ ثابت فرمادیا، تو دیکھئے وہ بچہ جو دھوبی کافن سیکھنے جا رہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو وقت کا چیف جسٹس بنادیا تو مقام ملتے ہیں نیکوں کی وجہ سے۔

(۷)..... فائدہ

اللہ رب العزت انسان کو بیماریوں سے بھی شفاء فرماتا ہے، ہم نے اپنے بزرگوں کو دیکھا الحمد للہ اللہ تعالیٰ کی مدد ہوتی تھی، ہمارے ایک بزرگ تھے بابو جی عبداللہ ان کو ڈاکٹر دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کیسے زندہ ہیں اور چل رہے ہیں اللہ اکبر اسلئے کہ وہ لوگ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور قرآن مجید انکے لئے شفا بن جایا کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ انکے نقصان کا تدارک بھی خود کر دیتا ہے قرآن مجید کی آیت سنئے ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِمَنْ فِي آيَاتِكُمُ مِنَ الْآسْرِ إِنْ يَعْلَمُ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ خَيْرًا يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِمَّا آخِذُكُمْ بِهِ وَيَغْفِرَ لَكُمْ﴾ قرآن عظیم الشان اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو تم سے لیا جائے گا اللہ تعالیٰ تمہیں اس سے بہتر عطا فرمادیں گے، تمہارے نقصان سارے پورے کر دیں گے اور اللہ رب العزت پھر ایسے بندوں کو مال کی بھی فراوانی عطا فرما



دیتے تھے اور وہ انکو اللہ کے راستے میں بہت خرچ کرتے تھے اللہ دیتا تھا اور وہ خرچ کرتے تھے۔

## حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا غنا

عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کو دیکھئے مدینہ میں قحط پڑا اور عین اس وقت ان کے کئی سواونٹ جو تھے وہ شام سے بھرے ہوئے آگئے اب یہ ایسا وقت تھا کہ لوگ غلے کو ترس رہے تھے اور انکا قافلہ آگیا تو جوتا جرتھے وہ بھاگے ہوئے ان کے پاس آئے کہ جی ہمارے ساتھ تھوک کا سودا کر لیں، ہم آپ کے اتنے اونٹ لے لیں گے ہم اتنے اتنے اونٹ لے لیں گے، فرمانے لگے کتنے منافع دو گے؟ ایک نے کہا دو گنا دیں گے، ایک نے کہا تین گنا، چار گنا، بڑھنے لگے بڑھتے گئے، حتیٰ کے ایک نے کہا کہ کہ جو آپ کی قیمت خرید ہے بتادیں دس گنا زیادہ پر خرید لیں گے، سینکڑوں اونٹوں پر سامان اب دس گنا پر خریدنے کے لئے لوگ تیار انہوں نے کہا نہیں میں نہیں بیچتا کسی نے کہا عثمان دس گنا پر خرید رہے ہیں اتنا منافع بھی قبول نہیں؟ فرمانے لگے ہاں ایک اور خریدار ہے جو سات سو گنا پر خریدنا چاہتا ہے بلکہ ۱۰۰۰ واللہ یضاعف لمن یشاء بغیر حساب ۱۰۰۰ وہ بغیر حساب مجھے اس کا بدلہ دے گا، سینکڑوں اونٹ وہ سب کے سب مسلمانوں میں مفت تقسیم فرمادئے۔

## (۸)..... فائدہ

ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے پیارے بندوں اور اپنے نیک بندوں کو اطمینان قلب عطا فرمادیتے ہیں، دل کو اطمینان دیدیتے ہیں اگر کوئی ظاہری پریشانیاں ہوتی ہیں تو وہ ظاہر پر ہوتی ہیں دل میں نہیں ہوتی کہتے ہیں کہ شیخ عبدالقادر جیلانی ایک مرتبہ بیٹھے تھے تو کسی نے آکر خبر دی کہ جی آپ کے مال کا جو جہاز آ رہا تھا وہ سمندر میں ڈوب گیا، آپ تھوڑی دیر خاموش رہے

فرمانے لگے الحمد للہ پھر دو گھنٹے کے بعد پھر ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا حضرت وہ جو اطلاع آئی تھی جہاز ڈوبنے کی وہ غلط تھی وہ ڈوبتے ڈوبتے بچ گیا اور وہ بخیریت کنارے پر آگیا ہے، آپ تھوڑی دیر خاموش رہے فرمایا الحمد للہ اب خادم بڑا حیران حضرت ڈوبنے کی اطلاع ملی تو الحمد للہ بچنے کی اطلاع ملی تو الحمد للہ فرمانے لگے کہ جب مجھے ڈوبنے کی خبر ملی میں نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا تو دل میں کچھ دکھ اور افسوس محسوس نہیں کیا، میں نے کہا الحمد للہ اور جب بچنے کی اطلاع ملی میں نے اپنے دل میں جھانک کر دیکھا تو کوئی خوشی محسوس نہیں کی میں نے کہا الحمد للہ اللہ میں تیرے اس حال میں بھی راضی ہوں، میں تیرے اس حال میں بھی راضی ہوں۔

### ایک اللہ کے ولی کا جواب

چنانچہ ایک بادشاہ تھے انہوں نے دیکھا کہ ان کے مریدین بہت زیادہ ہیں اور نیکی لوگوں میں پھیل رہی ہے اور زندگیاں بدل رہی ہیں تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے اپنا ایک سپاہی بھیجا اور اس کو ایک کاغذ دے کر بھیجا کہ میں نے ملک نیمروز کی حکومت آپ کو دیدی یہ جائیداد آپ کی ہے اب آپ اس جاگیر کی آمدنی سے اپنی خانقاہ کا خرچہ چلائیں لنگر چلائیں انہوں نے اس کو پڑھا تو پڑھ کر اسکے بیک سائڈ پر اس کا جواب لکھ کر واپس بھیجا اور جواب بڑا مزیدار لکھا جواب میں پہلی بات تو یہ لکھی

..... میرے بخت کالی رات کی طرح سیاہ ہو جائیں اگر میں تیری پیشکش کو قبول کر لوں۔

..... دوسری بات یہ لکھی کہ جس دن سے مجھے نیم شب کی شاہی ملی ہے اس دن سے نیمروز کی بادشاہی میرے نزدیک چھڑکے پر کے برابر ہو گئی ہے۔

تو یہ لوگ نیم شب کے بادشاہ ہوتے تھے اس وقت میں اپنے ہاتھ اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچا دیتا تھا

## (۹)..... فائدہ

انسان کی نیکی کا نفع اس کی اولاد تک بھی پہنچتا ہے جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی یہ بڑی اہم بات ہے ذرا سنئے گا انسان کی نیکی کا اثر اس کی اولاد تک پہنچتا ہے جسمانی طور پر بھی روحانی طور پر بھی جسمانی طور پر تو سورہ کہف کے اندر واقعہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو دیوار سیدھی کی تھی ﴿اما الجدار فكانت لغلामین یتیمین فی المدینۃ﴾ اس جگہ پر دو یتیم بچے تھے ﴿وکان تحتہ کنز لہما وکان ابوہما صالحا﴾ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کے والد بڑے نیک تھے، مفسرین نے لکھا کہ ان کے اوپر کے والد نہیں کہیں ساتویں پشت پر کوئی اللہ کے بڑے ولی گذرے تھے، اس ولی کی رعایت کی وجہ سے ساتویں پشت والوں کے ساتھ بھی اللہ کی رحمتیں ہو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ بچے بڑے ہو جائیں اور وہ خزانہ ان کو مل جائے اب سوچنے کی بات ہے کہ پروردگار کے یہاں نیک بندے کا ایسا مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساتویں نسل کے فائدے کا بھی خیال فرما لیتے ہیں اللہ اکبر،

## خوش نصیبی کی بات

اور نیکی کے روحانی طور پر بھی بڑے فائدے ہیں، چنانچہ قرآن مجید میں فرمایا ﴿والذین آمنوا واتبعتہم ذریعتہم بایمان، الحقنا بہم ذریعتہم وما اللناہم من عملہم من شئ﴾ جو لوگ ایمان لے آئے اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی ان کے نقش قدم پر چلے مگر اولاد ایسی نہ بن سکی جیسے ان کے باپ تھے اللہ فرماتے ہیں اس نسبت کی وجہ سے رشتہ کی وجہ سے تعلق کی وجہ سے ہم قیامت کے دن اولادوں کو بھی ان کے والدین سے ملا دیں گے، کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے تو اولاد کے لئے جسمانی بھی فائدے ہیں اور روحانی بھی فائدے ہیں اس لیے اس سے بہت محتاط رہنا چاہیے کہ مال کا زیادہ ہونا اللہ

کے قرب میں رکاوٹ نہیں بنتا اس لئے کہ اس آیت کے اندر کنز کا لفظ استعمال ہوا ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ کنز سے مراد خزانہ ہوتا ہے چھوٹے موٹے پیسے نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب کہ اللہ کے ولی کی اولاد تھی اور انکے لئے خزانہ تھا اللہ نے پسند کیا کہ خزانہ ان کے بچوں کو مل جائے تو مال کا زیادہ ہونا یہ کوئی عیب کی بات نہیں ہے اگر انسان اس کا حق ادا کرتا رہے۔

### (۱۰)..... فائدہ

اللہ تعالیٰ اپنے ان نیک بندوں کو غیبی بشارتیں عطا فرمادیتے ہیں کبھی نبی ﷺ کا دیدار ہوتا ہے امام احمد بن حنبلؒ کو خواب میں سو مرتبہ اللہ رب العزت کا دیدار نصیب ہوا حضرت شیخ الحدیثؒ نے یہ واقعہ لکھا ہے بشارتیں ہوتی ہیں نیک لوگوں کی زیارتیں ہوتی ہیں، چنانچہ البدایہ والنہایہ میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علیؑ نے ایک مرتبہ خواب میں نبی ﷺ کو دیکھا اور فجر کی نماز ان کے پیچھے ادا فرمائی جب نبی ﷺ نے نماز پڑھائی تو اسکے بعد آپ مصلے پر بیٹھ گئے مقتدی لوگوں کی طرف رخ فرما کر، اتنے میں ایک عورت آئی اور اس نے نبی ﷺ کی خدمت میں کھجوریں پیش کیں آپ ﷺ نے کھجوریں قبول کر لیں اور ان میں سے آپ نے دو کھجوریں حضرت علیؑ کو بھی دیں جب انہوں نے خواب میں لے کر کھائیں تو مزہ بھی آیا اور آنکھ بھی کھل گئی اب حضرت علیؑ بڑے خوش تھے، دور فاروقی تھا (عمرؓ کی خلافت کا زمانہ تھا) بڑے خوش تھے کہ آقا کا دیدار ہوا اور خواب میں آقا سے نعمت کھانے کو ملی تہجد کا وقت تھا خیر فجر ہو گئی تو یہ آئے نماز پڑھنے مسجد نبوی میں اللہ تعالیٰ کی شان کہ عمرؓ بھی آئے اور انہوں نے نماز پڑھائی اور نماز میں وہی سجدتیں پڑھیں پہلی اور دوسری رکعت میں جو خواب میں نبی ﷺ نے پڑھیں اور اسکے بعد وہ مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے فرماتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ خواب اتنا سچا نکلا کہ

ایک عورت ایک طشتری میں کھجوریں لے کر آگئی کہنے لگی امیر المؤمنین قبول فرمالیجئے حضرت عمرؓ نے وہ کھجوریں لے لیں اور ان میں سے دو کھجوریں مجھے بھی دیں کہا کہ علیؓ آپ بھی کھالیجئے کہنے لگے میں نے کھائیں تو بڑی مزیدار تھیں میرا جی چاہا کہ میں اور کھاؤں تو میں نے کہا امیر المؤمنین مجھے کچھ اور بھی دیدیتے تو حضرت عمرؓ مجھے دیکھ کر مسکرائے فرمانے لگے بھائی علیؓ اگر آ پکونبی ﷺ نے اور دی ہوتی تو میں بھی آپ کو اور دیتا، حضرت علیؓ کہتے ہیں کہ میں امیر المؤمنین کی فراست اور کشف کے اوپر حیران رہ گیا۔

## ایک واقعہ

حضرت عمرؓ کا ایک اور واقعہ ہے ایک مرتبہ یہ سوئے ہوئے تھے اچانک اٹھ بیٹھے اور اچانک اٹھ کر فرمانے لگے کہ ”یہ بنو امیہ کا زخمی کون ہے؟ جو عمر سے پیدا ہوگا اس کا نام بھی عمر ہوگا وہ عمر کی سیرت پر چلے گا اور زمین کو عدل سے بھر دے گا“ اب سب لوگوں نے یہ بات سنی کہ عمرؓ نے یہ خواب دیکھا یہ خواب ان کی اولاد میں چلتا رہا چلتا رہا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے اپنے بیٹے عاصم کا نکاح اس لڑکی سے کیا تھا جس نے دودھ میں پانی ملانے سے انکار کر دیا تھا مشہور واقعہ ہے ان کی ایک بیٹی تھی اس کا نام لیلیٰ تھا لیکن بعد میں وہ ام عاصم کے لقب سے مشہور ہو گئی، اس ام عاصم کو اللہ نے ایک بیٹا دیا اس نے اس کا نام عمر رکھا یہ بچا بھی چھوٹا تھا چلتا پھرتا تھا کہ ایک دن یہ والدہ سے نظر بچا کر اصطلیل میں نکل گیا جہاں گھوڑے بندھے ہوئے تھے تو جیسے ہی گیا ایک گھوڑے نے اسکو جو پیچھے سے لات ماری تو اسکی پیشانی پر لگی تو ماتھے سے خون نکل آیا، ماں دوڑی ماں نے بھی اسکو سینہ سے لگایا اسکا خون صاف کیا، پھر اس کا والد آ گیا عبدالعزیز تو والدہ جو تھیں وہ ان سے خفا ہونے لگیں کہ آپ گھر پر کوئی باندی ہی دیدیں کوئی نوکر ہی دیدیں جو بچے کو ہی سنبھال لیا کرے ہم بچے کی ہی پرورش صحیح نہیں کر سکتے تو ان

کے والد نے کہا کہ ناراض نہ ہو، میرا دل کہتا ہے کہ میرے اس بچے کا نام عمر بھی ہے یہ خاندان عمر میں سے بھی ہے اور اسکے چہرے پر اللہ نے زخم بھی لگا دیا مجھے لگتا ہے کہ یہ میرا جانشین بنے گا اور اللہ نے انکی بات سچ کر دی یہ عمر بڑے ہو کر عمر بن عبدالعزیز بنے اور انہوں نے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیا، اس طرح حضرت عمرؓ کا دیکھا ہوا خواب سو فیصد سچا ثابت ہوا۔

### حضرت مجددؒ کا خواب

حضرت خواجہ مجدد الف ثانیؒ فرماتے ہیں کہ مجھے خواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ بشارت دی کہ تجھے ہم ایک بیٹا عطا کریں گے جو اپنی پوری زندگی میں کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا کبیرہ گناہ کرے گا ہی نہیں اللہ اکبر تو جب بچہ پیدا ہوا تو اس کا نام امام ربانی مجدد الف ثانیؒ نے محمد معصوم رکھا اسی نسبت سے کہ بشارت ہے کہ یہ کبیرہ گناہ کا مرتکب نہیں ہوگا محمد معصوم اور وہ آپ کا جانشین بنا اور پھر اللہ رب العزت نے ان کے فیض سے آگے انڈیا پاکستان میں معلوم نہیں کہاں کہاں تک اس دین کو پہونچا دیا۔

### (۱۱)..... فائدہ

چنانچہ اللہ رب العزت حاجت روائی میں مدد فرماتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ یہ حضرات مدد مانگتے ہیں نماز کے ذریعہ سے صبر کے ذریعہ سے پھر اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دیتے ہیں چنانچہ صحابہ کرام کی زندگیوں میں اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے اترتی تھی اسکے لئے ایک کتاب ہے فتوح الشام علامہ ذہبیؒ نے لکھی یہ پہلے تو عربی میں لکھی تھی اب اس کا اردو میں بھی ترجمہ ہو گیا ہے اب اس کو عام نوجوان بھی پڑھ سکتے ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ ہر مسلمان نوجوان اس کتاب کو ضرور پڑھے احساس ہوتا ہے کہ صحابہ کرام نے قربانیاں کیسے دیں؟ دین کی خاطر انہوں نے مشقتیں کیسی اٹھائیں، اور اللہ کے نام پر انہوں نے کیسے دلولہ کے



ساتھ اپنی جانوں کے نذرانے پیش کئے اور جب اللہ رب العزت کی طرف سے مدد اترتی تھی میدان جہاد میں اس کے پھر مناظر پڑھ کر تو کئی دفع رو ٹکٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، چنانچہ کیسے اللہ تعالیٰ ان کو شرح صدر عطا فرمادیتا ہے تردد نہیں رہتا شرح صدر مل جاتا ہے، کسی بھی معاملہ میں اللہ تعالیٰ ان کے دل میں حق بات کو القا کر دیتا ہے،

چنانچہ جب سیدنا صدیق اکبر ؓ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی بیٹی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ ؓ کو بلایا اور بلا کر فرمایا کہ عائشہ میں تمہارے پیچھے دو بھائی اور دو بہنیں چھوڑ کر جا رہا ہوں تو عائشہ صدیقہ ؓ سن کر حیران ہو گئیں ابا جان دو بھائی تو ہیں اور بہن تو ایک ہی ہے اسماء دوسری میں ہوں اور آپ فرما رہے ہیں کہ میں تمہارے پیچھے دو بہنیں اور دو بھائی چھوڑ کر جا رہا ہوں تو سیدنا صدیق اکبر ؓ نے فرمایا ہاں وہ میری فلاں اہلیہ اس وقت امید سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے بتلادیا کہ اس کے لطن سے تمہاری بہن پیدا ہوگی چنانچہ ان کی وفات کے بعد وہ پیدا ہوئیں اسکا نام ام کلثوم رکھا گیا وہ سیدنا صدیق اکبر ؓ کی تیسری بیٹی تھیں یہ ام کلثوم جو تھیں یہ پھر ماں بنی عائشہ بنت طلحہ کی، ابو طلحہ نے ان سے نکاح کیا تھا جو پھر بڑی محدثہ بنیں اور عائشہ صدیقہ کی بڑی شاگردہ بنیں۔

## واقعہ (۱)

چنانچہ خلافت فاروقی ہے مسجد میں تشریف فرما ہیں ایک گورا چٹابندہ آگیا اس زمانہ میں نجران سائد کے جو عسائی تھے وہ گورے چٹے ہوتے تھے پوچھا کون ہے کہنے لگا میں بنو کلب کا سردار ہوں اور میں عیسائی ہوں اور میں اس لئے آیا ہوں کہ آپ میرے اوپر اسلام پیش کریں، چنانچہ عمر ؓ نے اس کے سامنے اسلام کی کچھ تعلیمات کو بکھولا قرآن پڑھا، قرآن پاک نے اس کے دل پر ایسا اثر

ڈالا کہ اس نے کلمہ پڑھا اور وہ مسلمان ہو گیا عمر ؓ نے اس کو دیکھتے ہی فرست  
سے پہچان لیا کہ یہ مخلص ہے اور اللہ اس سے دین کا کام لے لیں انہوں نے اس  
کو خط لکھ کر دیا آپ فلاں جگہ جائیے میں آپ کو اس علاقہ کا گورنر بناتا ہوں ایک  
صحابی بول اٹھے ہم نے زندگی میں پہلا شخص دیکھا جس نے کلمہ پڑھ کر ایک  
رکعت نماز نہیں پڑھی اور عمر بن خطاب کے ہاتھوں سے گورنر بن گیا ہو وہ بڑے  
خوش ہوئے اس بات سے چنانچہ وہ اس رقعہ کو لیکر چل پڑے کہتے ہیں کہ بس  
دوسرے لوگ بھی اٹھے تو حضرت علی ؓ بھی اٹھے اور حسن اور حسین بھی دونوں  
ساتھ تھے تو یہ تین حضرات پھر راستے میں جا کر ان کو طے سلام کیا انہوں نے  
پوچھا جی کیسے آنا ہوا تو حضرت علی ؓ نے فرمایا کہ یہ میرے دو بیٹے ہیں اور میں  
چاہتا ہوں کہ اتنے خلوص سے آپ نے کلمہ پڑھا کہ امیر المؤمنین نے اسی وقت  
آپ کو ایک علاقہ کی ولایت سپرد کر دی تو میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کو آپ  
کے ساتھ رشتہ داری کا تعلق مل جائے اس نے تھوڑی دیر سوچا کہنے لگا میری  
بیٹیاں ہیں تین علی آپ کے ساتھ بڑی بیٹی کا نکاح کرتا ہوں اور حسن کے ساتھ  
دوسری بیٹی کا نکاح اور حسین کے ساتھ تیسری بیٹی کا نکاح کہ آپ تینوں نبی ﷺ  
کے قریبی رشتہ دار ہیں مجھے محبوب کا قرب اب سب سے زیادہ عزیز ہے چنانچہ  
ان کی بڑی بیٹی کا نام حیاتا دوسری کا سلمیٰ اور تیسری کا رباب اور یہ جو سیکینہ بنت  
حسین تھی یہ انہیں رباب کی بیٹی تھیں اللہ اکبر، تو حضرت عمرؓ کی فرست دیکھئے کہ  
ایک بندہ آرہا ہے کلمہ پڑھ رہا ہے اسکے کلمہ پر ہتے ہی پہچان لیا اللہ نے اس سے  
دین کا کام لینا ہے اور اسکو ایک علاقہ کا ولی بنا کر بھیج دیا یہ فرست ہوتی ہے۔

## واقعہ (۲)

جنید بغدادیؒ بیٹھے ہیں ایک نوجوان آیا بڑا خوبصورت، داڑھی ہے، عمامہ ہے  
، جبہ ہے اور آکر کہتا ہے کہ حضرت یہ جو حدیث مبارکہ ہے [اتقوا فراسۃ

المؤمن فانه ينظر بنور الله اس کا کیا مطلب ہے؟ ذرا مفہوم سمجھا دیجئے تو جنید بغدادیؒ نے اسکا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کر فرمایا کہ اونصاری کے بیٹے اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاؤ اس پر کچکی آنے لگ گئی وہ عیسائی نوجوان تھا اصل میں وہ بھیس بدل کر مسلمانوں والا آیا تھا کہ یہ بڑے شیخ کہے جاتے ہیں میں ان سے اس کا مطلب پوچھوں گا، یہ مطلب بتا کر مجھے مسلمان سمجھ کر صرف بات مکمل کر دیں گے، پھر میں ان کو کہوں گا کہ آپ کی توفراست اتنی بھی نہیں کہ مجھے پہچانیں کہ میں مسلمان ہوں یا نہیں، شکار کرنے کو آئے شکار ہو کر چلے، چنانچہ اس نوجوان نے اسی وقت کلمہ پڑھ لیا تو اللہ تعالیٰ ایسی فراست عطا فرمادیتے ہیں۔

(۱۲)..... فائدہ

## مال میں برکت

اللہ رب العزت مال میں برکت عطا فرماتا ہے اسکے تو پہلے کئی واقعات آپ کو سنائے بھی چنانچہ حضرت انسؓ فرماتے ہیں کہ نبی ﷺ نے مجھے دعا دی اللہ نے مجھے اتنا مال دیا میں کلہاڑے سے سونے کی انیٹوں کو توڑا کرتا تھا بھی کلہاڑے سے جو سونا ٹوٹے وہ کتنا ہوگا ماشاء اللہ پھر اللہ رب العزت انکے ذمہ دار بنتے ہیں قرآن مجید میں فرمایا ﴿وہو یطولی الصالحین﴾ اور وہ پروردگار نیکو کاروں کا سرپرست ہے اللہ تعالیٰ انکے سرپرست بن جاتے ہیں سرپرست کا کیا مطلب؟ جو بھی ان کے کام ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے کاموں کو سمیٹ لیتے ہیں جیسے بچے کا باپ انکا سرپرست ہوتا ہے اب وہ نفع کرے یا نقصان کرنے ذمہ دار باپ وہ ذمہ داری اٹھا لیتا ہے بچے کو پھر کوئی غم نہیں ہوتا مثلاً بچہ دوسروں کو کہتا ہے کہ میں کراچی جا رہا ہوں وہ کہتے ہیں ریل کی ٹکٹ بنوائی کہتا ہے نہیں تمہیں راستہ آتا ہے؟ کہتا ہے نہیں، جانا کہاں پر ہے؟ معلوم نہیں

پہلے کبھی گئے ہو؟ نہیں، بھئی کوئی تیاری وغیرہ کر لی؟ کہتا ہے نہیں، پھر تم کراچی کیسے جاؤ گے؟ بچہ مسکرا کر کہتا ہے میں ابو کے ساتھ جا رہا ہوں گویا اس بچے کو پکا یقین ہوتا ہے میرے ابو میرے سر پرست ہیں میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں میری ہر اونچ اور نیچ کے وہ ذمہ دار ہونگے، اس کو سر پرست کہتے ہیں ﴿وہو یولی الصالحین﴾ جو بندہ نیکو کار بنتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے سر پرست بن جایا کرتے ہیں،

### عمر بن عبد العزیزؒ کی اولاد

چنانچہ عمر بن عبد العزیزؒ کی وفات کا وقت آیا تو ان کے گیارہ بیٹے تھے ماشاء اللہ تو کسی نے کہا عمر بن عبد العزیزؒ سے کہ جی آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اچھا نہیں کیا آپ سے پہلے والے جو لوگ تھے تو انہوں نے اولادوں کے لئے بڑی جاگیریں چھوڑی، بڑے پیسے چھوڑے اور آپ تو اولاد کے لئے کچھ بھی نہیں چھوڑ رہے ہیں تو عمر بن عبد العزیزؒ نے فرمایا مجھے ذرا اٹھا کے بٹھاؤ تو اٹھا کے بٹھایا گیا، تو فرمانے لگے کہ دیکھو اگر میں نے اولاد کی تربیت اچھی کی ہے اور میری اولاد نیک بنی ہے تو میں اس اولاد کو اللہ کی سپردگی میں چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ فرماتے ہیں ﴿وہو یولی الصالحین﴾ اور وہ نیکو کاروں کا سر پرست ہے اور اگر یہ اللہ کے فرماں بردار اور نیکو کار نہیں بنے تو میں ان کی بدکاری میں انکا معاون نہیں بننا چاہتا یہ کہہ کر وہ توفیق ہو گئے، اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ انکے بعد جو لوگ آئے اور انہوں نے حکومت سنبھالی اب وہ مختلف علاقوں کے گورنر بنانا چاہتے تو انکو عمرؓ کے بیٹوں جیسا کوئی اور دانا پڑھا لکھا اچھا بچا نہ ملتا ایک بیٹا گورنر بنا دوسرا تیسرا بنا عجیب بات تو یہ ہے ایک وقت وہ آیا عمر بن عبد العزیزؒ کے گیارہ بیٹے گیارہ صوبوں کے گورنر بنے ہوئے تھے، یہ ہوتا ہے ﴿وہو یولی الصالحین﴾۔

### ہر سال عقیقہ

ہمارے ایک دوست تھے قرہی ہمارے بڑے حضرت کے خادم بھی تھے

اور ماشاء اللہ جب حضرت ان کے شہر میں آتے ہر سال انہوں نے حضرت کے لئے عقیقہ کا گوشت تیار رکھا ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ کی شان کہ ان کی ایک بیوی سے تینیس بچے ہوئے! اور اللہ تعالیٰ کی شان کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی صحت ایسی دی تھی کہ تینیس بچوں کے باپ کو جو دیکھے تو وہ محسوس کرے کہ قاری صاحب کی شاید ابھی شادی ہونے والی ہے، اب میری اہلیہ کی جب ان سے ملاقات ہوئی ان کی اہلیہ سے پہلی مرتبہ تو انہوں نے دو ایک جیسی عورتوں کو دیکھا تو ملاقات کی پھر ان میں ایک مسکرانے لگی کہنے لگی آپ معلوم کرنا چاہتی ہوگی کہ یہ کون ہیں ہاں میں ماں ہوں اور یہ میرے بیٹی ہے، اہلیہ یہ فرق نہ کر سکی کہ اسیمیں سے ماں کون ہے اور بیٹی کون ہے؟ بیوی بھی تینیس بچوں کے باوجود ایسی اللہ تیری شان خیر ایک گھر میں رہتی تھیں اور اسکے دو کمرے تھے اب جب اولاد بڑی ہو گئی انہوں نے سب کو عالم حافظ قاری بنایا ان کے کچھ بچے تو بچپن ہی میں فوت ہو گئے مگر ان کی ایک بیٹی اور نو بیٹے زندہ سلامت صحت مندر ہے سب بیٹوں کو انہوں نے عالم حافظ قاری بنایا اب جب انکی شادی کا وقت آیا تو فکر لگی کہ بھی کوئی کام کاروبار بھی ایسا نہیں زیادہ سے زیادہ کہیں بچوں کو پڑھادیتے ہیں تو اس پر اب ان کو بیٹی کون دے گا؟ اب دوست بھی انکو کہتے کہ بھی آپ نے ایک دو کو حافظ بنانا تھا باقیوں کو کمپیوٹر سکھاتے، کاروبار سکھاتے، میاں تم نے بھی پھر عجیب ہی کام کیا ہے اب وہ بڑے حیران کہ میں کیا کروں؟ مکان ہی نہیں کہ بچے سو سکیں علیحدہ اور بڑا بیٹا جوان ہو گیا چنانچہ ایک جگہ انکی اس عاجز سے ملاقات ہوئی فرمانے لگے کہ حضرت دعا فرمائیں پہلے بیٹی کے لئے ایک رشتہ دیکھنے جانا ہے اللہ تعالیٰ آسانی فرمادے، میرے دوست مجھے بہت ڈراتے ہیں کہ تم نے کاروبار کرنا تھا وہ کروانا تھا اور میں نے تو ان سب کو دین پڑھایا ہے عالم بنے ہیں حافظ بنے ہیں، قاری بنے ہیں، اب وسائل بھی نہیں ہیں اللہ آسانی فرمادے، ہم جانتے تھے کہ بھی حضرت کے پرانے خادم ہیں ہم سب نے مل کر

کے دعا کر لی، اللہ تعالیٰ کی شان اگلے دن وہ اسی جگہ ملنے کے لئے آئے تو منھائی کا اتنا بڑا ڈبا ہمارے پاس لائے، ہم نے سوچا کہ بھی خیر تو ہے، کہنے لگے کیا مطلب؟ ہم نے کہا کوئی اور عقیقہ تو تیار نہیں ہو گیا؟ کہنے لگا حضرت نہیں بات اور ہے، حضرت بس آپ نے جو کل وہ دعا کروائی تھی محفل میں وہ اللہ نے ایسی پوری کی کہ میرے تصور میں بھی نہیں ہم نے کہا بھی وہ کیسے؟ کہنے لگا حضرت عجیب بات یہ تھی کہ جس گھر گئے وہ انجینیر کا گھر تھا بڑا نیک متقی پرہیزگار خاندانی بندہ، ساری اولاد اسکی پڑھی ہوئی تھی، تھوڑے دن پہلے وہ ایکسڈنٹ میں شہید ہو گیا ہم انکی بیٹی کے بارے میں رشتہ لے کر گئے اپنے بیٹے کے لئے کہ بیوہ عورت ہے۔ سکتا ہے وہ جلدی بیٹی کا فرض ادا کر دے کہنے لگا جی میں اور میری بیوی ہم وہاں گئے اور میری بیوی اسکے پاس چار پانچ منٹ بیٹھی تو اس نے مجھے کہا جی علیحدہ کمرے میں ملنا چاہتی ہوں، چنانچہ علیحدہ کمرے میں جب میں گیا تو بیوی وہاں موجود تھی کہنے لگی اللہ نے فضل کر دیا میں نے کہا کیا ہوا کہنے لگی کہ اس بیوہ کی نو بیٹیاں ہیں ہر بیٹی ہمارے بیٹے سے دو سال چھوٹی ہے اتنی طبیعتیں مل گئی ہیں اس نے ہمارے نو بیٹوں کے لئے نورشتہ دیدیئے، دیکھئے ایک رات میں اللہ نے اسکے نو بیٹوں کے رشتہ طے کروادئے ﴿وہو یقولی الصالحین﴾ دیکھو جو دین کو اپناتے ہیں مالک انکے کام ایسے سمیٹا کرتے ہیں، ورنہ نو بچوں کی شادی کرتے کرتے بال سفید ہو جاتے ہیں ایک ہی جگہ پر الحمد للہ نو بیٹوں کا رشتہ طے ہو گیا۔

### ایک نوجوان کا قصہ

ایک نوجوان تھا لاہور کا جرمنی میں پڑھا لکھا تھا بہت خوبصورت یہ واقعہ اس نے خود مجھے سنایا جرمنی میں یعنی جس بندے کے ساتھ پیش آیا اس بندے نے اپنا واقعہ خود سنایا کہ جی اپنی بات سناتا ہوں دوسروں کو تو سناتے شرم آتی ہے آپ

کو بتا دیتا ہوں اس نے سلیبیا نکل سچا واقعہ ہے، کہنے لگا حضرت جس دفتر میں میں کام کرتا تھا وہاں پر ایک جرمن لڑکی تھی شکل و صورت کی کوئی زیادہ ہی خوبصورت تھی ہمارے آفس کا ہر نو جوان جرمن تھا یا کوئی اور وہ یہ چاہتا تھا کہ اس لڑکی سے میرا تعلق ہو جائے اور وہ لڑکی بڑے اچھے رینک میں تھی اور جسم میں وہ ایسی تھی کہ معصرت یوں سمجھ لیں کہ اللہ نے حور دنیا میں بھیج دی تھی، اب جرمن لڑکے بھی اسکے چکر میں اور میں بھی اسکے چکر میں کہنے لگا کہ بس دوپہر کبھی کھانے کے وقفہ میں ایک کمرے میں ٹیبل لگا ہوا تھا تو کبھی ہم کھا رہے ہوتے تو وہ بھی اپنا کھانا کھا کر چلی جاتی وہ بڑی سمجھ دار تھی کسی کو جرأت بھی نہیں ہوتی تھی اس سے زیادہ بات کرنے کی۔

ایک دفعہ رمضان المبارک آیا تو میں نے روزے رکھے اس نے مجھ سے پوچھا کہ بتاؤ دو تین دن سے تمہیں وہاں دوپہر کھانے پر نہیں دیکھ رہی ہوں، تو میں نے کہا کہ ہمارا رمضان کا مہینہ ہے میں روزہ رکھا ہوتا ہوں اس نے کہا اچھا روزے رکھتے ہو؟ میں نے کہا ہاں تو میں نے کچھ اسکو روزے کے بارے میں ذرا بتا دیا اس نے شوق سے میری بات سنی میرے دل میں خیال آیا کہ بھئی اگر یہ اتنی سی بات شوق سے سنتی ہے تو اور بات بھی شوق سے سنے گی چلو قریب ہونے کا یہی ذریعہ سہی اب میں نے اسلام پر ایک کتاب بھی لی اور اسکو اگلے دن جا کر دی، کہ بھئی تم نے اسلام کے بارے میں پڑھنا ہو تو یہ پڑھو کہتا ہے کہ ایک ہفتہ دس دن کے بعد وہ کتاب پڑھ کر آئی اور مجھ سے کچھ سوال پوچھنے لگی جو مجھے کچھ یاد تھے میں نے بتا دئے تو میں نے دیکھا کہ وہ ذرا اور اسلام میں دل چسپی لے رہی ہے میں نے بھی اسکو بتانا شروع کیا، اب جب کبھی دوپہر کھانے کا وقت ہوتا قدرتی وہ بھی اسی وقت کھانے کے لئے آ جاتی اور اسلام کے بارے میں مجھ سے گفتگو کرتی اب جرمن لڑکوں کو بھی مجھ سے جلن ہونے لگی کہ بھئی یہ جو ہے اسکو بیٹھ کر باتیں سناتا ہے، کہنے لگا کہ کچھ عرصہ کے بعد ایک دن وہ آئی اور کہنے

لگی کہ ہمارے گھر کے قریب ایک مسلمانوں کا اسلامک سینٹر ہے تو آج میں وہاں گئی تھی اور میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے اور میں مسلمان ہو گئی یہ سن کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ نہ پوچھئے، اسلام لانے کی خوشی تو اپنی جگہ تھی ہی مزید یہ خوشی کہ اب میرا کام پکا ہے، صاف ظاہر ہے کہ یہ مسلمان سے شادی کرے گی تو میرا کام پکا، کہنے لگا میں نے اس سے بڑی خوشی کا اظہار کیا اب اس نے حجاب لینا شروع کر دیا وہ بڑی باہمت تھی کسی سے ڈرتی نہیں تھی، پھر اس نے نماز پڑھنی شروع کر دی، پھر کھلے عام اسلام والے کام کرتی، باتیں کرتی، اور اگر کوئی جرم اس سے بات کرنے لگتا تو اسکو ایسا جھڑکتی کہ اس کو پسینہ چھوٹ جاتا، اب وہ میرے اور قریب ہوتی گئی حتیٰ کہ روز ہم آپس میں بیٹھ کر اسلام سے متعلقہ کوئی نہ کوئی ٹاپک چھیڑ کر باتیں کرنے لگ جاتے، کہنے لگا اس دوران میرا دل تو چاہا کہ میں ان سے رشتہ کی بات کروں مگر وہ اتنی سمجھ دار اور شخصیت کی مالک تھی کہ اس سے بات کرتے ہوئے بھی بندہ گھبراتا تھا، تو میرے دل میں خیال آیا کہ ابھی مناسب وقت ہوگا تو ہی میں اسکے سامنے بات کروں گا۔

ایک روز وہ کہنے لگی کہ دیکھو مسٹر اس دفعہ میں نظام بنارہی ہوں کہ میں اپنی چھٹیاں ترکی میں گزاروں گی وہ اسلامک کنٹری ہے، میں وہاں جاؤنگی اور مختلف جگہوں کو دیکھوں گی اور مجھے وہاں سے اور اسلامی تعلیمات ملیں گی، نو جوان کہنے لگا میرے دل میں خیال آیا آپ ایسا کرو کہ بجائے ترکی جانے کے لاہور کیوں نہیں چلی جاتیں؟ اور پھر میں نے بتایا وہاں تو یہ بھی ہے اور وہ بھی ہے اصل مقصد میرا کیا تھا کہ یہ وہاں جائے گی تو میں اپنی والدہ سے بہنوں سے کہوں گا وہ ساری ایم اے لڑکیاں تھیں جو یونیورسٹیوں میں پڑھی ہوئی تھیں تو وہ اس کو میرے ساتھ شادی کے لئے تیار کر دیں گی، اس نے کہا اچھا میں سوچوں گی کہنے لگا اس نے سوچ کر کچھ چند دن بعد کہا ہاں ٹھیک ہے، میں نے بھی لاہور جانے کا پروگرام بنالیا جس دن اس نے پروگرام بنایا تھا چھٹیاں لے کر میں نے بھی



اسی دن جانے کا پروگرام بنالیا کہنے لگا اس نے انٹرنیٹ کے ذریعہ ہوٹل کی بکنگ بھی کروالی، جب مجھے اس نے بتایا کہ میں نے سب کام کر دائے ہیں میں نے اس سے کہا کہ وہاں ہمارا گھر ہے تم ہوٹل میں کیوں ٹھہرو گی؟ کہنے لگی نہیں دیکھو میں ایرپورٹ سے سیدھی ہوٹل جاؤں گی ہوٹل میں جس کو تم اپنی ماں بہنوں کو بھیج دینا میں انکے ساتھ باجیت کروں گی، اگر مناسب سمجھا تو میں انکے ساتھ تمہارے گھر آ جاؤں گی ورنہ میں ہوٹل میں رہوں گی، میں نے کہا ٹھیک ہے لاہور پہنچ تو صحیح، کہنے لگا حضرت! اب میں دعائیں مانگ رہا ہوں یا اللہ یہ اس سے پیچھے نہ ہٹے ہر نماز کے بعد یا اللہ اسکا پروگرام پکا ہو جائے اسکا پروگرام پکا ہو جائے مجھے آخری لمحہ تک یقین نہیں تھا کہ یہ جائے گی یا نہیں جائے گی، کہنے لگا حیران تو میں ہوا کہ جب میں نے چیکنگ کروایا اور آگے گیٹ پر پہنچا تو وہ بھی اپنا بریف کیس لیکرو ہیں گیٹ پر پہنچ گئی، کہنے لگی میں نے بھی چیکنگ کروانی ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے، ادھر گھر فون کر کے اطلاع دی ہوئی تھی اپنی والدہ کو بھی بتایا تھا بہنوں کو بھی اور میری بہنوں نے کہا تھا کہ تم فکر نہ کرو ہم بات کر لیں گے، ایرپورٹ سے اتر کر وہ تو سیدھی ہوٹل چلی گئی میں نے ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھا اگلے دن میں نے اپنی بہنوں کو بھیجا میری تین چار بہنیں تھیں سب نے ایم اے کیا ہوا تھا، وہ سب گئیں اور اس سے ملیں اور اسکو لیکر اپنے گھر آ گئیں، اب یہ نوجوان بڑے امیر گھر کا نوجوان تھا ان کا کار کاربزنس تھا کئی شوروم تھے کروڑوں پتی خاندان کا یہ بیٹا تھا ان کا گھر بھی محل نما تھا اسکو دیکھ کر بھی بندہ حیران ہو جائے ایسا جیسا بالکل یورپ کا بنا ہوا کوئی گھر ہوتا ہے، کہنے لگا وہ گھر آئی وہاں و بڑی سہولتیں تھیں اتنی تو ہوٹل میں بھی نہیں تھیں خیر میری والدہ نے بھی اسکو کہا کہ بیٹی تم یہیں ٹھہر جاؤ ہم تمہیں کمپنی دیں گے، وہاں تم اکیلی ہو، اس نے وہاں ایک دن گزارا، پھر کہنے لگی ٹھیک ہے میں یہیں رہ جاتی ہوں، بہنوں نے کہا کہ ہم آپکو عجائب گھر دکھائیں گے، فلاں بادشاہ کی مسجد دکھائیں گے، فلاں دکھائیں

گے، وہ کہنے لگی ٹھیک ہے دو ہفتہ اس نے رہنا تھا اب دو ہفتہ میں میری بہنوں نے اس پر کام کیا اور اسکو تیار کرنے کی کوشش کی، تو جب تیسرے چوتھے دن کافی بے تکلفی سی ہو گئی ہنسی مذاق کی باتیں ہونے لگیں تو پھر میری بہنوں نے کہا یہ ہمارا بھائی دیکھو کتنا خوبصورت نوجوان ہے، تو اگر تم راضی ہو تو ہم تمہاری شادی کر کے تمہیں واپس بھیجیں کہنے لگا اس نے صاف کہہ دیا کہ میں نے اس سے شادی نہیں کرنی دھو کر جواب دیدیا، کہ جی میں نے اس سے شادی نہیں کرنی، اتنا کھرا جواب کہ بہنیں حیران، خیر میرا ایک چھوٹا بھائی تھا وہ مجھ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا اور پڑھا لکھا تھا تو میری بہنوں نے اسکی بات چلانی شروع کر دی کہ چلو بھئی اس سے نہیں کرنی تو اس سے شادی کر لو کہنے لگی کہ تین چار دن اور گذر گئے اور اس نے اسکے بارے میں بھی دھو کر جواب دیدیا، میری بہنوں نے بتایا کہ دیکھ ہمارے پاس رزق ہے عزت ہے یہ دونوں بھائی ہمارے اتنے خوبصورت نوجوان ہیں پڑھے لکھے ہیں کتنا اچھا رشتہ ہے تمہارے لئے جوڑ ہے اس نے کہا نہیں، ہم حیران وہ اسلام کے اوپر کبھی کتابیں پڑھے کبھی دیکھے کبھی کچھ کرے کہنے لگا حضرت کیا بتاؤں میرے ایک چچا ہیں غریب سے وہ تبلیغی جماعت میں آنے جانے والے بندے ہیں، کہنے لگا ان کا ایک بیٹا ہے انہوں نے اس کو جامعہ اشرفیہ میں عالم بنا دیا کبھی کھانے کو ملتا ہے کبھی نہیں ملتا وہ چچا کا بیٹا ایک دن میری امی کو کوئی بات کرنے کے لئے آیا اب اس لڑکی نے اس کو دیکھا تو اس نے میری امی سے پوچھا کہ یہ کون آگیا ہے؟ اس نے کہا یہ میرے دیور کا بیٹا ہے اور یہ عالم ہے، میری امی اس کو بتا بیٹھیں کہ یہ عالم ہے تو وہ کہنے لگی کہ میں نے ایک دو مسئلے پوچھنے ہیں، میں اس سے پوچھ لوں؟ امی نے کہا پوچھ لو، چنانچہ امی نے فون بھی لا کر دیدیا، اس نے اس سے دو چار مسئلے جو پوچھنے تھے پوچھے انہوں نے مسئلے بتا دیئے پھر اس نے کہا میری یہ کتاب ہے وہ مولوی صاحب کتاب دینے آ گئے اور اسکی جب اس سے بالمشافہ ملاقات

ہوئی تو اس لڑکی نے خود اس سے کہا کہ میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں کہنے لگا حضرت محنت ہم نے کی تیار ہم نے کیا وہ جامعہ اشرفیہ کا پڑھا ہوا، ہماری بہنیں کہتی تھیں اس کو تو کوئی رشتہ ہی نہیں دے گا، وہ جرمن لڑکی کو پسند آ گیا، خود کہنے لگی کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں اس نے کہا میں ابو سے پوچھوں گا چنانچہ اس نے والدین سے پوچھا انہوں نے کہا بیٹا اگر وہ چاہتی ہے تو کر لو چنانچہ اس لڑکے سے اس نے نکاح کروا کر اگلے دن جرمن ایجنسی لے گئی اس کا پکا ویزا لگایا کہنے لگی وہ جامعہ اشرفیہ کا پڑھا ہوا چٹائیوں پر بیٹھنے والا اب وہ یہاں آ کر اس کا خاوند بن کر رہ رہا ہے ﴿وہو یتولی الصالحین﴾ نیکو کاروں کا وہ سرپرست ہے وہ کام سنوار دیتا ہے، اب دیکھو کہ ان کے خاندان والوں نے کوششیں کر کے ان کو جرمنی بھیجا اور اس کے والد نے اس کو دین پڑھایا اس نے جماعت سے دین سیکھا اور اپنے بیٹے کو دین پڑھایا اور لوگ اس کو طعنہ دیتے تھے کہ تیرے بیٹے کو تو کوئی بھی بیٹی کا رشتہ نہیں دے گا، اللہ تعالیٰ نے کہاں سے بھیجی اور اس نے اپنی زبان سے اس سے نکاح کیا اور اس کو لیکر گئی اللہ نے دین تو دیا ہی تھا اس کو دنیا بھی عطا کر دی وہ کہنے لگے کہ اللہ نے اس کی دعائیں زیادہ ہی قبول کر لیں اور وہ کو تو مر کر حوریں ملیں گی اس کو تو دنیا ہی میں مل گئی ہے، تو واقعی انسان دل سے بیدار ہو تو رب کریم اس کے معاملات کو خود سمیٹ لیتے ہیں۔

(۱۳)..... فائدہ

ایک نیکی کا فائدہ یہ کہ اللہ تعالیٰ ان کو امامت عطا فرماتا ہے امامت کا منصب عطا کر دیتا ہے ﴿وجعلنا للمتقین اماما﴾ پھر اللہ تعالیٰ ان کو امامت دیتا ہے اور یہ امامت جو ہے بڑی کرامت ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک عزت ہے، ایک اکرام ہے جو پروردگار اپنے بندوں کو عطا فرما دیتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت بلال ؓ آتے تھے تو عمر ؓ ان کو کہتے تھے

سیدنا بلال آگئے حالانکہ غلام تھے، کہے ہوئے تھے مگر سیدنا عمرؓ جو وقت کے خلیفہ تھے وہ بھی انکو سیدنا بلال کہہ کر پکارتے تھے، چنانچہ ایک اسی طرح غلام تھے وہ فرمایا کرتے تھے کہ میں تین سو درہم میں بکا تھا پھر جب آزاد ہو گیا تو میں نے دین پڑھنا شروع کر دیا حتیٰ کہ میں عالم بنا، پھر اللہ رب العزت نے مجھ سے درس حدیث کی خدمت قبول فرمائی حتیٰ کہ اتنا اللہ نے مجھے عزت کا مقام دیا کہ جب میں درس میں ہوتا تھا وقت کا خلیفہ میرے دروازے پر آ کر میری ملاقات کے لئے ایک ایک گھنٹہ کھڑا رہتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اوقات میری یہ کہ میں تین سو درہم میں بکا اور دین نے مجھے وہ عزتیں دیں کہ وقت کا حکمران میرے دروازے پر ایک ایک گھنٹہ میری ملاقات کے لئے انتظار کرتا تھا، [اعزنا اللہ تعالیٰ بہذا الدین] اللہ نے اس دین کی وجہ سے ہمیں عزتیں عطا فرمائیں۔

(۱۴)..... فائدہ

### بری موت سے حفاظت

اللہ رب العزت بری موت سے حفاظت فرماتے ہیں چنانچہ قرآن مجید کی آیت ہے ﴿يُثَبِّتُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا﴾ تو اس آیت کے تحت مفسرین نے لکھا کہ اللہ رب العزت انکو اچھی موت عطا فرمادیتے ہیں کلمہ پر موت عطا فرمادیتے ہیں پھر انکی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت دیدیتے ہیں اضافہ دیتے ہیں کبھی تو اسکیل بڑھادیتے ہیں اور کبھی جو انکی عمر ہوتی ہے صحت مندی کی اللہ اسکو اس کنارے سے اس کنارے تک کر دیتے ہیں انکو زندگی میں دوسروں کا محتاج نہیں ہونا پڑتا۔

(۱۵)..... فائدہ

### اللہ کی حفاظت

ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت انکی حفاظت فرماتے ہیں ﴿يُحَافِظُ

خیر حافظا و ہوا رحم الراحمین ﴿اللہ رب العزت خود انکے محافظ بن جاتے ہیں چنانچہ نبی ﷺ کی حفاظت کس نے فرمائی ﴿واللہ بعصمک من الناس﴾ اللہ تعالیٰ انسانوں سے بچائے گا اللہ رب العزت نے دیکھو اپنے محبوب کی کیسی حفاظت فرمائی، آرام فرما رہے تھے درخت کے نیچے ایک کافر نے دیکھا کہ اچھا موقع ہے تلوار اٹھا کر وار کرنے کا، اللہ کے محبوب کی آنکھ کھل گئی تو آپ نے جب اسکی طرف دیکھا تو اس نے کہا [من یمنعک منی یا محمد] اے محمد ﷺ آپ کو اب مجھ سے کون بچائے گا آپ نے فرمایا اللہ بس اللہ کا لفظ کہا اس پر یسار عرب اور کچپی طاری ہوئی، تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی محبوب نے تلوار اٹھائی فرمانے لگے [من یمنعک منی] تو بتاتے تھے کون بچائے گا، اب لگا منت کرنے آپ بنو ہاشم کی اولاد میں سے ہیں کریم ہیں اور اتنے کریم ہیں اور معاف کرنے والے ہیں فرمانے لگے چل میں نے تجھے معاف کر دیا آگے سے کہتا ہے اللہ کے نبی اب کہاں جائیں گے اب جہاں آپ جائیں گے وہاں آپ کا غلام جائے گا، آپ نے تو محبوب معاف کر دیا مجھے کلمہ پڑھا دیجئے، تاکہ میرا اللہ بھی مجھے معاف فرما دے، یوں اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں۔

(۱۶)..... فائدہ

## مال کی چوری سے حفاظت

واقعہ..... (۱)

کہتے ہیں کہ رابعہ بصریہ اللہ کی نیک بندی اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھیں ایک چور گھس آیا تو چور کو اور تو کچھ نہ ملا ایک چادر پڑی تھی اس نے کہا چلو یہ ہی لے جاتے ہیں اس نے چادر اٹھائی اور جب باہر جانے لگا تو اسے راستہ نظر نہ آیا، گھبرا کر اس نے چادر پھینک دی چادر پھینکتے ہی اسے راستہ نظر آئے! آجے، نکلے لگا اس کو ایک آواز آئی اگر ایک دوست سویا ہوا ہے تو دوسرا دوست لاگتا

ہے یہاں تو چڑیا کو پر مارنے کی اجازت نہیں تم چیز چرا کے کیسے جاسکتے ہو اللہ یوں حفاظت فرما دیتا ہے۔

واقعہ..... (۲)

چنانچہ دارالعلوم دیوبند کے ایک خادم تھے خزانچی نیک بندے تھے ان کا تکیہ کلام تھا اللہ کے فضل سے ہر بات میں ”اللہ کے فضل سے“ بولتے تھے، اللہ تعالیٰ کی شان ایک دن وہ ایک رات تہجد میں اٹھے تو تہجد پڑھ رہے تھے اتنے میں ایک چور آ گیا اب چور اس کمرے کا تالا توڑنے لگا کہ جس میں ان کا مال پیسہ تھا مگر وہ زکوٰۃ پوری پوری ادا کرتے تھے ان کے دل میں پکا یقین تھا کہ میرا مال ضائع نہیں ہو سکتا، چونکہ حدیث میں ہے جو پوری زکوٰۃ ادا کر دیتا ہے اس کا مال اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جاتا ہے، وہ نماز پڑھتے رہے اور یہ تالا توڑتا رہا اور تالا نہ کھلا جب انہوں نے سنتیں بھی پڑھ لیں اب جانا تھا مسجد میں تو پھر اس وقت اس چور کو کہا ارے میاں یہ اب تک تالا آپ سے نہیں ٹوٹا تو اب بھلا تجھ سے کیا ٹوٹے گا چور نے دیکھا کہ یہ جاگ گئے تو بھاگ گیا، خیر یہ مسجد آئے جو امام تھے انہوں نے نماز پڑھائی، یہ نماز پڑھنے کے بعد ان کے قریب آئے کہنے لگے حضرت آپ کو ایک نئی بات سناؤں؟ آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا، اب وہ کہنے لگے کہ تم کہہ کیا رہے ہو؟ حضرت میں ٹھیک سن رہا ہوں، آج تو اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا اصل میں وہ کہنا چاہتے تھے کہ جی آج تو اللہ کا غضب ہو گیا، مگر تکیہ کلام کی وجہ سے کہہ رہے تھے اللہ کے فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا، پھر انہوں نے یہ سارا واقعہ سنایا تو دیکھو جو اللہ تعالیٰ کا حق ادا کر دیتے ہیں پھر مالک انکی جان و مال کا نگران بن جاتا ہے، اللہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔

ایک بڑھیا کا واقعہ

واقعہ..... (۳)

ایک بڑھیا بھی بات بادشاہ کے محل کے قریب اس کا گھر تھا ایک موقع پر بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں اپنے محل میں کچھ تعمیری اضافہ کروں، اس نے پولیس والوں کو بھیجا کہ اسکو کہو یہ کہیں دوسری جگہ چلی جائے، اور یہ جگہ ہمسکونچ دے، اس نے کہا نہیں میری عمر تو اسی کنیا میں گذری، میری طبیعت لگی ہوئی ہے تو میں تو نہیں بیچنا چاہتی، انہوں نے بادشاہ کو جا کر بتا دیا اللہ تعالیٰ کی شان کہ بڑھیا چند دن کیلئے کسی بیمار کی عیادت کے لئے چلی گئی، اس کو کوئی دو مہینہ وہاں لگ گئے اب دو مہینہ کے بعد جب وہ واپس آئی، تو اسے اپنی جھونپڑی نظر ہی نہیں آئی حیران وہاں تو اس جگہ پر عالیشان محل بنا ہوا تھا، اس نے لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا، تو تو کہیں تالا لگا کر چلی گئی تھی پیچھے انہوں نے تیری سب چیزیں برابر کر دیں اور اپنے محل کو دو مہینہ میں اسٹینڈ کر کے اتنا بڑا بنا دیا، اس کا نام و نشان ہی نہیں اس نے کہا ایسا کیا؟ لوگوں نے کہا تو تھی جو نہیں، جب لوگوں نے اسے کہا کہ تو تھی جو نہیں، انہوں نے ایسا کیا تو کہتے ہیں کہ اس بڑھیا نے آسمان کی طرف دیکھ کر کہا ”اے اللہ! اگر میں یہاں نہیں تھی تو تو یہیں تھا“ یہ الفاظ کہنے تھے کہتے ہیں کہ محل کی چھت جو تھی وہ زمین کے اوپر آگئی بادشاہ کو بتایا گیا کہ بڑھیا آگئی اور تمہارے محل کی چھت زمین کے اوپر آگئی اس نے آکر معافی مانگی پھر بڑھیا کو علیحدہ کنیا بنا کر دی، تب اس کو پتہ چلا کہ یہ بڑھیا اللہ تعالیٰ کی کتنی مقبول بندی تھی، تو بھی جہاں بندہ نہیں ہوتا وہاں پر بندے کے پروردگار تو ہوتے ہی ہیں اس لئے نیکو کاری میں اتنے فائدے ہیں کہ جو ہماری سوچ سے بھی بالاتر ہیں رب کریم ہم ان دنیا کے فائدوں کے بھی طلب گار اور محتاج ہیں اور محتاج کا کام مانگنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں رب کریم ہمیں دنیا و آخرت کی سرفرازی عطا فرمادے۔

کس کی مغفرت نہیں ہوتی؟

جب تک بندہ انسانوں کے حقوق ادا نہیں نہ کرتا تب تک پروردگار بھی اپنا حق معاف نہیں کرتا حدیث پاک میں آتا ہے شب قدر میں اللہ تعالیٰ سب گنہگاروں کی مغفرت کر دیتے ہیں چند گنہگاروں کی نہیں کرتے، ان میں سے ایک جو قطع رحمی کرنے والا ہوتا ہے، قطع رحمی کہتے ہیں رشتہ نامطے توڑنے والا ہے، کئی ہوتے ہیں جن کو نہ بات کا سلیقہ اور نہ میل ملاپ کا طریقہ، ذرا ذرا سی بات پر اس سے بھی بولنا بند اس سے بھی بولنا بند اس کو ڈرار ہے ہیں اُس کو دھمکار ہے ہیں لوگوں کے دل دکھاتے ہیں پرواہی نہیں ہوتی، یہ جو قطع رحمی کرنے والے ہیں انکی شب قدر میں بھی اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے اور دوسرا بندہ جو کسی کے بارے میں دل میں نفرت رکھے، کینہ رکھے بدگمانی رکھے، جس کے دل میں کسی مسلمان کے بارے میں کینہ ہو اللہ تعالیٰ اسکی بھی مغفرت نہیں فرماتے ہیں، تو بھی اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مغفرت ہو تو پھر ہمیں ان دونوں گناہوں سے مخصوص توبہ کرنی پڑے گی، ایک تو ہمارے دل میں جتنوں کے بارے میں دل میں نفرت ہے یا رنجش ہے یہ دل سے نکالنی پڑے گی، اللہ کے لئے ہمیں معاف کرنا پڑے گا، جب تک نہیں نکالیں گے مغفرت نہیں ہوگی اور دوسری بات کہ جو بندوں کے دل دکھائے ہیں ان سے معافیاں بھی مانگنی پڑیں گی، عجیب بات ہے کہ لوگ انتظار میں رہتے ہیں کہ جب مرجائیں گے تو ہمارے جنازے پر اعلان ہوگا کہ جی اس میت کو معاف کر دیا جائے، بھائی میت کو کون معاف کرتا ہے کون معاف نہیں کرتا اب وقت ہے جیتے جاگتے معافی مانگنی آسان ہے پتہ نہیں کون اعلان سنے گا کون نہیں سنے گا، کون معاف کرے کون نہ کرے، حکم تو ہمیں ہے کہ ہم دنیا میں معافی مانگیں لیکن عجیب بات ہے کہ ہمارے اندر تکبر اتنا ہوتا ہے کہ ہم ”معاف کرنا“ یہ لفظ کہنا ہی گوارا نہیں کرتے، انگریزوں نے تو اس اچھی عادت کو اتنا بنایا کہ ذرا سی بات پر ایکس کیوزمی کہہ دیتے ہیں، یہ جو ایکس کیوزمی کہتے ہیں اسی کو تو اردو عربی میں معاف کرنا کہتے ہیں کافروں نے اس چھی عادت



کو اپنا یا ذرا سی کوئی بات ہوتی ہے فوراً ایکس کیوز کرتے ہیں یہ تعلیم ہم مسلمانوں کے لئے تھی اور آج ہم اتنا بھول گئے ہم دوستوں کے دل بھی دکھاتے ہیں ہم ان سے پھر بھی معافی نہیں مانگتے تو بھی اس محفل میں آج ایک بات بتائیے کہ کیا ہم دوسروں سے یہ حق معاف کروانا چاہتے ہیں یا نہیں کروانا چاہتے زبان سے بولیں بولنے میں برکت ہوتی ہے تو بھی اگر ہم یہ حق معاف کروانا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ بیٹھ کر سوچیں ہم نے کن کا دل دکھایا کن کے ساتھ بری بات کہی کن کو زنجش دی کن کا دینا ہے کن کا حق آتا ہے، اسکی فہرست بنائیں جن کا لین دین ہے انکا لین دین کلیئر کریں اور جن سے فقط باتوں کا معاملہ ہے تو بھی ان سے ابھی کہہ دیجئے کہ بھی اللہ کے لئے معاف کر دو، اور آپ دیکھیں گے جس کو آپ کہیں گے جی غلطی ہوئی اللہ کے لئے معاف کر دیں وہ اللہ کا بندہ ضرور کہہ دے گا میں نے معاف کر دیا، آسان ہے دنیا میں ورنہ قیامت کے دن سب کو اپنی نیکیاں دینی پڑیں گی، اور نیکیاں تو ہمارے پاس پہلے ہی نہیں ہیں اتنی تو ہم کیا دیں گے، لہذا آسان طریقہ یہ ہے کہ آج کی رات اعتکاف والے بالخصوص، اور دوسرے احباب بالعموم اس بات پر بیٹھ کر سوچیں کہ ہم حقوق العباد کیسے معاف کروا سکتے؟ اب پتا ہے آپ نے کتنوں کی غیبت کی ہوگی، کتنوں کے بارے میں بدگمانی دل میں ہوگی کتنوں پر آپ نے اٹے سیدھے الزام لگا دیئے ہونگے تو آسان طریقہ یہ ہے کہ اسکو سوچ کر اور جو جو بندہ دل میں آئے ان سب سے یہ الفاظ کہیں کہ بھی مجھ سے غلطی ہوئی اللہ کے لئے معاف کر دیں اور اگر آپ کو یاد بھی نہیں تو جتنے آپکے دوست احباب ہیں ان سے ملتے ہوئے کہیں بھی انسان ہیں خطا ہو جاتی ہے اگر آپ کا کوئی میرے اوپر حق آتا ہے اللہ کے لئے معاف کر دیں، یا اگر اس نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا تو جو آپ نے اسکی غیبت کی تھی، الزام لگایا تھا جو بھی کیا تھا اللہ تعالیٰ سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا، تو اس چھوٹے سے فقرے کو کل آپ سب کے

سامنے دوھرایئے، تہرج رات جہاں معافی مانگ سکتے ہیں حتیٰ کے خاوند بیوی سے بھی معافی مانگے بیوی خاوند سے معافی مانگے ایسا نہ ہو کہ میاں بیوی کی رنجشوں کی وجہ سے اللہ کے یہاں مغفرت رکی رہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دیں تو ہمیں بھی تو پھر یہ معافی کا طریقہ کار بنانا پڑے گا۔ تو پوی سے کہنے میں کیا حرج ہے ہو سکتا ہے جھڑک دیا ہو، بے وجہ ہم نے اس کا دل دکھا دیا ہو، تو اتنے الفاظ کہنے میں کیا حرج ہے؟ کہ جی انسان خطا کا پتلا ہے رمضان کے آخری لمحات ہیں ابھی اگر کوئی آپ کا حق مجھ پر آتا ہو میں نے سستی کی ہو کوتاہی برتی ہو، تو آپ معاف کر دیں اتنے الفاظ کہہ دینے سے آپ کے سر سے بوجھ اتر جائے گا اللہ پھر آپ کی مغفرت آسانی سے فرمادیں گے، اور اگر آپ کے اپنے دل میں ہے تو آپ اللہ کے لئے سب کو معاف کر دیجئے]

ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء [ زمین والوں پر رحم کرو گے آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے۔

اور ایک بات یہ بھی ذہن میں رکھئے کہ دین کے کام کرنے والے جو لوگ ہیں وہ کئی مرتبہ آپس میں بھی الجھ پڑتے ہیں بے وقوفی کی وجہ سے کم سمجھی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کے شعبے بنادئے ہیں ﴿یتلو اعلیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحمۃ﴾ چار شعبے، اب اسکی مثال ایسی ہے جیسے جسم میں آنکھ بھی ہے کان بھی ہے زبان بھی اور دماغ بھی، ہر ایک کا اپنا اپنا کام ہے سب مل کر جسم بن گئے اسی طرح دین اسلام کا معاملہ کہ اسکے مختلف شعبہ جات ہیں ایک دعوت و تبلیغ کا شعبہ ہے، آج کے دور میں تو الحمد للہ اسی سے زیادہ بلکہ سو سے زیادہ ملکوں میں اس وقت ہمارے یہ بھائی جارہے ہیں اور اللہ کے دین کا پیغام پہنچا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے کوئی ایسا دن نہیں اس عاجز کا کہ جب ان بھائیوں کے لے میں تہجد میں دعا نہ کرتا ہوں اسلئے کہ محبوب کا کام ہے ہمارا کام ہے اور کچھ حضرات مدارس میں

کام کر رہے ہیں انکے لئے بھی دعائیں کرتے ہیں کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے کوئی حدیث پڑھا رہا ہے کوئی فقہ پڑھا رہا ہے کوئی زندگی کے مسائل کے جوابات سمجھا رہا ہے وہ بھی ایک شعبہ ہے کام کرنے کا، کہیں پر خانقاہوں میں اللہ اللہ کی ضربیں لگوا رہے ہیں تاکہ دلوں کا میل دور ہو اور دل میں اللہ کی محبت بھر جائے اور کہیں پر اقامت دین کے لئے کوششیں ہو رہی ہیں تو یہ مختلف شعبہ جات ہیں حقیقت میں یہ سب کے سب دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں ہونی چاہئیں نیک تمنائیں ہونی چاہئیں جہاں ضرورت ہو ایک دوسرے کا معاون بننا چاہئے اسکو کہتے ہیں ﴿وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا﴾ تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو بھی ہم سب ایک ہیں،

جب عیسائیوں پر مصیبت آئی تھی تو کہتے ہیں کہ بادشاہ نے ان پر حملہ کیا تھا اور ان کے علماء آپس میں اس پر بحث کر رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام: جب اٹھائے گئے تھے تو انہوں نے گندم کی روٹی کھائی تھی یا جو کی روٹی کھائی تھی یہ فیصلہ ہونے کے لئے مناظرہ ہو رہا تھا کہ گندم کی روٹی کھائی تھی یا جو کی روٹی کھائی تھی یہ مناظرے کر رہے ہیں اور دشمن ان کو دنیا سے ہی ختم کر رہا ہے۔

تو شیطان ایسا ہی کرتا ہے آپس میں الجھانے کی کوشش کرتا ہے اور یہ الجھاؤ بے وقوفی کی وجہ سے کم علمی کی وجہ سے یا اپنی طبیعت کی بے باکی کی وجہ سے ہوتا ہے جو بھی سمجھ دار ہو گا نا وہ ہمیشہ ایک دوسرے کا احترام کرے گا جس نے عمل ہی کچھ نہیں کرنا وہ اس قسم کے کام زیادہ کر رہا ہوتا ہے، تو بھی جوڑ پیدا کیجئے توڑ سے بچئے نبی علیہ السلام: نے فرمایا [صل من قطعک] جو تجھ سے توڑے تو اس سے جوڑ یعنی کوئی توڑنا بھی چاہے تو ہم اس سے جوڑنے کی کوشش کریں یہ ہے نبی علیہ السلام: کی تعلیمات کوئی توڑنا بھی چاہے تو پھر ہم اس سے جوڑنے کی کوشش کریں اور یہاں تو زبان قینچی ہوتی ہے چل رہی ہوتی ہے وہ زبان نہیں چل رہی ہوتی وہ قینچی چل رہی ہوتی ہے اُس سے بھی توڑ اس سے بھی توڑ، آج ابھی وقت ہے مہلت

ہے، رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں ہم اپنے رب سے معافی مانگ لیں اور اپنی ان کوتاہیوں کو بخش واپس آپس میں الفتیں اور محبتیں پیدا کر لیں جتنا ایک دوسرے کے ساتھ ہم زیادہ نہیں گے زیادہ محبتیں الفتیں قائم کریں گے اتنا اللہ کی رحمتیں ہونگی اسلئے تو کہا گیا کہ اتفاق میں برکت ہے تو اللہ رب العزت کی طرف سے رحمتیں ہونگی آپ دیکھنا ہم اسی جگہ بیٹھ کر ابھی دعا کریں گے یا نفل دعا کریں گے اگر اس دوران ہم نے خود بھی معاف کر دیا دوسروں سے بھی معافی مانگ لی انشاء اللہ آخری محفل جو ہونی ہے اس سے پہلے پہلے پروردگار ہمارے بوجھ کو بھی آسان فرمادیں گے تو یہ ایک ذمہ داری ہے اور میرے دوستو ہم واقعی اس بات کے محتاج ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری بخشش فرمادے اگر نہ ہوئی نبی ﷺ کی بددعائیں بڑی ڈرنے والی بات ہے بڑی رونے والی بات ہے اللہ اکبر کبیرا اور یہ سبق یاد کر لینا کہ ہم نے تو زپیدا نہیں کرنا ہم نے جو زپیدا کرنا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک بنائے اور ایک بنائے ایک بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

جو کھیلوں میں تو نے لڑکپن گنوا یا

تو بدستییوں میں جوانی گنوائی

جو اب غفلتوں میں بڑھاپا گنوا یا

تو پھر یہ سمجھ زندگانی گنوائی

﴿وقال ربکم ادعونی استجب لکم﴾

# مطالبہ دعا

از افادات

حضرت مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب دامت برکاتہم  
( نقشبندی مجددی )

در حالت اعتکاف مسجد نور لوسا کا (زامبیا) بعد نماز عشاء ۲۰۰۳ء

## فہرست مضامین

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۲۶۴	دعا کا حکم	۱
۲۶۵	بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے	۲
۲۶۶	دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات	۳
۲۶۸	اعمال کیسے ہوں؟	۴
۲۶۸	ایک قیمتی نسخہ	۵
۲۶۹	خلاصہ کلام	۶
۲۶۹	تعجب کی بات	۷
۲۷۰	کسی کا دل نہ دکھاؤ	۸
۲۷۱	سازش نہ کریں	۹
۲۷۱	عہد شکنی نہ کریں	۱۰
۲۷۲	دریائے رحمت کی وسعت	۱۱



اللہ اللہ اللہ

اقتبہ اس

زبان سے قرآن مجید کی تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں مگر اسکے  
حکموں کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان وجوہات سے پھر بندے  
کی مانگی ہوئی دعائیں ایسے قبول نہیں ہوتیں جیسے وہ مانگتا ہے آخرت میں  
تو بوجائیں گی لیکن من وعن قبول نہیں ہوتیں تو ہمیں چاہئے کہ قول  
اور فعل کے تضاد کو دور کریں دورنگی کو دور کر کے یک رنگی کی زندگی کو  
اختیار کریں۔

دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا

سرا سر موم ہو جا یا سنگ ہو جا

﴿حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدظلہ﴾



بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ.....!

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿وَقَالَ رَبِّكُمْ ادْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

وقال الله تعالى فى مقام آخر

﴿اَمِنْ يَجِیْبُ الْمُسْتَظِرَّ اِذَا دَعَاہُ﴾

سُبْحٰنَ رَبِّكَ رَبَّ الْعِزَّةِ عَمَّا یَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

دعا کا حکم

وقال ربکم اور فرمایا تمہارے پروردگار نے ﴿ادْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾

تم دعا کرو میں قبول کروں گا، سچے پروردگار کا سچی کتاب میں، سچا فرمان ہے، کہ تم

دعا میں کرو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے

فیصلہ ہے، طے شدہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے

مگر قبول کرنے کی تین مختلف شکلیں ہیں۔

﴿۱﴾..... اگر وہ دعا اسکے حق میں بہتر ہو دین کے معاملہ میں دنیا کے معاملہ

میں نیکی کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ اسکو ویسا ہی قبول کر کے پورا کر دیتے ہیں

اسکو ہم کہتے ہیں جی دعا قبول ہو گئی جو مانگا وہ مل گیا۔

﴿۲﴾..... بعض اوقات انسان دعا مانگتا ہے اس پر کوئی پریشان آنے والی

ہوتی ہے کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے اسکو کوئی بیماری پہنچنے والی ہوتی ہے، کوئی صدمہ پہنچنے والا ہوتا ہے، اللہ رب العزت کریم ہیں اسکی دعا کو اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا کر اس آنے والی مصیبت پریشانی بیماری سے اس کو محفوظ فرما دیتے ہیں، یہ بھی دعا قبول ہونے کی ایک علامت ہے ہم اسکو شاید قبول ہونا سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کیا پتہ کہ ہم نے کیا دعا مانگی اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس آنے والی مصیبت سے نجات عطا فرمائی۔

﴿۳﴾..... اگر یہ بھی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس خزانہ بنا لیتے ہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب یہ بندہ قیامت کے دن جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے مجھ سے دعائیں مانگی تھیں اور میرا وعدہ تھا کہ میں قبول کروں گا، تو میں نے دنیا میں تو ان دعاؤں کو پورا نہ کیا کہ تمہارے لئے بہتر نہیں تھا یہ اب میرے پاس تمہارا خزانہ ہے میں تمہیں اس کا بدلہ دیتا ہوں حدیث پاک میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اسکی ان دعاؤں پر تبادلہ دیں گے کہ وہ بندہ یہ کہے گا کاش دنیا میں میری کوئی دعا پوری نہ ہوتی ہر دعا کا اجر اور بدلہ مجھے یہاں آخرت میں مل جاتا تو تین میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں دعا ضرور قبول ہو جاتی ہے۔

### بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے

حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب بندہ دعا مانگے اور پھر کہہ دے ہماری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی ہماری تو سنتا ہی نہیں یہ شکوے کی بات ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے، یہ بے صبری کا مظاہرہ ہے اگر بندہ یہ الفاظ زبان سے کہہ دے معاذ اللہ ہماری تو سنتا نہیں ہماری قبول نہیں ہوتی ہماری دعائیں پوری نہیں ہوتیں، تو اللہ تعالیٰ کو اتنا جلال آتا ہے اللہ تعالیٰ اسکی دعا کو پھٹے کپڑے کی طرح اسکے منہ پر دے مارتے ہیں اپنے در سے دھکا دیدیتے ہیں، تو مومن کو تو یہ کبھی سوچنا ہی نہیں چاہئے کہ دعا قبول نہیں ہوتی جب اللہ تعالیٰ

نے فرمادیا ﴿ادعوانی استجب لکم﴾ تم دعا کرو میں قبول کرونگا اب شک کیسا؟ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو گنہگار ہیں ہماری دعا کہاں قبول ہوگی ایسا نہیں ہے دعا برے اور نیک سب کی قبول ہوتی ہے حیرت کی بات تو یہ ہے کہ شیطان کی قبول ہوگئی، اس نے بھی تو کہا تھا ﴿رب انظرنی الی یوم یبعثون﴾ اللہ! قیامت تک کے لئے مہلت دیدتجئے پروردگار نے فرمایا ﴿انک من المنظرین﴾ تو شیطان کی اگر قبول ہو سکتی ہے تو کیا مسلمان کی قبول نہیں ہو سکتی؟ اسلئے کچھ لوگ یوں کہتے ہیں جی ہم تو گنہگار ہیں ہماری دعا قبول نہیں، بھئی ایسی بات ہرگز نہیں کہنی چاہئے، دعا یقیناً قبول ہوتی ہے ہاں اللہ تعالیٰ پابند نہیں ہیں کہ جو ہم چاہتے ہیں وہ پورا کریں وہ قادر مطلق ہیں وہ بندوں کے بارے میں بہتر فیصلہ کرنے والا ہے ہو سکتا ہے ہم ایسی دعا مانگ رہے ہوں کہ جو ہمارے لئے پریشانی کا سبب بنتی ہو مثلاً ایک بندہ کھلا پیسہ مانگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے اگر مل گیا تو یہ شخصیت ایسی ہے کہ یہ ایمان جی سے خالی ہو جائیگا، اللہ تعالیٰ اسکو وہ نہیں دیتے، تو نہ دینا بھی اسکی رحمت ہے دینا بھی اسکی رحمت ہے، جیسے ماں بچے کو دیتی ہے تو بھی پیار ہے اسکا، اور انکار ہ اٹھانے سے منع کرتی ہے یہ بھی پیار ہے اسکا، دستور یہ ہے بندہ مانگے گا اللہ تعالیٰ عطا کرے گا اسلئے جب بھی دعا مانگیں حسن ظن کے ساتھ دعا مانگیں۔

## دعا قبول نہ ہونے کی وجوہات

ہاں کچھ اعمال ہیں جن سے دعاؤں کی قبولیت کا اندازہ ہو جاتا ہے توجہ سے سنئے گا ہمارے مشائخ نے لکھا کہ دعائیں قبول نہ ہونے کی جو اہم وجوہات ہیں ان میں سے:

..... پہلی یہ ہے کہ انسان زبان سے تو کہتا ہے کہ دنیا کی کوئی وقعت نہیں عملاً دیکھیں تو سارا دن اسی کو سمیٹنے میں لگا ہوتا ہے، قول اور فعل کا فرق زبان

سے کہے جی پچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں لیکن ادھر عملی طور دیکھو تو نماز کی بھی فرصت نہیں، لگا ہوا ہے اسی میں دن رات تو ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے۔

..... دوسری وجہ یہ کہ زبان سے تو کہتا ہے کہ دنیا فانی ہے مگر اسکے رہنے کی تدبیریں پلاننگ ایسی ہوتی ہیں جیسے اسنے کبھی مرنا ہی نہیں لمبی پلاننگ ہوتی ہے رہنے کا طور طریقہ جیسے اس نے جانا ہی نہ ہو دنیا سے، زبان سے یہ کہتا ہے کہ آخرت دنیا سے بہتر ہے عمل دیکھو تو دنیا کو آخرت پر مقدم کئے ہوئے ہے، زبان سے یہ کہتا ہے میں اللہ کا بندہ ہوں میں اس کا دوست ہوں، لیکن اگر اسکی زندگی کو دیکھو تو اللہ کے دشمنوں کی باتیں مان رہا ہوتا ہے، یعنی شیطان کی مان رہا ہوتا ہے، یا کفار کی نقالی کر رہا ہوتا ہے، ان کی پیروی کر رہا ہوتا ہے حالانکہ پروردگار نے فرمایا ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ شیطان تمہارا دشمن ہے تم بھی اسے اپنا دشمن سمجھ کر رہو، تو اسکو دشمن سمجھنے کی بجائے اسکے مشوروں پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اسکی بات مانتے ہیں۔

..... زبان سے کہتے ہیں کہ ہم نبی ﷺ کے عاشق ہیں عمل کو دیکھو تو سنت سے محروم ہوتے ہیں۔

وہی سمجھا جائے گا شیدائے جمال مصطفیٰ

جس کا حال حالِ مصطفیٰ ہو قال قال مصطفیٰ

یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ کہے کہ جی مجھے محبت نبی ﷺ سے ہے اور طریقے فرنگیوں کے پسند ہیں

ایں خیال است و محالست و جنوں

”ان الْمُحِبِّ لِمَا يُحِبُّ مُطِيعٌ“ محبت جس سے محبت کرتا ہے اس کا مطیع

اس کا فرمانبردار ہوتا ہے۔

..... زبان سے قرآن مجید کی تلاوت تو کر رہے ہوتے ہیں مگر اسکے حکموں کی زندگی میں کوئی اہمیت نہیں ہوتی ان وجوہات سے پھر بندے کی مانگی ہوئی

دعائیں ایسے قبول نہیں ہوتیں جیسے وہ مانگتا ہے آخرت میں تو ہو جائیں گی لیکن من و عن قبول نہیں ہوتیں، تو ہمیں چاہئے کہ قول اور فعل کے تضاد کو دور کریں دورنگی کو دور کر کے یک رنگی کی زندگی کو اختیار کریں۔

دورنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا

سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا

## اعمال کیسے ہوں؟

﴿صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً﴾ اللہ تعالیٰ کے رنگ میں ہم رنگ جائیں اسلئے میرے دوستو جب لوگ اعمال کی کثرت میں مشغول ہوں تو آپ کو چاہئے کہ اعمال کی کیفیت حاصل کرنے میں بھی مشغول ہو جائیں پروردگار مقدار نہیں دیکھتے ﴿ایکم احسن عملاً﴾ تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے یہ دیکھتے ہیں، یہ نہیں کہا ایکم اکثر عملاً تو عبادت تھوڑی کریں مگر جیسے حق بنتا ہے اس کیفیت کے ساتھ عبادت کریں،

..... جب لوگ ظاہر کو سنوارنے میں مشغول ہوں تو اے دوست! تو اپنے باطن کو سنوارنے میں مشغول ہو جا۔

..... جب لوگ دنیا سنوارنے میں مشغول ہوں تو اپنی آخرت کو سنوارنے میں مشغول ہو جا۔

..... جب لوگ مخلوق کی محبت میں مشغول ہوں تو اپنے پروردگار کی محبت میں مشغول ہو جا۔

ایک بات ذہن میں رکھئے گا جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا دوست بنے گا، وہ آخرت میں تبھی بھی دشمنوں کی قطار میں کھڑا نہیں کیا جائے گا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ دنیا میں وہ اللہ کا دوست بناو اور اللہ تعالیٰ اس دوست کو آخرت میں دشمنوں کی قطار میں کھڑا کر دیں، یہ نہیں ہو سکتا۔

ایک قیمتی نسخہ

حکیم الامت حضرت تھانویؒ نے ایک عجیب بات لکھی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ دل کی گہرائیوں سے دعا مانگے گا، اے اللہ مجھے نیک بنادے میں حاضر ہوں مجھے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر نیکی کے رستے پر چلا دے جو یہ دعائیں مانگے گا وہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے اے میرے بندے تو نیک کیوں نہ بنا تو وہ بندہ آگے سے جواب دے گا اے اللہ میں دعا تو مانگتا تھا، دل تو آپ کی دو انگلیوں کے درمیان تھے، اللہ مجھے نیک بنادے، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائیں گے کہ دیکھو اسکے نامہ اعمال میں یہ دعا ہے، وہ کہیں گے کہ موجود ہے، یہ آپ سے درخواست کرتا تھا اللہ مجھے نیک بنادے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے چونکہ تودل سے چاہتا تھا کہ نیک بنجائے باقی معاملہ ہمارے اختیار میں تھا چلو ہم نے نیکیوں میں تمہارا حشر فرما دیا تو دل کی گہرائیوں سے نیت کر لیں کہ ہم نے نیک بننا ہے۔

### خلاصہ کلام

بہر حال جتنے بیانات ہوئے ان کا اگر لب لباب پوچھنا چاہیں تو ایک بات تو یہ کہ انسان کسی پر زیادتی نہ کرے، یہ بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے کسی کا دل دکھانا کسی پر زیادتی کرنا قولی طور پر یا فعلی طور پر زبان سے کسی کو تکلیف دینا ہاتھ سے کسی کو تکلیف دینا یہ چیز اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے، کبھی انسان دوسرے کا دل نہ دکھائے کہنے والے نے تو یہ کہا۔

مسجد ڈھادے مندر ڈھاتے ڈھادے جو کچھ ڈھیندا

پر کسے دادل ناڈھا ویں رب دلا وچ رہیندا

کہ تو مسجد گرا دے یا مندر گرا دے جو تیرا جی چاہتا ہے گرا دے، لیکن کسی کا دل نہ توڑنا اسلئے کہ اللہ دلوں میں رہتا ہے۔

### تعجب کی بات

نبی ﷺ نے ایک بار بیت اللہ شریف کو دیکھ کر فرمایا کہ بیت اللہ تیرا شرف اور تیری تعظیم بڑی ہے لیکن [حرمة المؤمن ارجح من حرمة الکعبہ] ایک مومن کلمہ گو کا احترام بیت اللہ کی عزت سے بھی زیادہ ہے، اب بیت اللہ کے غلاف کو تو پکڑ کے دعائیں مانگیں اور دوسری طرف مومن کا گریبان پکڑیں ادھر تو رو رو کر دعائیں مانگیں، محبوب فرماتے ہیں اس مومن کی حرمت زیادہ ہے، تو بھی کسی کا دل نہیں دکھانا چاہئے اللہ کے بندوں کے لئے وبال جان نہیں بننا چاہئے، سکھ پہنچائیں

کسی کا دل نہ دکھاؤ

بخاری شریف کی روایت ہے، بنی اسرائیل کی بدکار زانیہ عورت پیاسے کتے کو پانی پلا کر بخشی جاسکتی ہے تو کیا امت محمدیہ کا گنہگار پیاسے بندے کو پانی پلا کر نہیں بخشا جاسکتا، تو سب سے پہلی بات اس کو اصول بنالیں، ہم نے کسی کا دل نہیں دکھانا اور کئی دفعہ زبان سے انسان بات ایسی نکال دیتا ہے کہ اسکے الفاظ دوسرے بندے کے دل کو چیر کر رکھ دیتے ہیں، یاد رکھنا تلوار کے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں زبان کے زخم کبھی مندمل نہیں ہوتے، جن رشتہ ناطوں کو تلوار بھی نہیں کاٹ سکتی یہ زبان ان رشتوں کو بھی تھوڑی دیر میں ختم کر کے رکھ دیتی ہے اللہ تعالیٰ کے بندوں کی قدر کریں ان سے محبت کریں اللہ کے لئے خیر خواہی ہو نبی ﷺ نے فرمایا: [الدين النصيحة] دین سراسر خیر خواہی ہے، کیا مطلب؟ تو مومن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کا خیر خواہ ہوتا ہے بدخواہ نہیں ہوتا، کسی کا برا نہیں سوچتا ہمیشہ اچھا سوچتا ہے، اور اگر ہم کسی سے زیادتی کریں گے تو ہمارے ساتھ بھی کچھ ہوگا اسلئے کہ اوپر پروردگار بھی تو ہے، ایک تو یہ چھت ہے ایک اوپر نیلی چھت بھی ہے، ہم اگر کسی سے زیادتی کریں گے تو مظلوم کی پکار سننے والا بھی کوئی ہے اسلئے فرمایا کہ مظلوم کی پکار جب نکلتی ہے آسمان کے دروازے کھلتے ہیں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی اس پکار کو اللہ

کے حضور پیش کر دیا جاتا ہے تو ایک بات کہ کسی کا دل نہ دکھائیں۔

ذرا سی ذرا سی بات پر بچے کو ڈانٹ ڈپٹ نہ کریں، بچے سہم جاتے ہیں مار سے وہ بات نہیں سمجھتے جو آپ سمجھانا چاہتے ہیں، ڈانٹنے سے دبتے ہیں سمجھانے سے سمجھتے ہیں،

ایک چھوٹا سا اصول یاد رکھیں

..... کہ بچہ بارہ سال تک باپ کا غلام

..... اور اٹھارہ سال تک باپ کا مشیر بارہ سے اٹھارہ کی عمر میں مشورے دیتا ہے

ابویوں کر لو ابو ایسے ہوتا تو کیا تھا؟ امی یوں کیوں نہیں کرتیں؟

..... اسکے بعد یا باپ کا دشمن ہے یا باپ کا دوست ہے۔

ہم ڈانٹ سے اسکو اپنا دشمن بنا رہے ہوتے ہیں ہم ڈانٹ سے اسکو دین سے

دور کر رہے ہوتے ہیں، وہ ڈانٹ ہمارے لئے الہ اللہ تعالیٰ سے دوری کا سبب بن

رہی ہے، اسلئے دوسروں کا دل دکھانے سے پہلے ڈریں بہت ڈریں اور اس سے

بہت بچیں۔

سازش نہ کریں

دوسری بات کسی کے خلاف تدبیر نہ کریں، مؤمن کے خلاف تدبیر نہ کرنا اسلئے کہ

اگر آپ مؤمن کے خلاف تدبیر کریں گے تو ﴿واللہ خیر المکرین﴾ تدبیر

کرنے والوں میں بڑا تدبیر کرنے والا پروردگار ہے، جو گڑھا کھودتا ہے وہ اسی

گڑھے میں گر جاتا ہے، یہ بہت اہم بات ہے کوئی زیادتی کرتا ہے تو معاف

کر دو معاف کرنے والوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے۔

عہد شکنی نہ کریں

اور تیسری چیز کبھی بھی عہد نہ توڑیں جو قول دے دیا وہ دے دیا جب آپ اپنے

قول کا لحاظ کریں گے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے نکلی ہوئی بات کا لحاظ فرمائیں گے



ہمارا یہ تجربہ ہے کہ جو بندہ جھوٹ جھوٹ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کی دعاؤں کو رد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تجربہ کر لیجئے، اس پر محنت کرنی پڑے گی جھوٹ نہ بولنا اس پر تین سے پانچ سال لگتے ہیں، کم از کم ہر وقت جو کہے وہ سوچے ہر وقت میں کیا کہہ رہا ہوں بار بار جھوٹ بولے گا بار بار ذرا اپنے آپ کو سیدھا کرنا پڑے گا، اسی لئے جھوٹ کی وجہ سے زندگی کے اندر بے برکتی ہو جاتی ہے، بعض روایت میں آتا ہے بندہ جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ میں سے اتنی بدبو نکلتی ہے اللہ کے فرشتہ اس سے کئی میل دور چلے جاتے ہیں اور بعض اوقات جھوٹ بولتے بولتے اتنا جھوٹ بولتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں میرے یہاں جھوٹوں کے دفتر میں بندے کا نام لکھ دیا جائے، تو جھوٹ کتنا ہی تیز بھاگے سچ اسکو پکڑ لیتا ہے، سچ بالآخر سچ ہے اسکے ساتھ اللہ کی مدد ہے

## دریائے رحمت کی وسعت

آج لیلۃ الجائزہ ہے حدیث پاک میں آج کی اس رات کے بڑے فضائل ہیں اس میں عبادت کرنے کے حدیث پاک میں فضائل کافی وارد ہوئے، تو کوشش کیجئے کہ آج کی رات کی تہجد چار رکعت ضرور نصیب ہو جوئے، کچھ دعائیں مانگنے میں گزرے، اللہ تعالیٰ کو منانے میں گزرے، اعتکاف والوں کی اس سال کی آخری محفل اور مجلس ہے تو دل میں خیال آیا کہ چند باتیں بتادی جائیں کہ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتیں، اور کن بنیادی باتوں سے ہمیں بچنا ہے اور ہمیں کیسے زندگی گزارنی ہے، رب کریم ہمیں دنیا آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے اور اس جگہ اٹھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اللہ تعالیٰ کے لئے یہ کوئی مشکل نہیں، حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی جہاد سے واپس لوٹ رہے تھے ایک جگہ دریا کے کنارے آپ نے پڑاؤ ڈالا تو عام طور پر دریا کے کنارے ریت ہوتی ہے نماز پڑھی اسکے بعد آپ نے اپنی امت کے لئے رو کر دعا کی جب آپ ﷺ

نے دعا مانگی تو آپ نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پرندہ آیا اور اس نے نبی ﷺ کے سامنے ریت کے چند زرے اپنی چونچ میں لئے اور وہ دریا کے اوپر چلا گیا پھر دوبارہ آیا پھر چند زرے لے کر چلا گیا جب دو تین دفعہ ایسا ہوا تو اللہ رب العزت کے محبوب متوجہ ہوئے کہ یہ کیا کر رہا ہے؟ اس وقت جبرائیل علیہ السلام آئے جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا اے اللہ کے محبوب آپ نے جو دعا مانگی اللہ رب العزت نے اسکو آپ کے سامنے تمثیل کے طور پر پیش فرمادیا ہے، تو نبی ﷺ نے فرمایا دیکھ کیسے؟ کہ یہ پرندہ یہ پیغام دے رہا ہے کہ اے اللہ کے محبوب جس طرح میں اپنی چونچ میں دو چار زرے ریت کے اٹھا سکتا ہوں اور ان ذروں کو میں دریا میں جا کر ڈالتا ہوں تو دریا کے پانی کے سامنے ان ذروں کی کوئی حیثیت نہیں اسی طرح آپ کی پوری امت کے گناہ ان ریت کے ذروں کے مانند ہیں میری رحمت کے دریا کے سامنے ان کی کوئی بھی حیثیت نہیں۔

تو بھی سچے دل سے معافی مانگیں گے پروردگار عالم ضرور معاف فرمائیں گے اس محفل سے فائدہ اٹھا لیجئے سچے دل سے گناہوں کی معافی مانگئے اور جیسے کل رات اس عاجز نے عرض کیا کہ حقوق اللہ کی معافی تو مانگیں گے ہی حقوق العباد کو بھی معاف کروا لیجئے تو بھی اگر آپ حضرات کو اس عاجز سے کوئی تکلیف پہنچی ہو کوئی دکھ ہو کوئی آپ کے ادب میں کمی رہ گئی ہو تو یہ عاجز معافی مانگتا ہے آپ سب حضرات اس عاجز کو بھی معاف فرمادیں اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمادے۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمین

لقول العیز

ترک دنیا کہ نہ ہر لذت کو چھوڑ

معصیت کا ترک کر غفلت کو چھوڑ

نفس و شیطان لا کھد پے ہوں مگر

تو نہ ہرگز ذکر اور طاعت کو چھوڑ

بندوب

# نیت کی اہمیت

حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی زید مجدہ

## اقتباس

اللہ اللہ اللہ

پہاڑوں جیسے عمل قیامت کے دن نیت کی خرابی کی وجہ سے  
 ہباء منشور اُبنادے جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے عمل جن کو  
 انسان کر کے بھول گیا تھا نیت کے اخلاص کی وجہ سے قیامت کے دن  
 انسان کی بخشش کا سبب بن جائیں گے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ  
 قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اس سے اپنے حق  
 لینے والے بہت ہوں گے جب ان کو ان کا حق دیا جائے گا تو اس بندے کے  
 سارے عمل ختم ہو جائیں گے اور دیکھنے والے سمجھیں گے کہ اب یہ بندہ جہنم  
 میں گیا مگر پروردگار فرمائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں جتنے بھی اچھے  
 اعمال ہیں اگرچہ وہ لوگوں میں تقسیم ہو گئے ہیں لیکن انہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ  
 اسکی نیت میں سب بندوں کے لئے بھلائی ہوا کرتی تھی تو یہ جو اسکی بھلائی  
 کی نیت ہے وہ مجھے اتنی پسند آئی کہ اس نیت پر میں نے اس بندے کی  
 بخشش کر دی۔

﴿حضرت پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مدظلہ﴾

صفحہ نمبر	عنوان	نمبر شمار
۲۷۴	مؤمن کی نیت	۱
۲۷۵	ایک نکتہ	۲
۲۷۵	دل کی تمنائنامہ اعمال میں	۳
۲۷۶	ایک لوہار کا واقعہ	۴
۲۷۷	نیکی کی آرزو	۵
۲۷۸	بندہ اختیاری اہل کرے	۶
۲۷۸	اخلاص کی بات	۷
۲۷۹	ذرے کا پہاڑ	۸
۲۸۰	تین باتوں کا اہتمام	۹
۲۸۰	ذرا غور کریں	۱۰
۲۸۲	فکر آخرت	۱۱
۲۸۲	اچھے سالک کی علامت	۱۲
۲۸۴	عجیب واقعہ	۱۳
۲۸۶	لوہے کی لکیر	۱۴
۲۸۷	تصوف کا پہلا قدم	۱۵
۲۸۸	مرزا مظہر جان جاناں	۱۶
۲۸۹	تین گناہ گناہوں کی جزا	۱۷
۲۹۰	بوزھوں کے لئے عبرت	۱۸
۲۹۰	کامیابی کے تین گر	۱۹
۲۹۱	ناکامی کی تین چیزیں	۲۰
۲۹۲	خلاصہ کلام	۲۱
۲۹۴	مؤمن کیسے زندگی گزارے	۲۲

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰی وَسَلَامٌ عَلٰی عِبَادِهِ الَّذِیْنَ اصْطَفٰی اَمَّا بَعْدُ.....!

اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

﴿اِلاّ للّٰہ الدین الخالص﴾

وقال تعالى ﴿مخلصین له الدین﴾

سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُوْنَ وَسَلَامٌ عَلٰی الْمُرْسَلِیْنَ

وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلٰی آلِ سَیِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ

## مؤمن کی نیت

نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے [انما الاعمال بالنیات] کہ اعمال کا دارومدار نیت کے اوپر ہے اور یہ بھی حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ [نیۃ المؤمن خیر من عملہ] ”مؤمن کی نیت اسکے عمل سے بھی زیادہ اچھی ہوتی ہے ایک طالب علم کو یہ بات سمجھنے میں ذرا دشواری پیش آتی ہے مگر حقیقت یہی ہے کہ نیت عمل سے زیادہ بہتر ہوتی ہے اسکی وجوہات ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ

☆..... نیت کرنے سے مؤمن کو اجر ملتا ہے نیکی لکھی جاتی ہے عمل میں

امکان ریا کا ہے لیکن نیت کرنے سے اسکے اعمال میں نیکی ضرور لکھی جاتی ہے

☆..... اور دوسری اسکی وجہ یہ ہے کہ نیت قلب کا عمل ہے اور قلب کو

انسان کے پورے جسم میں فضیلت کا مقام حاصل ہے کہ یہاں انسان کو

معرفت حاصل ہوتی ہے لہذا لہذا قلب کا عمل باقی انسان کے سارے اعضا پر

فضیلت رکھتا ہے تو مومن کی نیت اسکے عمل سے زیادہ بہتر ہے اسلئے ہمیشہ اپنی نیتوں کو ٹٹولتے رہنا چاہیئے مگر انی کرتے رہنا چاہیئے کہ ہم جو کام بھی کر رہے ہیں کیا واقعی اللہ رب العزت کی رضا کے لئے کر رہے ہیں یا پھر کسی اور مقصد کے لئے کر رہے ہیں۔

☆ تیسری وجہ یہ کہ نیت کے اندر دوام ہوتا ہے عمل میں دوام نہیں ہوتا کوئی بھی عمل کریں محدود ہوگا لیکن نیت اسکے اوپر کوئی حائل نہیں مثال کے طور پر ایک آدمی نیت کر سکتا ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں تہجد پڑھوں گا اب اگر اسکی زندگی سو سال ہے تو سو سال کی نیت ہوئی اگر اس سے بھی زیادہ ہے تو اس نے ہمیشہ کے لئے نیت کر لی تو یہ جو دوام ہے اسکی وجہ سے نیت عمل سے افضل ہو جاتی ہے۔

## ایک نکتہ

ایک نکتہ جو اکثر طلبہ کو پریشان کرتا ہے کہ انسان اس دنیا میں جو بھی اعمال کرتا ہے وہ محدود ہوتے ہیں لیکن انکو جنت ملے گی جہاں ہمیشہ ہمیش رہے گا اور جتنے بھی گناہ کرتا ہے وہ محدود ہوتے ہیں لیکن جہنم کا عذاب ملے گا تو کافر نے کفر تو کیا محدود عمر کے لئے مگر ہمیشہ ہمیش کا عذاب تو علماء نے اسکی وجہ بھی یہی بتائی کہ اگرچہ مومن نے محدود عمل کئے مگر اسکی نیت یہ ہوتی ہے کہ جب تک میری زندگی ہے میں اپنے پروردگار کی فرماں برداری کروں گا، اس وجہ سے ہمیشہ ہمیش کے لئے جنت میں اور کافر کی نیت یہ ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کو نہیں ماننا یا اسکے ساتھ کسی شریک کو بنالیا تو اس نیت کی وجہ سے اسکو ہمیشہ ہمیش کا عذاب دیا جاتا ہے۔

## دل کی تمنائنامہ اعمال میں

پہاڑوں جیسے عمل قیامت کے دن نیت کی خرابی کی وجہ سے ہباء منشور ا بنادے جائیں گے اور چھوٹے چھوٹے عمل جن کو انسان کر کے بھول گیا تھا نیت



کے اخلاص کی وجہ سے قیامت کے دن انسان کی بخشش کا سبب بن جائیں گے، چنانچہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ اللہ کے حضور پیش کیا جائے گا، اس سے اپنے حق لینے والے بہت ہوں گے جب انکو ان کا حق دیا جائے گا تو اس بندے کے سارے عمل ختم ہو جائیں گے اور دیکھنے والے سمجھیں گے کہ اب یہ بندہ جہنم میں گیا مگر پروردگار فرمائیں گے کہ اس کے نامہ اعمال میں جتنے بھی اچھے اعمال ہیں گرچہ وہ لوگوں میں تقسیم ہو گئے ہیں لیکن انہیں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ اسکی نیت میں سب بندوں کے لئے بھلائی ہوا کرتی تھی تو یہ جو اسکی بھلائی کی نیت ہے وہ مجھے اتنی پسند آئی کہ اس نیت پر میں نے اس بندے کی بخشش کر دی، اور یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ایک بندہ پیش کیا جائے گا اور اسکے نامہ اعمال میں حج کا اور عمرے کا اور کتنی ہی شب بیداریوں کا ثواب لکھا ہو گا وہ بڑا حیران ہو گا کہ رب کریم میں نے تو حج کیا بھی نہیں اور کوئی عمرہ بھی نہیں کیا یا اتنے نہیں کئے جتنے لکھے گئے، میری عمر کم تھی اور جوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ یہ کیا معاملہ ہے؟ تو اسکو کہا جائے گا کہ تم نے تو عمل تھوڑا کیا تھا لیکن تمہارے دل کے اندر نیت ہوتی تھی ہر سال اللہ کے در پر حاضری دینے کی ہر رات میں اٹھ کر تہجد پڑھنے کی وہ جو تم کہتے تھے کہ اے کاش اگر میرے بس میں ہوتا اگر وسائل ہوتے اگر میرے حالات موافق ہوتے تو میں یہ کر لیتا، وہ جو تمہارے دل سے ایک آرزو اٹھتی تھی اور تمنا اٹھتی تھی اس تمنا کے اخلاص کو دیکھتے ہوئے ہم اس عمل کا ثواب تیرے نامہ اعمال میں لکھ دیا کرتے تھے۔

## ایک لوہار کا واقعہ

چنانچہ امام احمد بن حنبلؒ کا پڑوسی ایک حداد تھا (لوہار) وہ فوت ہو گیا کسی نے خواب میں دیکھا کہ بھائی کیا بنا؟ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہوئی مجھے بخش دیا گیا اور مجھے امام احمد بن حنبلؒ کے درجہ میں پہنچا دیا گیا وہ بڑا حیران

ہوا آکھ کھلی یہ خود بھی محدث تھے عالم تھے، انہوں نے خواب دیکھا سوچنے لگے کہ اسکے اہل خانہ سے پوچھنا چاہئے کہ اسکا کونسا خاص عمل تھا جو رب کریم کو پسند آگیا انہوں نے پوچھا انکے اہل خانہ سے، انکے اہل خانہ نے بتایا کہ انہیں دو باتیں عجیب تھیں

(۱) ایک تو یہ کہ انکے دل میں اللہ تعالیٰ کا بہت احترام تھا، اتنا تھا کہ جب یہ لوہا کوٹ رہے ہوتے اور ہتھوڑا جب سر سے اوپر اٹھاتے نیچے مارنے کے لئے اگر عین اس وقت اللہ اکبر اذان کی آواز سن تے تو یہ اسی وقت ہتھوڑے کو نیچے رکھ دیتے تھے، کہتے تھے کہ اب میرے پروردگار نے بلا لیا اب میں پہلے اسکا حکم ادا کروں گا،

(۲) اور دوسرا یہ تھا کہ جب وہ گھر آتے اور رات میں دیکھتے کہ امام احمد بن حنبلؒ اپنی چھت کے اور پر عبادت کرتے تو یہ دل میں حسرت کیا کرتے تھے ٹھنڈی سانس لیا کرتے تھے اور کہتے کہ میں کیا کروں میرے بچے زیادہ ہیں اگر میں کام نہیں کروں گا تو ان بچوں کے لئے انتظام کیسے ہوگا اگر میری پیٹھ ہلکی ہوتی میرے اوپر یہ بوجھ نہ ہوتا اور میں وقت فارغ کر سکتا تو میں بھی امام احمد بن حنبلؒ جیسی راتیں گزارتا، انہوں نے کہا یہ اسکا عمل ایسا تھا کہ اسکے دل کے اخلاص کی وجہ سے رب کریم نے اسے وہی درجہ عطا فرمادیا جو امام احمدؒ کا تھا۔

## نیک کی آرزو

اگر انسان عمل کر نہیں سکتا اسکی تمنا تو دل میں رکھ سکتا ہے، رزق تو دل میں رکھ سکتا ہے، ہم نیک نہیں بن سکے تمنا تو رکھ سکتے ہیں، ہم سر سے لے کر پاؤں تک اللہ رب العز کی شریعت کے مطابق نہیں بن سکے تمنا تو رکھ سکتے ہیں، تو نیت کر لینے سے بسا اوقات انسان کو وہ نعمتیں مل جاتی ہیں جو عمل پر بھی اسکو نہیں ملا کرتیں، اس لئے آج اس محفل میں ہم ایک نیت تو یہ کریں کہ ہم آج

کے بعد اپنی پوری زندگی اللہ رب العزت کے حکموں کے مطابق اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سنتوں کے مطابق گزاریں گے۔

## بندہ اختیاری اعمال کرے

علماء نے لکھا ہے کہ صدق دل کی علامت یہ کہ جو انسان کے بس میں ہو وہ کر لے اک بندہ کہتا ہے کہ جی میں یہ چاہتا ہوں اب کیسے پتہ چلے کہ وہ ٹھیک کہہ رہا ہے یا غلط تو صدق دل کی علامت یہ لکھی گئی کہ جتنا اسکے اختیار میں ہے وہ اگر کر لے گا تو اللہ اسے وہ اجر بھی عطا کر دے گا جو اسکے اختیار سے باہر ہوگا، اس لئے قیامت کے دن کتنے لوگ ایسے ہونگے کہ جو دنیا کے اندر بڑے امیر گزرے ہونگے امرا کے اندر انکا شمار ہوگا مگر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فقراء میں انکو شمار فرمائیں گے اور کتنے لوگ ایسے ہونگے کہ جو دنیا میں نان شبینہ کو ترستے تھے فاقوں میں زندگی گزارتے تھے مگر قیامت کے دن قارون کے ساتھ انکا حشر کر دیا جائے گا اس لئے کہ دل کی نیت انکی وہی تھی جو قارون کے دل کے اندر تھی تو یہ دل کی نیت پر منحصر ہے اگر ہمارے دل میں یہ نیت ہوگی کہ ہم اللہ رب العزت کی معارف کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکی محبت سے اپنے دل کو لبریز کرنا چاہتے ہیں عین ممکن ہے یہ اسی نیت کو اللہ قبول کر کے قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کی جماعت میں شامل فرمالے گا۔

## اخلاص کی بات

فقیر ابوللیث ثمرقذیؒ سے کسی نے پوچھا یہ ہم اخلاص کے بارے میں بڑا کچھ سنتے رہتے ہیں، حضرت ہمیں کوئی مثال دے کر سمجھائیں یہ اخلاص کیا ہوتا ہے؟ مخلص کون ہوتا ہے؟ عجیب مثال سے انہوں نے بات سمجھائی فرمانے لگے تم نے کبھی بکریوں کا چرواہا دیکھا؟ جی کہ جب وہ نماز پڑھتا ہے

تو اسکے ارد گرد بکریاں موجود ہوتی ہیں تو یہ بتاؤ کہ کبھی اسکے دل میں یہ خیال گزرا کہ میری اس عبات پر میری بکریاں میری تعریف کریں گی، اس نے کہا نہیں، اسکے دل میں خیال بھی کبھی نہیں آیا ہوگا کہ اس عبادت پر میری بکریاں میری تعریف کریں گی، فرمانے لگے کہ یہ مخلص بندے کی نشانی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اسکے دل میں ذرا بھی یہ توقع نہیں ہوتی کہ لوگ میری عبادت کی تعریف کریں، جیسے کسی کو بکریوں سے تعریف کی امید نہیں ہوتی اسی طرح اسکے دل میں بھی لوگوں سے کوئی امید نہیں ہوتی جسکا عمل ہو بے غرض اسکی جزا، کچھ اور ہے

### ذرے کا پہاڑ

ہیر اور موتی دیکھنے میں کتنا چھوٹا ہوتا ہے، مگر قیمت کے اعتبار سے کتنا زیادہ ہوتا ہے، جس عمل میں بھی اخلاص ہو گا وہ ہیرے اور موتی کے مانند ہوگا، حضرت مجدد الف ثانیؒ نے یہ واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ میں بیٹھا ہوا کچھ لکھ رہا تھا مکتوبات وعظ و نصیحت کی باتیں، قلم ٹھیک نہیں چل رہا تھا، تو میں نے ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر ذرا اس کو ٹھیک کیا تو سیاہی لگ گئی، فرماتے ہیں کہ میں لکھتا رہا کچھ دیر کے بعد مجھے قضاے حاجت کی ضرورت محسوس ہوئی تو جب میں بیت الخلاء میں گیا اور ضرورت سے فارغ ہونے کے لئے بیٹھنے لگا تو اچانک میری نظر اس سیاہی پر پڑی تو میرے دل میں خیال ہوا کہ جس سیاہی کو میں اللہ کے کلام اور نبی علیہ السلام کے فرمان کے لکھنے میں استعمال کرتا ہوں اگر میں اپنی ضرورت سے فارغ ہوا اور طہارت کے لئے پانی استعمال کیا تو یہ سیاہی دھل کر اس نجاست کے اندر شامل ہو جائے گی، یہ چیز مجھے ادب کے خلاف محسوس ہوئی، میں نے اپنے تقاضے کو دبایا بیت الخلاء سے باہر واپس آیا، اور پاک جگہ پر اس سیاہی کو میں نے دھولیا، جیسے ہی پاک جگہ پر دھویا اسی وقت الہام ہوا احمد سرہندی

تیرے اس عمل کی وجہ سے ہم نے جہنم کی آگ کو تیرے اوپر حرام کر دیا، اب عمل کتنا چھوٹا ہے مگر چونکہ اخلاص تھا مغفرت کا سبب بن گیا۔

## تین باتوں کا اہتمام

انسان دل میں نیت یہی رکھے کہ میں اللہ رب العزت کی فرمانبرداری والی زندگی گزارنا چاہتا ہوں اس لئے تین باتیں اللہ کے لئے خاص ہیں۔

(۱) ... ایک ”رجوع“ کوشش کی جائے کہ ہمیشہ اللہ کی طرف رجوع رہیں گے اسے کہتے ہیں انابت الی اللہ رجوع الی اللہ منیبین الیہ ثم اناب یہ انابت ہمیشہ دل میں اللہ رب العزت کی طرف ہو۔

(۲) دوسرا ”حتیاج“ کہ انسان ضرورت کے وقت ہمیشہ اپنے رب کی طرف متوجہ ہو، کوئی بھی ضرورت بوجہی کے جوتے کا تمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے پروردگار سے مانگے۔

(۳) ... اور تیسری چیز ”اعتماد“، ہمیشہ اللہ رب العزت کے وعدوں پر کوئی بھی کام کیا جائے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھے، جس بندے کے یہ تین عمل ٹھیک ہوں گے، اسکی زندگی شریعت اور سنت کے مطابق بن جاتی ہے، آج کے دور میں تین باتوں میں قول اور فعل کا تضاد بہت ہو گیا ہے، پہلی بات تو یہ کہ ہم کہتے ہیں ہم اللہ رب العزت کے بندے ہیں مگر کام آزاد لوگوں جیسے کرتے ہیں، زندگی ایسے گزارتے کہ ہیں جیسے ہم من مرضی کے مالک ہوں اور زبان سے کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہم وہ کریں گے جو ہماری مرضی ہوگی، بھی جب کلمہ پڑھ لیا تو ہماری مرضی تو گئی، اب تو رب کی مرضی چلے گی، ہماری مرضی نہیں چلے گی، جو شریعت کا حکم ہوگا بس اب اسی کو فضیلت دیں گے۔

ذرا غور کریں

ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اسکی ملک ہیں وہ ہمارا مالک ہے اللہ تعالیٰ کو بندوں پر اختیار بہت زیادہ ہے نسبت اس کے جو ایک بندے کو غلام کے اوپر ہوتا ہے، تو غلام سے کیا توقع کی جاتی ہے کہ ہر بات میں وہ اپنے آقا کی بات مانے، کیا ہم بھی اپنے پروردگار حقیقی کی بات اسی طرح مانتے ہیں؟ تو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم بندے اللہ تعالیٰ کے ہیں لیکن کام آزاد لوگوں والے کرتے ہیں، ہمیں اپنی کوتاہیاں نظر نہیں آتیں؟ باقی سب لوگوں کے اندر عیب نظر آتے ہیں، اسی لئے کسی عارف نے کہا کہ اے دوست تم لوگوں کے عیب اس طرح نہ دیکھو کہ جیسے تم لوگوں کے آقا ہو بلکہ اس طرح سے دیکھو کہ جیسے تم بھی کسی کے غلام ہو، دوسری بات کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارا رازق ہے رزق دینے والا ہے لیکن دلوں کو اطمینان اس وقت تک نہیں آتا کہ جب تک کہ سب کچھ اپنے پاس حاصل نہیں کر لیتے، زبان سے کہتے ہیں یہ اللہ کے وعدے سچے مگر رزق کے معاملے میں جب تک آنکھ سے نظر نہیں آ جاتا کہ اب سب کچھ آ گیا ہے جیب میں موجود ہے اس وقت تک یقین نہیں ہوتا اس لئے جب بندہ دینداری کی زندگی گزارتا ہے طالب علم بننا چاہتا ہے سب سے پہلے گھر والوں کا یہی سوال ہوتا ہے کہ کھاؤ گے کہاں سے؟ سمجھ ہی میں نہیں آتی یہ بات کہ اللہ رب العزت رزق کیسے پہنچائیں گے؟۔

ایک صاحب بیرون ملک میں ملے وہ کہتے تھے کہ میں تقلید کو نہیں مانتا، فلاں کو نہیں مانتا، کچھ باتیں کرنے کے بعد مجھے کہنے لگے یہ آپ لوگوں کو اللہ اللہ کے سوا اور کوئی کام نہیں؟ تو میں نے اسکے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کہ اللہ کے بندے اللہ کے واسطے قیامت کے دن یہی گواہی دے دینا کہ ان لوگوں کو اللہ اللہ کے سوا کوئی کام ہی نہیں تھا، تو زبان سے تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت ہمارے رازق ہیں، مگر ہمیں اس وقت تک یقین نہیں ہوتا جب تک کہ ہماری جیب میں کچھ آ نہیں جاتا۔

## فکر آخرت

تیسری بات اللہ رب العزت سے ملاقات کے لئے تیاری کی ضرورتیں۔ اس بات کو تو ہم سب مانتے ہیں مگر زندگی ایسے گزارتے ہیں کہ جیسے ہمیں مرنا ہی نہیں ہر بندہ کہے گا کہ جی موت آئی ہے لیکن اگر پوچھا جائے کہ اسکی تیاری کسے کی؟ تو ہم میں سے کوئی بھی ہاتھ کھڑا نہیں کرے گا، تو ہمیں موت کی تیاری کس طرح سے کرنی چاہیے ہم نہیں کر پاتے دنیا ہی کے معاملات میں الجھے ہوئے ہوتے ہیں، دنیا انسان کے جسم کو بوڑھا کر دیتی ہے اور اسکی آرزوؤں کو جوان بنادیتی ہیں عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ آرزوئیں بھی جوان ہوتی چلی جاتی ہیں ہم اپنے کاموں کو سمیٹتے نہیں ہیں یہ تو ایسا ہی ہوا کہ جیسے برات والے گھر پہنچ گئے تھے اور لڑکی والے لڑکی کے کان کہیں سلوانے گئے ہوئے تھے اسی طرح کھڑے پیر انسان کے لئے وقت آئے گا اور سب کچھ سمیٹ کر جانا پڑے گا۔

اچھا ذرا سوچئے ایک مثال کہ اگر کسی دن ہم کام کرنے بیٹھے ہوئے ہوں اور کوئی آکر کہے کہ ابھی اٹھ کر چلو فلاں شہر فلاں کام کے لئے جانا ہے اس وقت ہمیں کتنی مصیبت نظر آتی ہے کہ یار مجھے اس کام کو کرنا ہے اور بھی دوسرے کام ہیں اسی پر موت کو قیاس کرو کہ جب ملک الموت آئیں گے وہ تو اچانک لیکر چلے جائیں گے، اس موت کی تیاری ہمیں اسی زندگی میں کرنی ہے اسکے لئے ہمیں کوئی الگ سے وقت نہیں ملے گا

## اچھے سالک کی علامت

اسی لئے علماء نے لکھا کہ جو اچھا سالک ہوتا ہے اسکی تین علامتیں ہوتی ہیں (۱) وہ اپنے دل سے دنیا کو ٹھکرا دیتا ہے اور دنیا سے نگاہیں ہٹا کر آخرت پر نگاہیں جمالیتا ہے، اسلئے کہ دنیا فانی ہے اور ایک نہ ایک دن ہمیں چھوڑ

کر جانا ہے تو اس دھوکے والے گھر سے اسکا دل کٹ جاتا ہے اور آخرت کی طرف طبیعت مائل ہو جاتی ہے، جب ایسی کیفیت ہو تو پھر انسان دنیا کے پیچھے نہیں پڑتا پھر دنیا اسکے پیچھے آتی ہے، دنیا آخرت کے سائے کے مانند ہے سائے کے پیچھے بھاگو گے تو یہ سایہ کبھی نہیں ملے گا لیکن آخرت کو بنائیں گے تو دنیا خود بخود پیچھے آتی چلی جائے گی انسان کو بن مانگے دنیا تو مل سکتی ہے لیکن بن مانگے آخرت نہیں مل سکتی اس کے لئے محنت کرنی پڑے گی۔

(۲)..... وہ موت کو محبوب سمجھتا ہے، اور آج تو حالت یہ ہے کہ گھر میں اگر آپ موت کا نام لے دیں تو عورتیں نام بھی سننا پسند نہیں کرتیں اور ہمارے اکابرین کا یہ حال تھا کہ موت کو یاد کرنے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے سیدنا عمرؓ نے ایک انگوٹھی بنوائی اور اس پر لکھوایا [کفی بالموت واعظا] موت ہی نصیحت کے لئے کافی ہے اور ایک آدمی کو اس بات پر متعین کیا کہ مختلف محفلوں میں ساتھ رہو اور موقع کی مناسبت سے موت کا تذکرہ چھیڑتے رہا کرو ذرا سوچئے کہ کیا ہم بھی اپنی موت کو یاد کرنے کا کوئی ایسا اہتمام کرتے ہیں، اسی وجہ سے غفلت میں پڑ جاتے ہیں تو سالک کی دوسری پہچان کہ وہ اپنی موت کو محبوب سمجھتا ہے، اسلئے حضرت عمرؓ نے صحابہ کرام کو فرمایا تھا جب رومی کو خط لکھا تھا کہ میرے ساتھ ایک ایسی قوم ہے جو موت کا پیالہ پینا اس طرح پسند کرتی ہے جیسے تم شراب کا پیالہ پینا پسند کرتے ہو، صحابہ کرام جب ملک الموت کو دیکھتے تھے تو کہتے تھے کہ کتنا اچھا مہمان آیا ہم تو اتنے عرصے سے تمہارا انتظار کرتے تھے۔

(۳)..... وہ صلحا کا مقبول ہو، یہ اچھے سالک کی پہچان ہوتی ہے، آپ نے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ علماء ہی پر اعتراض کرتے رہتے ہیں ان کا تصوف میں کوئی حصہ حاصل نہیں جنکو علماء سے حسن ظن حاصل نہیں۔ اور کچھ لوگ علم کے ہی مخالف ہوتے ہیں علم تو ذکر و سلوک کے راستے میں رکاوٹ نہیں بلکہ معاون ہوتا ہے، چنانچہ حسن بصریؒ نے فرمایا کہ میں اور میرا ایک دوست تھے ہم اسلئے



سلوک کے راستے پر چلے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لئے منزل زیادہ آسان کر دی کیوں کہ میں علم میں اپنے بھائی سے بڑھا ہوا تھا تو صلحا میں مقبول ہو، وہ مراد بنے جیسے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی اکرم ﷺ کے مراد بنے جیسے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مراد بنے اور جیسے امیر خسر و خواجہ نظام الدین اولیاءؒ کی مراد بنے، انکے شیخ ان سے اتنا خوش تھے فرمایا کرتے تھے کہ اگر شریعت اجازت دیتی کہ دو بندواں کو ایک قبر میں دفن کیا جائے تو میں وصیت کر جاتا کہ مجھے اور امیر خسرو کو ایک ہی قبر میں دفن کیا جائے، حضرت مرزا مظہر جان جاناؒ نے قاضی ثناء اللہ پانی پتیؒ کے متعلق بھی اسی طرح کے الفاظ کہے ہیں فرماتے تھے کہ اگر قیامت کے دن رب کریم نے مجھ سے پوچھا کہ تو میرے پاس کیا لایا تو میں ثناء اللہ کو پیش کر دوں گا، تو اول تو مراد بنے اور اگر نہیں بن سکتا تو کم از کم مرید تو بنے، ارادت تو دل میں ہو، آج کے دور میں تو ارادت بھی خالی خالی ہوتی ہے، مرید چاہتا ہے کہ میں پیر بن کر رہوں اور پیر سے توقع کرتا ہے کہ وہ مرید بن کر رہے ارادت چوں کہ بختہ نہیں ہوتی اسلئے بہت سارے فیوضات سے انسان محروم ہا جاتا ہے۔

### عجیب واقعہ

کتابوں میں ایک عجیب واقعہ لکھا ہے ایک بزرگ تھے ان سے تعلق رکھنے والے لوگ بہت زیادہ تھے، وقت کے بادشاہ کو خطرہ ہوا کہ اسکے مریدین زیادہ ہوتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ تیرے لئے کوئی خطرہ تو اس نے انہیں بلا کر پوچھا بزرگ نے کہا کہ تجھے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اسلئے کہ یہ جو بھیڑ جمع ہے اکسب مریدین تھوڑے ہیں اس نے کہا کہ نہیں میں نے سنا ہے کہ لاکھوں آپکے چاہنے والے ہیں، فرمانے لگے کہ آپ کو غلط اطلاع ملی ہے ایسا نہیں اس نے کہا کہ نہیں ہم تو خود دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں روز آتے جاتے ہیں

انہوں نے کہا کہ جناب ایسا نہیں ہے میرے تو اس میں کل ڈیڑھ مرید ہیں، تو جب ڈیڑھ مرید کہا تو بادشاہ بھی حیران کہا کہ یہ لاکھوں کا مجمع اور آپ کہتے ہیں کہ ڈیڑھ مرید انہوں نے کہا کہ جی ہاں، اس نے کہا کہ جی میں نہیں مانتا بزرگ نیکیا میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں چیک کرنے کا آپ آزمائیں، چنانچہ انہوں نے بادشاہ کو ایک ترکیب بتائی تو بادشاہ نے اعلان کروایا کہ جتنے بھی انکے تعلق رکھنے والے ہیں وہ سارے کے سارے کے فلاں جگہ جمع ہو جائیں لاکھوں کا مجمع اب وہاں پر بادشاہ نے یہ اعلان کیا کہ بھی دیکھو اس شیخ سے ایک ایسی غلطی ہوئی کو تا ہی ہوئی کہ جسکی وجہ سے آج انکو قتل کرنا ضروری ہے ہاں اگر انکے بدلے کوئی اپنی جان پیش کر سکتا ہے تو پھر ہم انکو معافی دینے کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، اب کون ہاتھ کھڑا کرے وہیں سے لوگوں نے جانا شروع کر دیا تھوڑے سے رہ گئے اس نے کہا کہ بھی ہے کوئی جوانکی جگہ پر اپنے آپ کو پیش کرے تو ایک مرد آگے بڑھا اور اسنے کہا کہ جی ہاں آپ بے شک مجھے قتل کر دیں اور میرے شیخ کو آپ چھوڑ دیجئے، چنانچہ بادشاہ نے خیمہ لگایا ہوا تھا اور خیمہ کے اندر ایک بکری بھی پہنچائی گئی چنانچہ وہ اس مرید کو جو کہتا تھا کہ مجھے آپ بے شک قتل کر دیں اسکو اس خیمہ میں پہنچا دیا اور اس بندے کی بجائے وہاں جا کر اس بکری کو ذبح کر دیا گیا جب بکری کا خون باہر نکلا تو سارے افراد نے دیکھا کہ بندے کو تو قتل کر دیا گیا، اب خوف و ہراس اور بڑھ گیا پھر اس نے اعلان کیا کہ بھی ایک بندے کی اور ضرورت ہے کوئی اور ہے دوسرا جو اپنے آپ کو پیش کرے اب تو خون بھی دیکھ چکے تھے اب کون اپنے آپ کو پیش کرتا، چنانچہ سب خاموش جب بار بار پوچھا تو ایک عورت نے کہا کہ جی ہاں میں بھی اپنی جان پیش کرتی ہوں مجھے قتل کر لو اور میرے شیخ کو تم چھوڑ دو، اس کے بعد پھر کسی اور نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا تو شیخ نے کہا کہ میں نہیں کہتا تھا کہ آپ کو لاکھوں کا مجمع نظر آتا ہے مگر میرے مرید تو اس میں ڈیڑھ ہی ہیں، بادشاہ نے کہا کہ ہاں ٹھیک

ہے مرد کی گواہی پوری اور عورت کی آدھی تو آپ نے ٹھیک کہا کہ مرد پورا مرید اور عورت آدھی مرید اس نے کہا کہ نہیں اسکا الٹ ہے مرد آدھا مرید تھا عورت پوری مرید تھی کہ جس نے خون اپنی آنکھوں سے دیکھا اور پھر اپنی جان دیے کے لئے تیار ہو گئی تو ارادت کہتے تو ہیں، مگر ارادت کی پختگی آج ہر ایک کو حاصل نہیں ہے، اسی بنا پر پھر مقصود ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتا چنانچہ تین باتیں لو ہے کی لکیر ہیں انکو اپنے سینوں پر لکھ لیجئے ہمیشہ انکو سچا پائیں گے۔

## لوہے کی لکیر

..... (۱) سب سے پہلی بات کہ جو بندہ اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اسکے ظاہر کو سنوار دیا کرتے ہیں، آج کل کہتے ہیں کہ میرے لئے یہ رکاوٹ ہے اور وہ رکاوٹ یہ رکاوٹیں اسی لئے ہیں کہ من میں خرابیاں ہوتی ہیں، جو بندہ اپنے من کو صاف کر لے گا ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب رکاوٹوں کو دور فرما دیں گے، ناموافق حالات کو اللہ تعالیٰ موافق بنا دیں گے، تو پہلی بات کہ جو بندہ اپنے باطن کو درست کر لیتا ہے اللہ رب العزت اسکے ظاہر کو بھی درست فرما دیتے ہیں۔

..... (۲) دوسری بات جو بندہ اپنی آخرت کو سنوار لیتا ہے اللہ رب العزت اسکی دنیا کو بھی سنوار دیتے ہیں،

..... (۳) تیسری بات جو بندہ اپنا معاملہ اپنے پروردگار کے ساتھ درست کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ مخلوق کے ساتھ بھی درست فرما دیتے ہیں آج سوچتے ہیں نو جوان کہ جی میں کیا کروں چہرہ پر سنت سجاؤں گا امی ناراض ہو جائیگی، ابو ناراض ہو جائیں گے، فلاں ناراض ہو جائے گا، نہیں شریعت کے معاملہ میں اللہ رب العزت کی رضا سب سے پہلے ہے لاطاعة المخلوق فی معصية الخالق

اللہ رب العزت کی اطاعت سب سے پہلے ہے خاوند کہتا ہے کہ دعا کرو بیوی دین کے معاملے میں ہم سے کو تعاون نہیں کرتی، بیویاں کہتی ہیں دعا کرو دین کے معاملے میں خاوند ہمارا ساتھ نہیں دیتے لیکن ایسی بات نہیں ہوتی اگر یہ میاں یا بیوی اپنے تعلق کو اللہ کے ساتھ ٹھیک کر لیں اللہ تعالیٰ اسکے اور مخلوق کے معاملے کو خود بخود ڈھیک کر دے گا، چور اپنے اندر ہوتا ہے ہم اسے کسی اور جگہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ یہ اولاد ٹھیک نہیں ہے لیکن وہ اولاد میں چور نہیں ہے، چور ہمارے دل کے اندر ہے، ہم اگر اپنے آپ کو سو فیصد شریعت کے اوپر جمالیں گے تو اللہ رب العزت ہمارے اور مخلوقات کے درمیان کے تعلقات کو درست فرما دیں گے اور اگر ہم یہ کہیں کہ جی ہم تو جیسے ہیں سو ہیں بس اولاد ٹھیک ہو جائیں ویسے بھی تو اولاد ٹھیک نہیں ہوتی ہمارے ایک بزرگ تھے انکے پاس ایک بندہ اپنے بیٹے کو لیکر آیا حضرت جی دعا کرو کہ یہ میرا بیٹا نیک بن جائے اور وہ معصوم دودھ پیتا بچہ انہوں نے اس کے چہرہ پر ہاتھ پھیر کر کہا، اچھا ہم دعا کرتے ہیں کہ پہلے اللہ باپ کو نیک بننے کی توفیق عطا فرمائے۔

## تصوف کا پہلا قدم

یاد رکھیں جو انسان اللہ رب العزت کے خلاف بغاوت کا علم بلند کرتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کی دنیا کو بھی برباد کر دیتا ہے تو تصوف و سلوک کا پہلا قدم یہ کہ انسان حتی الوسع کوشش کرے کہ اللہ رب العزت کی نافرمانی نہ کرے اسکا مطلب کیا ہے کیا وہ فرشتہ بن جائیگا؟ نہیں اسکا مطلب یہ ہے کہ دل میں نیت یہی رکھے اگر کسی وقت نفس غالب آئے، شیطان بہکائے اور گناہ کروائے تو فوراً توبہ کے ساتھ، اس نیت کا ارادہ کرے نیت ہر وقت دل میں یہی رکھے کہ میں نے اپنے رب کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، اسلئے گناہوں کی

وجہ سے آج روحانی حالتیں بہت زیادہ ابتر ہو چکی ہیں،

## حضرت مرزا مظہر جان جاناؒ

ہمارے سلسلہء عالیہ کے بزرگ تھے مرزا مظہر جان جاناؒ بڑے ہی با خدا اور صاحب کشف بزرگ تھے ان کے بارے میں شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اس وقت مرزا صاحب جیسا صاحب روحانیت شخص مجھے پوری دنیا میں نظر نہیں آتا، شاہ ولی اللہ محدث دہلویؒ نے لکھتے ہیں انہوں نے اپنے گھر کے ساتھ مسجد بنائی ہوئی تھی وہ روزانہ کی نمازیں تو باجماعت وہاں پڑھتے تھے البتہ جمعہ پڑھنے کے لئے وہ دہلی کی جو جامع مسجد ہے وہاں جایا کرتے تھے چتلی قبر میں حضرت کا گھر تھا اور چند سو قدم کے فاصلے سے وہ مسجد تھی جامع مسجد تو چونکہ حضرت باہر نہیں نکلتے تھے اس لئے مریدین ملنے کے لئے دیکھنے کے لئے تڑپا کرتے تھے، جمعہ کے دن صرف آتے تھے اس لئے ملنے والے ان سے مل لیتے تھے مگر وہ کیا کرتے کہ جیسے ہی مسجد میں داخل ہونے لگتے تھے تو اپنے چہرے کے اوپر کپڑا لے لیتے تھے رومال لے لیتے تھے، اب جو لوگ دیکھنے والے تھے وہ بے چارے اور پریشان ہوتے تو انکا ایک خادم تھا اس نے ایک دن پوچھ لیا کہ حضرت لوگ آپ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپکا دیدار کرنا چاہتے ہیں اور آپ کا معاملہ یہ کہ آپ چھ دن تو باہر نکلتے نہیں اور اگر ساتویں دن نکلتے ہیں تو اپنا چہرہ ہی چھپا لیتے ہیں تو انہوں نے خادم کو بلایا اور وہی اپنا رومال اس کے سر پر ڈال دیا، خادم نے تو چیخ ماری اور بے ہوش ہو گیا جب ہوش میں آیا تو پوچھا کہ بھی کیا بنا تو اس نے بتایا کہ جیسے ہی انہوں نے میرے سر پر رومال ڈالا میں نے لوگوں کی طرف دیکھا تو مجھے مسجد میں چند انسان نظر آئے اور باقی کتے بلی پھرتے ہوئے نظر آئے ان کی روحانی شکلیں جو گناہوں کے سبب تھیں وہ انکو نظر آتی تھی تو مرزا صاحب نے فرمایا کہ

دیکھو یہ کیفیت ہے میری اس وجہ سے میں اپنے چہرہ کو چھپا لیتا ہوں کہ میری نظر ہی نہ پڑے مجھے کسی سے بدگمانی نہ پیدا ہو، تو تصوف و سلوک کا نچوڑ یہ کہ ہم اپنی پوری زندگی شریعت و سنت کے مطابق بنائیں سر سے لے کر پاؤں تک ہم اپنے رب کی فرمانبرداری والی زندگی کو اختیار کریں، یہ تمنا اپنے دل میں ہر وقت رکھیں ورنہ گناہوں کا وبال ہمیں اپنی زندگی میں خود بھی دیکھنا پڑے گا،

## تین گناہ گناہوں کی جرٹ

تین گناہ تمام گناہوں کی بنیاد ہیں

(۱) سب سے پہلا گناہ ”تکبر“ یہ ماں ہے پھر عجب خود پسندی یہ سب اسی تکبر کے اندر سمائی ہوئی ہیں، عرش کے اوپر اللہ رب العزت کی نافرمانی اس گناہ کی وجہ سے ہوئی شیطان نے تکبر کیا۔

(۲) دوسرا گناہ ”حرص“ یہ جو حرص ہے بہت بڑی مصیبت ہے جو انسان میں جو شہوت ہوتی ہے وہ حرص ہی کی اولاد ہے، اصل بنیاد حرص ہوتی ہے اب ایک آدمی کا نکاح ہو گیا بیوی نیک ہے محبت کرنے والی بیلہذا اس کی گھر کی زندگی خوشی سے گزرنی چاہیے، مگر نہیں اس کی نظر کسی اور پر ہے، کس وجہ سے حرص کی وجہ سے، حضرت آدم علیہ السلام سے جو بھول ہوئی تھی جنت میں اس کی بنیاد کیا بنی تھی؟ حرص، یہ اچھی بھی ہوتی ہے بری بھی ہوتی ہے، ان کے دل میں یہ تھا کہ مجھے ہمیشہ جنت میں رہنے کا موقع ملے اللہ تعالیٰ کا قرب نصیب ہو۔

(۳) اور تیسرا گناہ ”حسد“ یہ جو کینہ دل میں ہوتا ہے ایمان والوں کے خلاف، یہ حسد کی وجہ سے ہوتا ہے، اور سب سے پہلا قتل کا جو گناہ ہوا وہ حسد کی وجہ سے ہوا کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔

ان تین گناہوں سے ہم بچنے کی پوری کوشش کریں، تو یہ تین گناہ بنیاد ہیں ان گناہوں سے بچنے کے لئے پوری کوشش کرنے کی ضرورت ہے عمر

گذرتی جاتی ہے اور انسان گناہوں کو چھوڑنے کی بجائے گناہ کی عادت میں پختہ ہوتا چلا جاتا ہے۔

## بوڑھوں کے لئے عبرت

سیدنا عمرؓ ایک دفعہ نبی ﷺ کی خدمت میں پیش ہوئے تو کیا دیکھا کہ نبی ﷺ کی مبارک آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے ہیں عمرؓ بڑے پریشان ہوئے اے اللہ کے محبوب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو نبی ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ ابھی میرے پاس جبریل آئے تھے اور وہ آکر مجھے کہنے لگے کہ جو بندہ کلمہ پڑھ لیتا ہے اور کلمہ پڑھتے پڑھتے اسکے بال سفید ہو جاتے ہیں اس بوڑھے کو مجھے عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے، تو میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو تو بوڑھے کو عذاب دیتے ہوئے حیا آتی ہے مگر بوڑھے کو اللہ کی نافرمانی کرتے کرتے کیوں حیا نہیں آتی۔

اس لئے ایک بزرگ تھے انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹے! گناہ نہ کر اللہ سے حیا کر اور اگر اللہ سے حیا نہیں تو مخلوق سے حیا کر اور اگر مخلوق سے حیا نہیں تو اپنے آپ کو جانوروں میں شمار کر،

## کامیابی کے تین گر

- (۱)..... سالک کامیاب تب ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گناہوں سے بچنے کے لئے اللہ کا خوف موجود ہو، جو بندہ کہے کہ جی میرے دل میں اللہ کا بڑا خوف ہے اور پھر ارادے سے گناہ کا ارتکاب کرے سمجھ لو کہ یہ غلط بیانی کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کے خوف کی پہچان یہ کہ انسان نافرمانی سے بچ جاتا ہے۔
- (۲)..... دوسری بات کہ ایک آدمی دل میں اللہ رب العزت سے نیک امیدیں

رکھے اور نیک امید رکھنے کی پہچان کہ بندہ ہر وقت عبادت میں مشغول رہے جو کہے کہ جی مجھے اللہ سے بڑی نیک امیدیں ہیں اور نمازیں بھی پوری نہ پڑھتا ہو، تو سمجھ لو کہ اسکی امید ٹھیک نہیں ہے اسکی امید غلط ہے۔

(۳)..... اور تیسری بات یہ کہ اس بندے کو ہر وقت اللہ رب العزت کا دھیان نصیب رہے، یاد رکھیں ہر چیز کی پہچان ہوتی ہے محبت کی پہچان دھیان ہوتا ہے، کسی کو محبت ہو کسی۔ تو ہر وقت اس کا خیال رہے گا اس کا دھیان رہے گا، وہ بندہ آپ کو سوچوں میں گم نظر آئے گا، اللہ تعالیٰ سے بھی محبت کرنے والوں کا یہی معاملہ ہے، وہ بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی سوچوں میں گم ہوتے ہیں اللہ کے خیال میں، اللہ تعالیٰ کے دھیان میں، وہ آپ کو گم نظر آئیں گے، اسی کو وقوف قلبی کہتے ہیں، تو ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ لیٹے بیٹھے چلتے پھرتے ہر وقت ہم اپنے دل میں اپنے رب کا دھیان رکھیں۔

## ناکامی کی تین چیزیں

تین چیزیں ایمان ضائع ہونے کا سبب بنتی ہیں

(۱)..... سب سے پہلی بات کہ جو انسان ایمان کی نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اسکے ایمان سلب ہونے کے چانس زیادہ ہوتے ہیں کیوں کہ جس نعمت پر اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے اللہ تعالیٰ اس نعمت کو واپس لے لیتے ہیں، نعمت تب باقی رہتی ہے جب انسان اس نعمت پر اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے اس لئے دعائیں سکھادیں گئیں رضیت باللہ رباً وباللہ اسلام دینا و بسیدنا محمد ﷺ و رسولاً، تو ہم اپنے دل میں بھی یہی سوچیں ہم اپنے رب سے راضی ہیں وہ ہمارا پروردگار ہے ہم نبی علیہ السلام سے راضی ہیں وہ ہمارے آقا اور سردار ہیں اور ہم دین سے راضی ہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی تو پہلی بات کہ ہم نعمت ایمان پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں



(۲)..... اور دوسری بات ایمان کے سلب ہونے کے بارے میں متفکر رہیں جو انسان ایمان سلب ہونے سے بے پرواہ ہو جاتا ہے ایمان وہ ایمان سے کئی مرتبہ محروم ہو جاتا ہے بھئی جب ایک آدمی کو دھیان ہی نہیں کسی چیز کا توصاف ظاہر ہے کہ وہ نعمت اس سے چھین جائے گی، اس لئے کتابوں میں لکھا ہے کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ زندگی بھران کا نام مسلمانوں کی فہرست میں رہتا ہے مگر موت کے وقت مسلمانوں کی فہرست سے نام خارج کر دیا جاتا ہے، حدیث پاک میں آیا کہ قرب قیامت میں ایسا وقت آئے گا صبح میں ایک آدمی ایمان والا ہوگا اور جب شام سونے کے لئے بستر پر جائے گا ایمان سے خالی ہوگا، اس کی وجہ کیا ہوگی؟ کہ شک پیدا کرنے والی باتیں اس زمانہ میں عام ہو جائیں گی، کبھی اللہ کے بارے میں شک، کبھی نبی ﷺ کے بارے میں کبھی دین کی باتوں میں یہ شک بندے کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے۔

(۳)..... اور تیسری بات دینداروں سے نفرت ہونا آپ نے دیکھا ہوگا کئی لوگوں کو کہتے ہیں جی ہمیں مولوی اچھے ہی نہیں لگتے یا کوئی بھی دیندار چہرا ہم کو اچھا نہیں لگتا تو جس بندے کو دینداروں سے نفرت ہو اس بندے کا ایمان سلب ہو جاتا ہے یہ تین باتیں بہت اہم ہیں ایک نعمت ایمان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، دوسرا ایمان کی حفاظت کے لئے اللہ سے ہمیشہ دعائیں مانگتے رہیں اور تیسرا دینداروں کے ساتھ محبت رکھیں۔

## خلاصہ کلام

ہمارے مشائخ نے کہا کہ تمام آسمانی کتابوں کا اگر نچوڑ نکالیں تو تین باتیں بنتی ہیں

(۱)..... پہلی بات کہ انسان کے دل میں سب سے زیادہ خوف اللہ رب

العزت کا ہو، تاکہ وہ گماہوں سے بچ سکے۔

(۲)..... اور دوسری بات کہ بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ سے امید اس کے خوف سے بھی زیادہ ہوں

(۳)..... اور تیسری بات کہ انسان اپنے بھائی کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرے۔

اب بتائیں ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہماری غیبت کرے، ہم کسی کی کیوں کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کوئی ہمارے ساتھ جھوٹ بولے، ہم کیوں جھوٹ بولتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کوئی وعدہ خلافی کرے، ہم کیوں وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ ہم چاہتے ہیں کوئی ہماری عزت کی طرف بری نظر اٹھائے، ہم کیوں کسی کی عزت کی طرف بری نظر اٹھائیں؟ تو جو ہم اپنے لئے پسند کرتے ہیں وہی ہم اپنے بھائی کے لئے پسند کریں اور یہ چیزیں تب نصیب ہوتی ہیں جب انسان کی نیت کے اندر اخلاص ہو ان سب کا دار و مدار انسان کی نیت پر ہے ہمہمارے ایک بزرگ جو بڑے مشائخ میں سے گذرے ہیں انہوں نے پنجابی میں عجیب و غریب اشعار کہے تو ایک شعر ہمارے اس مضمون کے ساتھ بہت منافقت رکھتا ہے لیکن ہمارے کئی دوستوں کو پنجابی سمجھ میں نہیں آئی گی تاہم کچھ اس کا اردو ترجمہ کرنے کی کوشش کی جائے گی فرماتے ہیں۔

جتنی ستیاں رب مل داتے مل دادا داں حسیانوں

لوگ کہتے ہیں کی جی میاں بیوی کا تعلق اللہ تعالیٰ کی معرفت میں رکاوٹ ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر بھائی یہ ازدواجی زندگی سے ہٹ کر زندگی گزارنے سے رب ملتا تو یہ جو حسی جانور ہوتے ہیں پھر ان کو رب مل جایا کرتا انکی ازدواجی زندگی کوئی نہیں ہوتی۔

سر منایاں رب مل داں تے مل دا بھینڈ اسیانو

اگر سر مٹا دینے سے رب ملتا تو اک بھینڑ ہوتی ہے جس کے سر پر بال نہیں

ہوتے انکو رب مل جاتا۔

ناتے دھوتے رب مل داتے مل داکیا چھیا نون  
 نہانے دھونے سے رب ملتا تو پھر چھلیوں کو اور کچھوے کو رب مل جاتا  
 رب مل داتے مل دانیتا اچھیا نون  
 اللہ تعالیٰ تو اچھی نیت والے کو ملتا ہے، ہم اپنی نیت اچھی کریں، ہر ایک  
 کے بارے میں ہماری نیت خیر خواہی کی ہو، کوئی برا بھی کرے ہم اسکے ساتھ  
 اچھا کریں۔

## مؤمن کیسے زندگی گزارے

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کسی نے برا بھلا کہا آپ نے اسکے ساتھ اچھائی  
 کا معاملہ کیا تو دیکھنے والا بڑا حیران ہوا، حضرت اس نے ایسی بد تمیزی کی اور آپ  
 اتنے اچھے اخلاق سے پیش آئے فرمایا کل اناء ینرشح بما فیہ ہر برتن کے  
 اندر سے وہی نکلتا ہے جو برتن کے اندر موجود ہوتا ہے، اسکے اندر شر تھا شر نکلا اگر  
 ہمارے اندر اللہ نے خیر ڈالی ہے تو ہم تو خیر کی بات ہی کریں گے، تو نیت صاف  
 ہو اچھی ہو، کسی کے بارے میں بری نیت نہ ہو، یہ جو ہوتا ہے کہ فلاں کے بارے  
 میں دل میں کینہ، یہ چیز انسان کے دل کو سیاہ کر دیتی ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ جی  
 فلاں نے زیادتی کی اب ہمارے دل میں اس کے بارے میں دل میں کینہ نہ  
 ہو تو اور کیا ہو؟ بھئی اچھائی والے کے بارے میں دل میں کینہ کوئی ہوگا کینہ تو اسی  
 کے بارے میں ہوگا جو برا کرے مؤمن کی عظمت یہ ہے کہ جو برائی کرے اسکے  
 بارے میں بھی دل میں کینہ نہ رکھے، اللہ کے لئے معاف کر دے۔

اس لئے لیلۃ القدر میں ہر گنہگار کی مغفرت ہوتی ہے سوائے چند ایک کے  
 جن میں سے ایک وہ بندہ بھی ہے جس کے دل میں کینہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ شب  
 قدر میں بھی اسکی مغفرت نہیں فرمایا کرتے، کوئی کتنا ہمارے ساتھ برا کیوں نہ  
 کرے، زیادتی کیوں نہ کرے، ہم اس مؤمن کے بارے میں دل میں کینہ نہ

رہیں، اللہ کے لئے معاف کر دیں، اس کی پھر برکتیں دیکھئے، تو نیت میں جب اخلاص ہوتا ہے پھر عمل بھی قبول ہو جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ فیض جاری فرما دیا کرتے ہیں،

آج مدارس تو بہت بنتے ہیں مگر سب مدارس کا فیض تو آگے نہیں چلتا ہم نے دیکھا کتنی عمارتیں بنی ہوئی ہیں اجازت نظر آتی ہیں ایک جگہ عمارت بنائی مدرسہ کی نیت سے اور آج اس کے اندر انگریزی اسکول چل رہا ہے تو ہر ادارے کو تو قبولیت نہیں ہوتی کیوں؟ اخلاص نیت کی وجہ سے فرق آ جاتا ہے، ایک ہوتا ہے عربی کا ہم ایک ہوتا ہے اردو کا ہم، عربی کا جو ”ہم“ ہے اس کا مطلب ”غم“ ہوتا ہے اور اس ہم سے مہتمم بنا ہے کہ جس کے دل میں غم ہو اور ایک اردو کا ”ہم“ کہ ہم ہی ہم ہیں، تو اردو کا ہم ہوگا تو ادارہ گیا، اور عربی کا ہم ہوگا تو ادارہ اللہ کے یہاں قبول ہوگا، ہمارے اکابرین علمائے دیوبند کی زندگیوں کو دیکھیں ایک ایک کی زندگی میں ایسا خلوص ملتا ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے اور اسی وجہ سے ان کا فیض پوری دنیا میں جاری ہوا ہے آج آپ کہیں چلے جائیں آپ کو ہر جگہ علمائے دیوبند کے فرزند بیٹھے دین کا کام کرتے نظر آئیں گے۔

یہ علم و ہنر کا گہوارہ تاریخ کا وہ شہ پارہ ہے  
ہر پھول یہاں اک شعلہ ہے ہر سردیہاں مینارہ ہے  
عابد کے یقیں سے روشن ہے سادات کا سچا صاف عمل  
آنکھوں نے کہاں دیکھا ہوگا اخلاص کا ایسا تاج محل  
کہسار یہاں دب جاتے ہیں طوفان یہاں رک جاتے ہیں  
اس کاغذ فقیری کے آگے شاہوں کے محل جھک جاتے ہیں

تو یہ عظمتیں ملتی ہیں اخلاص نیت کی وجہ سے ہمارے وہ فرد جو دینی ادارے چلا رہے ہیں وہ خدا سے مل رہے ہیں اس کو غم نہ آئے گا، غم نہ آئے گا، اللہ سے توجہ

میں مانگیں نمازوں کے بعد مانگا کریں، جب دل میں غم ہوگا پھر اللہ رب العزت کی طرف سے قبولیت ہوگی، تو آج کی اس محفل میں ایک تو ہم دلوں میں یہ نیت کریں کہ ہم ہر معاملے میں اپنی نیت کو خالصتاً اللہ کے لئے کریں گے، اور دوسری بات کہ ہم کسی کے بارے میں کینہ نہیں رکھیں گے اور تیسری بات کہ ہم ہمہ تن اللہ تعالیٰ کے دھیان میں زندگی گذاریں۔

او آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین

تو برائے بندگی ہے یاد رکھ  
بہر شہر افگندگی ہے یاد رکھ  
ورنہ پھر شہر مندگی ہے یاد رکھ  
چند روز تہنہ گی ہے یاد رکھ